

فیوض الحسرین

ہشادار و معارف

تضییف

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی مسٹوں

ترجمب

پروفسر محمد سرور

مقدمہ

جمیل نقوی الحنفی

ناشر

ڈارالشاعر

اردو بازار کراچی ۰۴۲-۰۳۶۷۸۷۱-۰۳۶۷۸۷۲

حدیث نو لاکھ

شان علما ٹھہریت

۱۷۰/۲

مشاهدات و معارف

بیوپل کریم

حافظہ حبیب ۲۴ جلدی

مصنف

حضرت شاہ ولی اللہ


ترجمہ

پروفیسر محمد سرور

مقدمہ:- جمیل لقوی صاحب

د اس الاشاعت

اردو بازار، کراچی ۱ فون ۳۶۳۱۸۶۱



طبع اول

شالام

خیل اشرف عثمان

طباعت — احمد پرنگ کارپورشن

ملنے کا پتہ:

دارالإشعاع — اردو بازار کراچی

ادارۃ المعارف دارالعلوم کونسٹنگ، کراچی

مکتبہ دارالعلوم، دارالعلوم کونسٹنگ، کراچی

ادارۃ اسلامیات، ۱۹۰۔ آنارکی، لاہور

بیت القرآن، اردو بازار کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فُهْرَسُ مَصَالِحٍ فِي وُضُوْعِ الْحَرَمَةِ

پیش لفظ
مقدمہ

۲۱
۵

پہلا مشاہدہ
۵۲ عقیدہ و درت الوجود کے ماتحت والوں اور نہ ماتحت والوں میں مباحثہ
دوسرा مشاہدہ
۵۹

اللّٰہ تعالیٰ کی تدلی کی حقیقت۔

(۱) انسان کی باطنی استعدادیں (لطائف)۔

(۲) بندے کا اپنے رب کو دیکھنا اور اس سے کلام کرنا۔

(۳) شاہ صاحب کی روح آفتاب سے ملاقات کرنا۔

(۴) نفوس میں باہمی تاثیر اور تاثر کے طریقے۔

(۵) انسان کی جس مشترک کا بیان

۷۳

تیسرا مشاہدہ
شعائر اللہ اور ان پر عمل کرنے والوں کی قسمیں

۷۵

(۱) تدلی الہی کا واسطہ ہونا اللہ اور بندوں کے درمیان ملاپ کا

۲) تدّلی الٰہی مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتی ہے اس کی حکمت اور اس کے اسجاپ۔

۳) وجود مطلق سے شخص اکبر کا ظہر، اس کے ادراک میں تدّلی الٰہی کا قرار پذیر ہونا اور اس ایک تدّلی سے حالات و مقتضیات کے مطابق فردًا فردًا تدبیات کا نزول۔

۴) شخص اکبر سے افلاک و عناصر و اعیان انواع کا ظہر۔
۵) بنی نوح انسان کے مثالی پیکر سے افراد انسانی کا نکلنا، ان افراد کی ہمیں ان کے لفوس اور ان کی انسانیت کے جو ہر کا خبیرۃ القدس میں متشکل ہونا اور اس مقام پر تدّلی الٰہی کا نزول۔

۶) بندوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے خبیرۃ القدس سے اس تدّلی کا کام تذا اور خارجی حالات و اسباب کی مناسبت سے اس کا مختلف صورتوں میں مشخص اور معین ہونا۔
۷) تدّلی الٰہی کی مشخص اور محبسم صورتیں۔

(ا) ثبوت۔ (ب) نماز۔

(ج) الہامی کتابیں۔ (د) ملت یعنی شریعت۔

۸) شریعت کے احکام کا لوگوں کی عادت کے مطابق ہونا۔
۹) تدّلی سے مقصود چونکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور ان کے اخواج کو اطاعت کا عادی بنانا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ تدبیات اور شریعتیں ہمیشہ لوگوں کے مسلمات اور جو چیزیں کہان کے ہی مشہوں ہوں اُن کے مطابق ہی صورت پذیر ہوں۔

۱۰) انجاز و خرق عادات کے معنی۔

۹۵

پاپخواں مشاہدہ
ملا اعلیٰ اور ملائسافل کے فرشتوں کا روحانی نکمال حاصل کرنے کے فرائع۔

۹۹

چھٹا مشاہدہ
حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؑ کا خواب میں آنا، شاہ صاحب کو رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلم عطا کرنا اور آپ کی چادر مبارک اڑھانا۔

۱۰۱

ساتوال مشاہدہ
۱) ایمان کی قسمیں۔ ایمان بالعیان یعنی واضح اور روشن دلیل دیکھ کر ایمان
لانا اور ایمان بالغیب۔

۲) فرد کامل وہ ہے جو ایمان کی دونوں قسموں کو اپنے اندر جمع کرے۔

۳) خانہ کعبہ میں نماز تہجد کا واقعہ۔

۴) شاہ صاحب کے والد اور چچا کا یہ ارشاد "اللہ کی مخلوق میں سے کسی
شخص سے بھی، اگر وہ عاقل و بالغ ہے، شرع کی قیود نہیں اٹھ سکتیں۔
اور اس کے ساتھ دونوں بزرگوں کا اللہ تعالیٰ کے اس الہام کو برحق جانا
کہ تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو عبادت کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ ان دونوں
میں تطبیق۔

۱۱۱

آٹھواں مشاہدہ

۱) انسانی زندگی کے روحانی نعمات۔

(ا) نور اعمال

(ب) نور رحمت یا نور پیار داشت

(ج) نور احوال

② شہد لئے بدی حضرت ابو ذر عفاری کے مزارات اور رسول اللہ صلی اللہ
وسلم کے مولد مبارک پر حضری اور وہاں الوار رحمت اور الوار اعمال کو
روشن دیکھنا۔

۱۱۷

نوال مشاہدہ

① روضۃ اطہر کی زیارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک
کو ظاہر اور عیاں دیکھنا۔

② بے شک انہیاً کو اور وہ کی طرح موت نہیں آتی وہ اپنی قیروں میں نازیں
پڑھتے اور حجج کرتے ہیں ... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس
حدیث کی حقیقت۔

۱۱۸

دسوال مشاہدہ

① روضۃ اطہر پر حاضری اور شاہ صاحب پر آپ کے فیضانات۔

② شاہ صاحب کا دیکھنا کہ آپ اپنے جو ہر روح، اپنی طبیعت، اپنی قدرت
اور حیلہ میں سرتاسر مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم اشنان تدبی کے
جو تمام بنتی نوع بشر پر حادی ہے۔

③ شاہ صاحب کا آپ سے سوال کرنا کہ مذہب فقہ میں سے کون سامد،
اُن کے نزدیک ارجح ہے۔

④ طریق تصوف کے متعلق شاہ صاحب کا آپ سے استفسار۔

شاہ صاحب کا مجددیت، وصایت، قطبیت اور امامت کے مقامات
پر سرفراز کیا جانا۔

ذاتِ حق کو دنیا والوں سے اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو بستی میں ہیں،
قریب ہونے کے لئے ضروری تھا کہ اس کی عنایت اس غرض کے لئے کسی انسانی
لسمہ کو واسطہ نہاتی۔ یہ انسانی لسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کی ذات
اقدس تھی۔

گیارہواں مشاہدہ

۱ آجھی آدم کا خمیر پائی اور مٹی میں تیار ہو رہا تھا کہ میں بنی تھا۔ شاہ صاحب کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اس ارشاد کی وضاحت چاہئنا۔

۲ آدم کی تخلیق اور ارواح بنی آدم کا عالم مثال میں ظاہر ہونا۔ بنی علیہ الرحمۃ والسلام
کا مثالی پیکرا اور اللہ تعالیٰ کی تکلیٰ کا جو تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے
متینی آپ کے مثالی پیکر پر منطبق ہونا۔

۳ عالم مادی میں افراد انسانی کا وجود میں آنا، انبیاء کی بعثت کا سلسلہ آخر میں آپ
کا میتوخت ہونا، آپ کی بعثت کی عجمی اور دوامی حیثیت۔

۴ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علومِ حکمت، فنون اور فنون خطابت
اور علومِ شرعیہ کو کیوں آتنا فرع ہوا۔

۵ ذاتِ مطلق سے شخص اکبر کا ظہور، شخص اکبر کا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا
شخص اکبر کی یہی معرفت قائم مقام بن گئی، ذاتِ حق کی، شخص اکبر سے عنصر و
افلاک کا ظہور، عناصر و افلاک کے بعد معدنیات، بیانات، حیوانات اور بنی
نوع انسان کا ظاہر ہونا، ان میں سے ہر ہر فرد میں اپنی اپنی استعداد کے
مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت جو اُسے شخص اکبر سے حصے میں ملی ہے، موجود ہونا
نفس انسانی کی اس معرفت یا اس کے اس نقطہ تدبی کو پیدا کرنے میں ملا اعلیٰ
کا ہاتھ۔ ملأ اعلیٰ کی نوعیت، جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے، ملأ اعلیٰ کی تعداد

اور لازماً اُن کی تائیپریضتی جاتی ہے اور اسی کا تیجھ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علوم و فنون کو پہلے سے زیادہ فرد عن قابل ہوا۔

پارھوں مشاہدہ:

① شاہ صاحب کے نفس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملحتی ہوتا اُس سے انسانی لفوس کے حالات و کوائف کے مطابق شرعی احکام و قواعد کے معارف کو استنباط کرنے کا جو علم انہیں عطا کیا گی تھا اُس کے پارے میں اُن کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا۔

② شاہ صاحب پر ذاتِ حق کی نظرِ عنایت کا فیضان اور اُس کے اثرات۔

تیرھوں مشاہدہ:

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ "سجدوں میں توبہ معاکرو" اور نیز آپ کے اس حکم کا کہ "کثرت بحود سے اپنے نفس کی مدد کرو" مطلب۔

② شاہ صاحب کا اپنے آپ کو غیرِ تناہی دیکھنا۔

چودھوں مشاہدہ:

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی حقیقت کا تمام لباسوں سے منزہ اور مجرد ہو کر شاہ صاحب کے سامنے تخلی فرمانا۔

پندرھوں مشاہدہ:

① اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیجی جس سے مقصود کل بثی نوع انسان کو برداشت دیتا تھا اور وہ عالم مادی کی تخلیق سے پہلے عالم مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی پیکر پر منطبق ہوتی۔ اور آپ کے ساتھ عالم مثال سے وہ عالم مادی میں بھی منتقل ہو گئی۔ شاہ صاحب کا اس تدبیج کے مثالی مظہر سے متصل ہوتا اور اس سے گھل مل جانا۔

۲) اس تدلی کے مثالی مظہر سے دو قالب ہیں۔ ایک زیادہ مبکل اور زیادہ عام اور دوسرا اس کا تابع، لیکن اپنی جگہ مستقل، شاہ صاحب کا اس مثالی مظہر کا دوسرا قالب ہوتا۔ یہ قالب وجود علمی کے قریب ہوتا ہے (یعنی انسانوں کی مہدیت کے نئے جو عمومی اور اپدی اصول دین ہیں اور جن کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، شاہ صاحب کا ان اصولوں کا عمل احاطہ کرتا)۔

۳) تدلی اعظم کے اس مثالی مظہر سے متصل ہونے کے نتائج، شاہ صاحب کا مجددت و صایت اور طریقت کی امامت کے معماں پر سفران ہونا اور آپ کو "ذکی" اور "تفاقاط علم کا آخری نقطہ" کے لفاظ سے یاد کیا جانا۔

صوتھوال مشاہدہ :

۱۶۱) وہ تدبیر واحد جس کا مبدلے اول سے فیضان ہوا اور یہ سارے کاموں عالم بس اسی کی تفضیل ہے اس تدبیر واحد کی اصل حقیقت ہی کام "حقیقت محدث" ہے۔ اس حقیقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس سے بھلی کی طرح روشن ہوتا اور شاہ صاحب کا اس کو اپنے اندر جذب کرتا۔

صوتھوال مشاہدہ :

۱۶۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہ صاحب کو سلوک کے راستے پر چلانا اور خود ان کی تربیت فرمانا۔

اٹھارہوال مشاہدہ :

۱۶۳) طریقہ سلوک کی اصل حقیقت، طریقہ سلوک و اذکار و افکار نہیں جو دنیا میں راجح ہوتے ہیں بلکہ طریقہ سلوک کی اصل وہ ارادۃ الہی ہوتی ہے جو ملاہ اعلیٰ میں

قائم ہے۔

۱ ملک اعلیٰ کے اس ارادہ الہی کا دنیا میں کسی شکل میں نزول ہوتا ہے

۲ طریقہ سلوک کا حامل صرف وہ شخص بنتا ہے جو اپنی جیلت سے مبارک اور پاک ہوا اور اُسے غیرہ سے مدد ملے۔

۱۸۵ ایسوال مشاہدہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب کو حنفی مذہب کے ایکٹے اپنے طریقے سے آگاہ فرمانا ہو مشہور احادیث سے موافق ترین ہے۔

پیسوال مشاہدہ

میری قبر اور منبر کے درمیان کا قطعہ جنت کے باعینچوں میں سے ایک باعینچہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح۔

۱۸۹ ایسوال مشاہدہ

۱ علماً اور صوفیا کے طریق کا رکابیان۔

۲ تقرب الی اللہ کے دو طریقے۔

(۱) ایک بالواسطہ یعنی طاغات و عبادات کے ذریعہ اعضاء و جوارح کی، اور ذکر و تذکیرہ اور اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے ذریعہ قول کے نفس کی تہذیب و اصلاح۔

(۲) دوسرا بلا واسطہ یعنی اللہ اور بندے کا براؤ راست اتصال، اپنے "انا" کی حقیقت کو پیدا کر کے اس کے ضمن میں ذات حق کا شعور حاصل کرنا۔ اسی سلسلہ کے پہ "فنا ولقا" اور "جذب" اور "توحید" وغیرہ مقامات ہیں۔

۳ دونوں طریقوں میں کس کو تفویق ہے۔

پانچسوال مشاہدہ:

۱۸۳

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کس چہرتے سے افضل ہیں۔

اور حضرت علیؑ ان دونوں سے کس لحاظ سے افضل ہیں۔

۱۸۴

نیصسوال مشاہدہ:

اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تشریع۔

۱۸۵

چھوٹیسوال مشاہدہ:

علم حدیث کی فضیلت کا بیان

۱۹۱

پچھلیسوال مشاہدہ:

عارفِ کامل کی روح کا مقام عروج

(ا) ملأ اعلیٰ کی ایک بلند اور عالی مرتبہ بارگاہ مقدس۔

(ب) ملأ ساقی کی ترقی کا منتها۔

۱۹۶

پچھلیسوال مشاہدہ:

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے فیضِ صحت سے معرفتِ الہی کے سلسلہ میں شاہ صاحب پر علوم کا منکشافت ہونا۔

(ا) عارف میں اجزائے فلکی کا ظہر و بُرماقی اور اُن کا حکم پڑا موثر ہوتا ہے اور یہی فلکی اجزاً ذریعہ بنتے ہیں اس عالم میں الہی تعااضوں کے قیام کا۔

(ب) عارفِ کامل کے لئے ضروری ہے کہ دُنیاوی، جسمانی اور روحانی علاقے پوری طرح دور ہوں، اس کی کیفیات اور جذبات میں تزویزگی ہوا اور اس غور و فکر نے کہ وجود حق م موجودات میں کس طرح چاری وساری ہے اور مبدل کے اوقل اپنے ارادۂ حیات میں عالم کے مظاہر جیسا میں کیسے متوجہ ہوتا

ہے، اس شخص میں فرسودگی نہ پیدا کر دی ہو۔

(ج) ہر وہ عارف جو معرفت حق میں کامل ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی اخذ کرتا ہے اپنے ہی نفس سے کرتا ہے۔

(د) عارف کامل اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اسماء اور اس کی تذکیات کے ماسوا جو کچھ بھی ہے اُن سب کو مسخر کر لیتا ہے۔

(س) عارف کامل کی روح اس کے طریقہ تصوف، اس کے مدھب، اس کے سلسلہ طریقت، اور وہ ہر چیز جو اس کے قریب ہے، یا ان کی طرف منسوب ہے، اُن میں سے ہر ایک کے ہر ایک پہلو پر نظر رکھتی ہے اور اس پر برا بر توجہ رہتی ہے اور عارف کامل کی روح کی اس توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے۔

(س) عارف کامل کو ان تمام نعمتوں سے سرفراز کیا گیا ہے جو نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، جمادات، بیاتات، جوانات، انسانوں اور افرشتوں کو اور انسانوں میں سے جوانبیا، اولیاً اور بادشاہ ہیں اُن سب کو عطا فرمائیں۔

۲۰۵

ٹھائیپسوال مشاہدہ ۵:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ”ہمارا رب مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟“ آپ نے فرمایا ”اعمالیں“ اس حدیث کی تشریح ح

۲۰۹

ٹھائیپسوال مشاہدہ ۶:
عارف کا اپنے مقام سے ترقی کر کے ”مقام قدس“ میں پہنچنا۔

- ① مقام قدس کے مشاہدات۔
- ②

اُنٹیسوال مشاہدہ

۲۱۳

- ① عارف کا "مقام حق" کی طرف کھینچ جانا۔
- ② سورہ النفال کے آخر نے کا واقعہ بطور ایک مثال کے۔

پیسوال مشاہدہ:

لور عرش کی تحقیقت

اکٹیسوال مشاہدہ

- ① شاہ صاحب کی طبیعت کے رجحان کا امباب کی طرف اور روح کے رجحان کا توکل کی طرف ہوتا اور آپ کا روح کے کہنے پر چلتا۔

- ② شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ذریعہ عالم مرحومہ کے منتشر اجزا کو جمع کرنے۔ اس لئے ایک تو ان کو فروعات میں اپنی قوم کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے فہر میں ان کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیئے جو فقرہ خنفی اور منت دلوں کے مطابق ہو۔

- ③ آپ کو وصیت کی گئی کہ انبیاء کے طریقے کو اختیار کریں اور ان کے بارہ میں گل کو اٹھائیں۔

پیسوال مشاہدہ

۲۲۳

- آئمہ اہل بیت کی قبور کی طرف توجہ کرنے سے شاہ صاحب پر ان کے خاص طریقہ معرفت کا انکشاف۔

پیسوال مشاہدہ:

- ① غیر اللہ سے تعلقاتِ محبت کو بالکل منقطع کرنے، صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے، غیر اللہ سے حضرت ہبیلہ علیہ السلام کی طرح عداوت کرنے اور اللہ کے ساتھ محض علم و معرفت کے اغفار سے نہیں بلکہ عمل اور واقعی عشق و محبت

رکھنے میں جس عارف سے کوتا ہی ہو وہ فریب زدہ ہے۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بعض ایسے امور کا استفادہ چوکہ شاہ صاحب کی طبیعت کے بالکل خلاف تھے۔

(۲) آپ کو اسباب کی طرف التفات ترک کرنے کو کہا گیا اگر آپ کی طبیعت کا رجحان اسباب کی طرف تھا۔

رب، آپ کو کہا گیا کہ فقر کے یہ چوار مذاہب میں ان کے پابند نہیں اور ان کے دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ اگرچہ شاہ صاحب کو تقلیدِ مذاہب سے قطعاً انکار تھا۔

(۳) آپ کو حضرت علی پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کو افضل ملنے کا حکم دیا گیا۔ گواں معاملہ میں شاہ صاحب کی طبیعت کا رجحان حضرت علی کی تفضیل کی طرف تھا۔

چوتھیسوال مشاہدہ

خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے شاہ صاحب کا اپنے نور کو دیکھنا جس نے تمام اقیمتوں کو ڈھانپ لیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ قطبیت کا نور ہے جو انہیں دی گئی ہے۔

پنجمسوال مشاہدہ

خانہ کو دیکھنا کہ ملائی اور ملائی اسفل کی تھیں اس کے ساتھ والبستہ ہیں۔

چھتیسوال مشاہدہ

(۱) شاہ صاحب پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔

(۲) دنیا اور آخرت دونوں کے موافقے سے آپ کو مامون کر دیا گیا۔

(۳) اطمینان بخش زندگی دی گئی۔

(۴) خلافت پاٹنی کی خلوت عطا ہوئی۔

۲ آئندہ عطا کی چانے والی نعمتوں کا عارف پر انکشاف۔

(ا) کشفِ الہی کے ذریعہ۔

(ب) کشفِ کوئی کے ذریعہ۔

۳ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خلافیتیں۔

(ا) خلافتِ ظاہرہ۔

(ب) خلافتِ باطنہ۔

سینیسوال مشاہدہ:

۲۹۱

شاه صاحب کا دیکھنا کہ اُن کی روح میں بڑی وسعت اور فراخی پیدا ہو گئی ہے
اس کا راز۔

اڑتا لیسوال مشاہدہ:

۱ قضا کار و بہ حرکت ہوتا۔

۲ عارفوں پر قضا کا منکشافت ہونا اور اُن کی دعائی سے اس کا ٹھیک چانا۔

۳ اللہ تعالیٰ کسی عارف سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہے اور وہ بیات و عدے
کے مطابق نہیں ہوتی بادیجود اس کے کہ یہ وعدہ سچے الہام کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اس اشکال کی تشریح۔

۴ مخلوقات کے ظہور کا سلسلہ ارتقاء

ر، ظہور کی علت العدل ارادۃ الہی ہے۔

(ا) اسماء، اعیان، طبیعت کلییہ کا ظہور۔

(ب) طبیعت کلییہ سے اذاع کا ظہور۔ اذاع سے افراد کا ظاہر ہونا۔

۵ اتنا لیسوال مشاہدہ:

۲۹۲

۱ مخلق سمعت صارع اور یہ عبارت ہے عارف نجت نفس ناطقہ میں ان اعمال اور

اخلاق سے متعلق پیداری سے چونفسِ ناطقہ اور اللہ کے یا عارف کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہیں اور یہ خلق عبارت ہے نفس ناطقہ کے نظام صالح کی طرف ہدایت پانے سے، ایسا نظام صالح جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔

جو شخص "خلق سمت صالح" کا حامل ہوتا ہے اس کامل کے اندر سرِ الہی نقش ہو جاتا ہے اور اس کی زبان ترجمانِ بُلْتی ہے شرائعِ الہی کی۔ ②

حضرت عمر رضا سی طرح کے حامل تھے۔ ③

شاہ صاحب کو خلق سمت صالح کے علم کا ایک حصہ عطا کیا گیا اور لوگوں کے لئے قربِ الہی کے جو طریقے ہیں ان کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کیا گیا۔ ④

۲۷۱

چالیسوال مشاہدہ

شاہ صاحب کو روح کی حقیقت سے مطلع کیا گیا۔ ①

روح کے مدارج جسم ہوائی، حقیقتِ مثالی، حقیقتِ روحیہ، صورتِ انسانیہ صورتِ جیوانیہ، صورتِ نامویہ، صورتِ جنمیہ، طبیعتِ کلیہ اور باطنِ الوجود کا خارج میں بسط ہوتا۔ ②

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله وسلم کا ارشاد ہے کہ "ہر بُنی کو ایک دعا لیسی مرحمت ہوتی ہو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر بُنی نے اپنی اپنی دُعاء مانگ لی۔ لیکن میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی اور وہ قیامت کے دن اپنی امرت کی تشفیہ کے لئے مانگوں گا۔ آپ کے اس ارشاد کی وضاحت۔ ③

اکٹا لیسوال مشاہدہ:

شاہ صاحب پر تخلیق و ایجاد کے علوم کا بالعوم اور عالمِ چال میں جو تخلیق ہوتی ہے اس کے علوم کا بالخصوص فیضان ہونا اور نیز دو متضاد چیزوں اور

روضدول میں تطبیق دینے کا علم عطا ہوا۔

تخلیق و ایجاد کی کیا نوعیت ہے۔ ④

منا قص اور متضاد پیروں میں تطبیق کی مثال۔ ⑤

پیالیسوال مشاہدہ:

۲۸۵

شاہ صاحب پر مبدائے چیات کے اسرار کا منکشف کیا جانا۔

پیالیسوال مشاہدہ

۲۸۹

اولیاء اللہ سے کرامات کس طرح ظاہر ہوتی ہیں۔ ①

اولیاء اللہ کی دو قسمیں۔ ②

(ا) ایک وہ جن کے نفسِ ناطقہ کی ہمت اُن کے سامنے متمثلاً ہو جاتی ہے۔

(ب) دوسرے وہ جن کے نفسِ ناطقہ کی ہمت اُن کے سامنے متمثلاً نہیں ہوتی

اولیا کے خاص اوقات۔ ③

دل رجحانات اور باطنی تفاضلوں کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے دو طبقے۔

پوالیسوال مشاہدہ

۲۹۴

شاہ صاحب کا تاریخی خواب۔ ①

(ا) اپنے آپ کو "فَاتَمُ الزَّمَانَ" دیکھنا "یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا نظام خیر قائم کرنے کے لئے آپ کو ذریعہ بنانا۔

(ب) کفار کے بادشاہ کا مسلمانوں کے شہر پر قابض ہونا۔ اور اجمیع میں کفر کے شعائر اور رسول کا جاری کرنا۔

(ج) اللہ تعالیٰ کا غضب میں آنا اور رحمی کے ساتھ شاہ صاحب کا بھی غصب ناک ہونا، اور ہر "نظام کو نظر دو" فرمان۔

(د) شکر کفار سے مسلمانوں کا رُننا اور کفار کے بادشاہ کا قتل کیا جانا۔

پہلی بیسواں مشاہدہ

وحدت سے کثرت کے ظہور کا باعث، وحدت کی یہ حرکت جو وجود کی اکثرت میں تدریجیاً ملتی ہوتی ہے اس کا باعث پاک اور مقدس محبت ہے۔

اپنائے امر میں یہ محبت بسیط تھی۔ بعد میں اس سے جزوی محبتیں ظاہر ہوتی چلی گئیں۔

ہر یہ فرد میں ایک نہ ایک جزوی محبت ہوتی ہے۔

افراد کا مدرج کمال۔

(۱) ایسا فرد جو جامع ہو الہیات اور کونیات کے دونوں عالموں اور اس سے مقصود کل عالم کے ظہور کی تدبیر ہو، تو وہ فرد "نبی" ہوتا ہے۔

(ب) ایسا فرد "جس کے ظہور سے مقصود ایسے کمالات کا اثبات ہے اُن کی وجہ سے الہی قوتیں کو بناتی قتوں پر غالب آجائیں تو یہ "فرد" ولی ہوتا ہے۔

(ج) "فرد" کے سفر کمال کا ذکر۔

(د) انسان کے دس ظاہری قیمتیں اور رُآن کے اثرات۔

(ز) فرد کی خصوصیات۔

(س) بعض طبائع کے لئے حسین چیزوں سے لذت اندوز ہونا ہی "ذکر الہی" بن جاتا ہے۔

سید عبدالسلام بن بشیر مشہور صوفی کی مندرجہ ذیل دعا کی تفسیر،

"اے ربِ اصحابِ اعظم کو میری روح کی زندگی بنا، اور میری وہ جماعت اعظم ہے جس کی روح میری حقیقت کا راز ہے اور اس جماعت اعظم کی حقیقت ہی حق اول کے مستحق ہونے کے ذریعہ میرے تمام عالموں کو جامع ہے۔"

(ا) بُنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس کے ظہور کی تین نشائیں۔

حقیقتِ محمدیہ

روحِ محمدیہ

ذاتِ محمدی کا ظہر و مادی:

(ب) دُعا کا حاصل مقصود: موصوف اللہ تعالیٰ سے اپنی فطری استعداد کی نیان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں بُنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ان تین نشائیوں میں بالا جمال اور ان میں سے ہر ایک نشائۃ کے مخصوص کمالات میں سے بالتفصیل آپ کا وارث بناتے۔

④ عارف کے وصال باللہ کی نوعیت: عارف جب اپنے "انا" کی حقیقت کو منزہ اور مجرد کر لیتا ہے تو اس صحن میں اُسے ذاتِ حق کا وصال ہوتا ہے۔

⑤ ذاتِ حق کو اشیا کا علم کیسے ہوتا ہے: اس علم کی دو وجہیں۔

اہم چھپالیسوال مشاہدہ:

① کسی ملت یعنی شریعت اور کسی مذہب یعنی فقہی مسلک کے حق ہونے کے معنی:

رب، معنی خنی

② معنی جلی

③ مذہب خنی کے حق ہونے کے ایک عجیق راز کا شاہ صاحب پر کھولا چانا۔

اہم مشاہدہ

① شاہ صاحب پر "صراطِ مستقیم" کی حقیقت کا انکشاف۔ انسانوں میں سے ہر طبقہ کا خواہ وہ طبیقرہ ذکی ہو یا غبی۔ اپنا اپنا صراطِ مستقیم ہوتا ہے۔

② انسان افعال میں سے ہر ایک فعل کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، جو اس کے ظہور پذیر ہونے کا باعث بنتی ہے۔

③ اسی طرح شریعتوں کے ظہور پذیر ہونے کی بھی اپنی علت ہوتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
 وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

پیشِ فقط

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

محض سوائخ | شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ۲۷ ربیوالله مطابق

۱۰ فروری ۱۸۰۴ء احمد بروز چہار شنبہ بوقت طلوع آفتاب قصہ پہلتے
میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگ گوارشاہ عبد الرحیم نے آپ کا نام غظیم الدین کھا
شاہ عبد الرحیم ایک عالم فاضل صاحب نسبت بزرگ تھے جو غظیم الدین سے تاریخ
ولادت بھی نکلتی ہے لیکن آپ نے شاہ ولی اللہ کے نام سے شہرت پائی۔

ولی اللہ کے علاوہ شاہ صاحب کے کئی اور نام بھی کتب تو ایک میں ملتے ہیں
یعنی قطب الدین، احمد اور عبد اللہ۔ قطب الدین، حضرت قطب الدین بن جیار کا کی
کے حسب بشارت رکھا گیا تھا۔

احمد خود اُن کے والد کا رکھا ہوا نام ہے اور خود شاہ صاحب نے اپنا نام
عبد اللہ رکھا تھا۔ شاہ عبد الرحیم کے قول کے مطابق شاہ صاحب کی کنیت ابو الفیاض
عالم ملکوت کی مقرر کردہ ہے۔

چودہ سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی اور محض رہی عرصہ میں اپنی کائنات کا
ہو گیا۔ یہ شادی ماموں زاد بہن سے ہوئی تھی جو ان کے بڑے ماموں شیخ عبد اللہ
پھلسی کی صاحبزادی اور شاہ محمد عاشق کی ہمیشہ تھیں اُن کے بطن سے ایک صاحبزادہ

شیخ محمد اور ایک صاحبزادی امیر العزیز پیدا ہوئیں جن کی شادی شاہ محمد عاشق کے صاحبزادہ محمد فائق سے ہوئی تھی۔

کہاں میں شاہ صاحب کا دوسرا عقد مولوی سید عامد سونی پتی کی صاحبزادی سے ہوا جن کے بطن سے شاہ عبدالعزیز (۱۸۲۳ء - ۱۸۶۷ء) شاہ رفیع الدین (۱۸۹۱ء - ۱۸۱۷ء) شاہ عبد القادر (۱۸۱۳ء - ۱۸۵۲ء) اور شاہ عبد الغنی (۱۸۸۱ء - ۱۸۵۵ء) پیدا ہوئے۔

شاہ صاحب کا وصال ۱۴۳۰ھ محرم ۱۴۳۱ھ (مطابق ۰۲ اگست ۱۹۱۲ء) کو وقت ظہر اکٹھ سال چاہ ماہ کی عمر میں ہوا۔ "او بودا م اعظم دین سے تاریخ دفاتر نکلتی ہے" (ہلی شهر سے بجانب جنوب ترکمان دروازے کی طرف آپ کا مزار ہے۔
شاہ صاحب کی مکتبی تعلیم کا آغاز پانچ سال کی عمر میں ہوا۔ ساتویں سال قرآن بحیدختم کیا اور اسی سال (۱۳۶۸ھ) فارسی کتابیں پڑھنے کا آغاز ہوا۔ دس سال کی عمر میں شرح ملکتک پہنچ گئے۔ پندرہ سال کے ہوئے تو پیغمبر ای کا کچھ حصہ پڑھا اور بقول ایک مستند سوانح نگار "اس موقع پر اس وقت کے رواج کے مطابق شاہ عبد الرحیم صاحب نے خواص و عوام کی دعوت کی جس پر درس کی اجازت دی گئی اور اسی سال (العمر ۱۶ سال) تعلیم سے فراغت حاصل کی۔

علمی کارنامے | تعلیم سے فراغت حاصل کرنے تک اس زبان کے رواج اور خود پڑھیں اُن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

سوائی خذ و اختصار اذ اصول فقرہ اور شاہ ولی اللہ مولفہ داکٹر محمد مظہر سر تقام د
تذکرة الرشید بر جاشیہ۔

تفسیر، حدیث، فقرہ، اصول فقرہ، منطق، کلام، سلوک، حقائق، خواص اسماء و آیات طب، حکمت، نحو، هندسه و حساب۔

شاہ صاحب کے اساتذہ و شیوخ میں دس نام ملتے ہیں یعنی:

- ۱۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم (۱۶۲-۱۷۶) درسی کتب کا بیشتر حصہ اپنے والد مرحوم ہی سے پڑھا۔ اس کے علاوہ تصوف کی تربیت اور مسائل معارف کی تعلیم بھی انہیں سے حاصل کی۔
- ۲۔ شیخ محمد فاصل سندھی جو علم قرآن و قرأت میں شاہ صاحب کے شیخ ہیں۔
- ۳۔ شیخ ابو طاہر کردی (۱۸۵-۱۲۵) مشائخ حرمین میں شاہ صاحب نے سب سے زیادہ انہیں سے افادہ کیا۔
- ۴۔ شیخ تاج الدین القلعی الحنفی۔
- ۵۔ شیخ محمد افضل اسیالکوٹی ثم الدرملی۔
- ۶۔ شیخ دفر اللہ المکی المانعی۔ ان سے شاہ صاحب نے مؤطا امام مالک کا درس لیا۔
- ۷۔ عمر ابن احمد المکی۔
- ۸۔ شیخ عبدالرحمٰن۔
- ۹۔ شیخ عبد اللہ بن سالم البصري ثم المکی (۱۲۳)
- ۱۰۔ ابن عقیلہ۔

شاہ صاحب کی تصانیف | مولانا حافظ ابراہیم سیالکوٹی نے اپنی کتاب "تاریخ اہل حدیث" میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی تصانیف دو سو سے زیادہ ہیں لیکن ڈاکٹر محمد منظہر تقاضا صاحب اپنی گرانیہ تصنیف "اصول فقرہ اور شاہ ولی اللہ" پر اپنے تحقیقی مقالہ میں (جس میں موصوف سو ۱۹۴۴ء میں جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی کی سند عطا کی گئی اور جو پہلی بار نومبر ۱۹۴۴ء

میں ادارہ تحقیقات اسلامی - اسلام آباد سے شائع ہوا، ۲۷ تصانیف کی فہرست دی ہے اور زمانہ تصنیف کو قبل سفر حرب میں کے عنوان سے شروع کر کے (یعنی ۱۴۳۲ھ) تک چھادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ترتیت تصانیف کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

۱۔ پہلا دور سفر حرب میں سے قبل : زہر دین یعنی سورہ لقرا اور سورہ آل عمران کا فارسی ترجمہ جو بعد میں فتح الرحمن کے نام سے مکمل قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں شائع ہوا۔

۲۔ دوسرا دور ۱۴۳۲ھ تک : (۱) القول الجميل (۲) فیوض حرب (۳) رسالہ ردِ واوض۔

۳۔ تیسرا دور ۱۴۳۲ھ تک : (۱) جستہ بالغہ (۲) لمعات (۳) الطاف القدس (۴) الفاء
الغار فیں اور (۵) ہمعات۔

۴۔ چوتھا دور ۱۴۳۲ھ تک : (۱) فتح الرحمن (۲) الاصاف (۳) قصیدہ اطیب النعم مع
قصیدہ ہمزة - (۴) تاویل الاحادیث (۵) الغور العجیر (۶) فرآۃ العینین (۷) المسی
(۸) الانتباہ (۹) اور الخیر العجیر۔

۵۔ پانچواں دور ۱۴۳۲ھ تک : (۱) عقد الجیر (۲) مسلفات (۳) البخڑ فی سلسلۃ الصبحۃ

(۴) صرف میر۔

۶۔ پھٹا در ۱۴۳۲ھ تک : (۱) ازالۃ الخنا (۲) المصنف (۳) المقالۃ الوضیعۃ۔
مذکورہ بالا ۲۴ کتاب میں اہم ترین تصانیف شمار کی جاتی ہیں ان کے علاوہ ردِ گوہزاد
اور الخافضۃ الرافقیۃ کے متعلق شبہ ہوتا ہے کہ خاید دور اول کی تصانیف ہوں۔ باقی
کتابوں کے زمانہ تصنیف کا تعین نہیں کیا جاسکا۔ واللہ اعلم۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گی ۱۴۳۲ھ میں شاہ صاحب نے چاند کا سفر فرمایا دو سال
کے قریب آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں قیام پذیرہ ہے۔ "فیوض الحرب" اسی
سفر کی یادگار ہے۔ اس میں شاہ صاحب کے روحانی مکاشفات ہیں۔ تقوف و سلوک

کے اسرار ہیں۔ وحدت الوجود اور تخلیق کائنات کے مباحثہ ہیں۔ حکمت و فلسفہ کے روزو نکات ہیں اور ساتھ ہی اس وقت کے رائج دینی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جنپی فقر کی چند نادر خصوصیات کا ذکر ہے۔

علاوہ انہی ہم عمر علیٰ و صوفیا کے مناقشات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے شیعہ و سنی کے جنگروں کا ذکر ہے اور اس کا حل پیش کیا گیا ہے۔ فہمٹا ہندوستان میں کفار کے پڑھتے ہوئے خطرات کے اشارات درج ہیں۔

فیوض المحریں اس امر پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مجددیت، وصایت اور قطبیت کے مقامات پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ قائم الزمال ہیں اور ان کے توسط سے مسلمانوں کو کفار پر علیہ حاصل ہو گا نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے "نکی" اور نقطہ علم کا آخری نقطہ سے ملقب فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ امت مسلم کے منتشر اجناد کو جمع فرمائے گا۔ موصوف کو غلافت باطنی پسروں کی گئی ہے اور یہ حکم ہوا ہے کہ وہ انہیاں کے طریقہ کو اختیار کریں اور ان کے بارہائے گرال کو اٹھائیں۔

انہوں نے لکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے خود اپنا نور دیکھا جو بڑا عظیم الشان تھا اور جس نے تمام اقویام کو دھانپ لیا۔ اور ان اقویام میں سبھے والوں پہاں کی روشنی غالب ہے اگری اور اس سے میں یہ سمجھا کہ قطبیت بوجھے دی گئی ہے یہ اس کا نور ہے۔ یہ نور سب کو زیر کرتا ہے اور خود کسی سے زیر نہیں ہوتا اور غیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں جن کا اور پر ذکر کیا گیا ہے شاہ صاحب نے ان کو مشاہدات کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اور حقیقتیں ان کے قلب پر گندمی ہیں اور ان کی آنکھوں نے دیکھی ہیں۔

یہاں آنکھوں سے مراد جماعتی آنکھیں نہیں بلکہ قلب و روح کی آنکھیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خراب میں یہ چیزیں اس طرح دیکھیں یا خود

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک نے اُن پریسیہ اتفاق فرمایا اور اکثر اوقات ایسا ہوا کہ شاہ صاحب روشنہ اظہر پر حاضر تھے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی طرف متوجہ تھے کہ ان کے دل پر بعض حقائق نقش ہو گئے۔

ان مشاہدات میں کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ انہوں نے روح کی آنکھ سے یہ چیزیں دیکھیں خانہ کعبہ سے انہیں نور کی شعاعیں نکلتی نظر آئیں انہوں نے شہداء بدر کی قبروں سے نور پھوٹتا ہوا دیکھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو ظاہر دعیاں دیکھا بقول اُن کے حضور حالت انہاط میں اُن کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے کہ انہوں نے یوں سمجھا کہ گویا آپ نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا اُس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ ساتھ لے گا کہ خوب بھینچا۔ آپ اُن کے سامنے روما ہوئے اور اسرار درموز سے آگاہ فرمایا۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحب اپنے ایک اور خواب میں ذکر فرماتے ہیں جس میں آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسینؑ کو دیکھا اور آپ کو اُن بندگوں نے اپنے نازاروں کا قلم مٹھیک کر کے عطا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک اور رہائی۔

اس تسمیہ کی باتوں سے ہو سکتا ہے کہ بعض قارئین کرام الجهن میں مبتلا ہو جائیں اور اس کتاب میں جو مسائل واردات بیان کئے گئے ہیں اُن کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں گذارش ہے کہ یہ کتاب جس زبان میں لکھی گئی وہ زبانہ آج کے زمانہ سے مختلف تھا۔

ایسے حضرات کی تشفی کے لئے ہم یہ گذارش کریں گے کہ ہر زمانہ کا خاص ذہن اور اس کی اپنی خاص زبان ہوتی ہے اور بقول شخصی عارفوں کا تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے اُن کے واردات قلبی اور باطنی مشاہدات کو عام عقلی معیاروں سے ناپینا درست نہیں

ہوتا۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی دلکھی ہوتی ہائیں بیان کرتے ہیں اور جو کچھ اُن کی زبان
سے ادا ہوتا ہے وہ اُن پر گزرا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے زمانہ کے رنگ ہیں اُن حقائق
کو دیکھتے ہیں اور اسی پیرایہ میں بیان بھی کرتے ہیں جو ان کے یہاں راست ہوتا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ظاہری شکلوں میں الجھ کر رہ جائے اور کہتے
والے کے پیش نظر جس حقیقت کا اظہار تھا اس تک نہ پہنچے۔ پچ تو یہ ہے کہ تصوف اور
ذہب کے متعلق عام طور پر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ اسی ظاہری اور سطحی
ہمیت کا تیجہ ہیں۔

شاہ صاحب نے خود اپنی کتاب "سمعات" میں اس غلط روی پر متنبہ فرماتے

وئے لکھا ہے۔

"ارباب تصوف سے بحث کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا
خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کے اقوال اور احوال کو ان کے
زمانہ کے ذوق کے مطابق چانچنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں کسی طرح
مناسب نہیں کہ ہم ایک عہد کے ارباب تصوف کے اقوال اور احوال
کو دوسرا عہد کے معیاروں سے ناپتے پھریں۔"

یہ وہ علم ہے جو عقل کے بجائے قلب کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور عارف
اپنے باطن میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے لیکچروں میں اس
این علم کی اصالت اور اہمیت پر بہت زیادہ نور دیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

"قلب ایک طرح کا باطنی وعدان یا بصیرت ہے جو مولانا
رومی کی شاعرانہ زبان میں آفتاب کی شعاعوں سے زندگی حاصل
کرتا ہے اور یہی حقیقت کے ان پہلوؤں سے آشنا کرتا ہے جو
ہمارے واس سے پرے ہیں۔ قرآن کی رُو سے یہ ایسی چیز ہے

جودیکھتی ہے اور اس کی اطلاعات کی صحیح تعبیر کی جائے تو
اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے اس کو باطنی
پر اسرار اور فوق الفطری کہنے سے اس کی قدر و قیمت بچیت
ایک ذریعہ علم کے کم نہیں ہو جاتی۔

آگے چل کر اس قلبی واردات کے بارے میں رقم فرماتے ہیں۔
”بُنِيَّ نُوْعُ انسانِ کا بِهِ سارا الْهَامِيُّ اُوْر صُوفِيُّ ادِبِ اسِّيْ بَاتِ
کا قویٰ ثبوت ہے کہ مذہبی واردات کا سلسلہ تاریخ انسانی میں
نہ صرف شروع سے موجود ہا ہے بلکہ اس نے تاریخ پر کافی
اثر بھی ڈالا ہے اس لئے اسے محض فریب کہہ کر رونہیں کیا جاسکتا
آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عام سطح کے انسان بخربات کو تو
حقیقی مان لیا جائے اور جن دوسرے ذرائع سے انسان کو علم مل
ہو، انہیں باطنی اور عذری کا نام دے کر مسترد کر دیا جائے
واقعیہ ہے کہ جہاں تک انسان کے بخربی علم کا سوال ہے اس معاملے
میں مذہبی واردات کی وہی حیثیت ہے جو دوسرے ذرائع
علم کی ہے جن سے انسان کو عام زندگی میں واسطہ پڑتا ہے نیز
انسانی بخربات کی اس باطنی قلمرو کو تقدیری نظر سے دیکھنا کوئی پے
ادبی نہیں ہے۔

قلبی واردات کی علمی حیثیت تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ مرحوم نے ا
تصوف کا اس وقت جو ادب موجود ہے اس پر بھی کوئی تحریر چینی کی ہے چنانچہ اپنے
پیرسے لیکچر میں جس کا عنوان مخدرا کا تصور اور عبارت ہے فرماتے ہیں۔
”میں یہاں کسی ایسے ذریعہ علم کا ذکر نہیں کر رہا، جو کہ راز

سرپرست ہو۔ اس تمام گفتگو سے میری غرض صرف اتنی ہے کہ آپ کو ایک حقیقی انسانی تجزی علم (و عدالت) کی طرف متوجہ کروں جس کے پیچے پوری تاریخ ہے اور سامنے شاندار مستقبل، تصوف نے اسی ذریعہ علم کو خاص طور پر برداشت ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ انسانی "اننا" کی وسعتوں کو ہمارے سامنے پہنچا۔ ہمارا صوفی ادب کافی تباہناک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کی وہ بندھی ٹکنی اصطلاحات جو کبھی فرسودہ قسم کے مابعد اطیبیاتی تصورات کے زیراث بنی تھیں۔ آج اس زمانہ میں ہمیشہ نسلوں کے دماغوں پر ہم کا اثر سخت روح فرما در مردی خیز ہے۔

- فیوض الحرمین "میں شاہ صاحبؒ نے مذہب و تصوف کے حقائق کو جس زبان درجیں اصطلاحات کے ذریعہ بیان کیا ہے۔ علامہ اقبالؒ کی مندرجہ بالا تعریف ایک حد نک اُن پر پوری امتیازی ہے۔ شاہ صاحبؒ نے زمانہ میں مانوں میں ایک خاص قسم کا مابعد اطیبی فکر پایا تا تھا جس کا پیشتر حصہ تو یوتائی اور اشاراتی تھا لیکن اس میں ہندوستانی اور اپریانی اشارات کی آمیزش بھی تھی اور اس سارے "ملغو بیس" پر اسلامی سُھپر لگ چکا تھا۔ مابعد اطیبات کا یہ گور کھدھندا ایسا پیچ در پیچ ہے کہ اس میں المجهات ہوا ذہن مشکل ہی سے نکل سکتا ہے۔"

فیوض الحرمین "میں کہیں کہیں اس طرح کی مابعد اطیبیاتی اصطلاحات کی الجھنیں بھی ہیں لیکن تحقیق جن کی خاطر اس طرح کی مشکلات را کو جھپینانا ناگزیر ہے لقول شخصی "خوشے سے انماج نکالنے کے لئے اور پر کی بھوسی کو ہٹانا کبھی بھی تضییع اوقات نہیں سمجھا جاتا۔"

شاہ صاحب کی شخصیت اور ان مشاہدات و مکاشفات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اُن کے زمانے کی عام روشنی، اُن کے زمانے کی سیاسی، معاشرتی اور علمی حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے جس کی روشنی میں انہوں نے واجد ای اور فکری طور پر ایک ممتاز روشن اختیار کی۔

شاہ صاحب چین پیدا ہوئے تو اور نگزیب عالمگیر کی حکومت تھی وہ صرف چار سال کے تھے کہ عالمگیر کا انتقال ہو گیا۔ شہنشاہ اور نگزیب عالمگیر کی وفات بسلطنت مغلیہ کے اختلاط اور منہدوستان کی سیاسی اور معاشرتی تباہی کا نقطہ آغاز تھی شاہ صاحبؒ نے گیارہ بارہ ہوں کا زمانہ دیکھا۔ شاہ عالم ثانی کی حکومت کو ابھی تقریباً ڈھانی سال ہی گذرے تھے کہ شاہ صاحبؒ کا انتقال ہو گیا۔

شہنشاہ عالمگیر کے انتقال کے بعد گیارہ سال کے قلیل عرصہ میں یکے بعد دیگر پانچ بارہ شاہ درہلی کے سخت پرستی اور ۱۳۸۷ھ میں شاہ صاحبؒ نے اپنے والد کے مدرسہ میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو چھٹے بارہ شاہ کے سر پر منہدوستان کا تاج رکھ گیا اس کی حکومت کے بارہ سال دیکھ کر شاہ صاحبؒ ج کے لئے گئے۔

درہلی کے پیر انتیں ۱۴۹۶ سال بڑے سخت سیاسی علفشار میں گزرے اتنی جلد خلد بارہ شاہوں کی تبدیلی سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں کہ وہ دبوبہ جو اکبر سے عالمگیر تک قائم ہو چکا تھا۔ مگر درہلی نے لگا۔ شاہی خاندان کی باہمی خانہ جنگیوں کے نتیجہ میں نہ صرف اہم سلطنت خود سربن گئے بلکہ اُن کے اشاروں پر مریٹوں، جاٹوں، راجپوتوں اور سکھوں نے سلطنت درہلی کا ناکلامیں دسم کر دیا، شاہ صاحبؒ کی بخش سے والی کے بعد نادر شاہ کے حملہ نے سلطنت کا رہا بھرم بھی کھو دیا، کفار کا سیلا ب بڑھتا چلا گیا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ عوریوں سے لو رہیوں نک تمام حکمران خاندان سُنی ہنفی تھے مغل شہنشاہ ہجایوں کے بعد جس بئے سوریوں کے مقابلہ میں اپرائیوں کی مدد سے دوبارا

ہندوستان کا تخت حاصل کیا تھا۔ ہندوستان کی ملکی سیاست میں ایرانی دخیل ہو گئے اُن کی ریشہ دو ائمہ سے دہلی کی حکومت روز بروز اخطاط پذیر ہوئی۔ ہلی گئی۔ بقول مولانا
منظرا حسن گیلانی:

«سارے فتنوں کی بنیاد اگر صحیح پوچھیئے تو ہندوستان میں بھی
دہی مسئلہ رہا جس سے ہر ہنگامہ حثیٰ کبھی بھل صدری، بھرپوری میں فتنوں کی ابتدا
ہوئی تھی دہی شیعیت کا اور سینیت کا جھگڑا۔
اور بقول ایک اور مؤرخ عکس کے،

«آخری مغلیہ دور کے تاریخ انہی دو گروہوں کی جنگ و عدالت کی
تاریخ ہے۔»

مندرجہ حالات کے پیش نظر شاہ صاحب نے یقیناً سوچا ہو گا کہ کسی طرح اسلامی
ہند کی سلطنت تباہی کے اس زغم سے نکل جائے۔ چنانچہ اس کے لئے ضروری تھا کہ
شیعہ سنی کا نزع ختم ہو۔ اہل تصوف اور اربابِ مشریعۃ میں جو دوری پیدا ہو گئی تھی
وہ نہ رہے۔ علماً اپنا کام کریں اور صوفیا اپنے فرالق انعام دیں۔ اسلام کی صحیح تعلیمات
لوگوں تک پہنچیں اور دین کی تجدید کے ساتھ ساتھ ملت کی بھی نئے سرے سے تشکیل عمل
میں آئے۔

یہ وہ زمانہ تھا جس میں مسلمان صوفی اور عالم اسلامی جمیعت کے رکن رکیں سمجھے
جاتے تھے۔ عوام و خاص، پادشاہ اور امراؤں کی بات سنت تھے۔ اس زمانہ میں حضرت
مجدد الف ثانی کے تجدیدی کارناموں کا غلغٹہ تھا ان کی باطنی خلافت کی بنیاد رکھی جا چکی
تھی اور ان کے خلفاء ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل چکے حضرت مجدد الف ثانیؒ[ؒ]
کے تجدیدی کارناموں اور اُن کے مقاصد کی کامیابی سے متاثر ہو کر شاہ صاحبؒ[ؒ]
نے بھی ہندوستان میں اسلام کو نئی زندگی عطا کرنے کا تہیہ کیا اور یہی ولوئے دل میں

لئے ہوئے وہ خانہ کعبہ اور روضۃ الاطہر پر پہنچے۔

یہ ہیں وہ حالات جن کی صدائے بازگشت "فیوض الحرمین" کے مشاہدات و مکاشفات ہیں انہی کی روشنی میں ہمیں شاہ صاحبؒ کے ان دعاوی کو دیکھنا چاہئے کہ وہ قائم الزمان ہی ہُن کو دھی، قطب اور امام کے مذاہب پر سرفراز کیا گیا۔ وقس علی ہڈا۔ اس وقت ان کی عمر انیس تکیں برس کی تھی۔ جوانی کا عالم تھا۔ تصور کے مراقبہ سے نفس کی باطنی قوتیں کو جلا مل چکی تھی۔ غیر معمولی ذہانت اور وجدانی زندگی کا زندگانی دل میں رس بس چکا تھا۔ شاہ صاحب کے زمانہ میں سُنی امراء کے مقابلہ میں ایرانی امراء اور پکڑنے ہے تھے۔ اپنے اقتدار کو برقرار رکھتے کے لئے ہر جائز و ناجائز تہذیب کنڈوں سے کام لیا جا رہا تھا شیعہ اور سُنی کی چیقلش میں ظاہر ہے اسلامی جمیعت کو تقسیم پہنچا۔ "فیوض الحرمین" میں شیعہ اور سُنی کے اس نزاع کو ختم کرنے کے لئے بھی اشارہ ہے یہیں۔

شاہ صاحب کے زمانہ تک امر واقعہ پر تھا کہ اسلامی جمیعت کی غالب اکثریت اہل پر مشتمل تھی چنانچہ ان ہی اصلاح اور تنظیم سے اسلامی جمیعت کی تغییل نو ہوئی تھی اہلنت کی علمی اور روحانی قیادت اس وقت کے علماء و صوفیا مسکنے کے ہاتھ میں تھی مگر انکار و عقامہ کی وجہتی کے قدران نے اس مسئلہ کو کافی پیچیدہ بنایا تھا۔ صوفیا و عقیدہ وحدت الوجود میں گم باطنی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے۔ اور علماء کو صوفیا سے پدر گما نیاں تھیں اور وہ انہیں شریعت کی سیدھی راہ سے ہٹا ہوا پلتے تھے شریعت اور طریقت کے اس ذہنی اور علمی تضاد کو دور کرنے کا خیال بھی "فیوض الحرمین" کے مشاہدات میں منعکس نظر آتا ہے۔

اس وقت علمائے اہل سنت کی یہ کیفیت تھی کہ وہ فقہی تعصب اور ذہنی جمود میں بری طرح مبتلا تھے اور فقہ حنفی ہی کو اسلام کا مراد ف سمجھتے تھے اور اس میں اتنا تشدید تھا کہ حنفی نہ ہونا ان کے نزدیک اسلام سے خروج سمجھا جاتا تھا اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جماعتی زندگ

میں اسلام کے اصل سرچشمتوں یعنی قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے کا رجحان اور نئے فکری حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ مفقود ہو گیا تھا۔ عام مسلمان صدیوں سے فقہ حنفی ہی اسلام کی واحد تعبیر ہانتے اور مانتے چلے آئے تھے اور وہ فقہ حنفی کے سوا کسی اور فقہی مذہب کا نام تک سنتے کو تیار نہ تھے۔

اُن کی علمی اور منہجی اصلاح کا کوئی امکان ہو سکتا تھا تو اس کی صرف یہی صورت تھی کہ فقہ حنفی کی ایسی تعبیر کی جائے کہ جس سے فقہ حنفی سے تعلق بھی نہ ٹوٹے اور فقہی جماعت سے بھی نکلا جاسکے۔

چنانچہ آپ کو اس کتاب "فیوض الحرمین" میں فقہ حنفی کے متعلق اس طرح کے مکافناً بھی ملیں رہے یعنی "یہ کائنات کس طرح ظہور پذیر ہوئی۔ ایک وجود سے یہ کثرث کیسے ملکی۔ انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے۔ وہ اصل میں کیا ہے اس میں کیا کیا بننے کی صلاحیتیں دکھی گئی ہیں۔ خدا تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ تقریب الی اللہ کے یہ مسائل جنہیں مذہب کا نام دیا گیا ہے انکی حیثیت کیا ہے ان میں بظاہر کسیوں اختلاف ہے اور مختلف نہادوں میں انہیں کو جو انگل ایک شریعتیں وی گئیں انکی کیا حیثیت ہے؟ مظاہر حیات کی بولمنی یا بیانادی صورت کیا ہے؟ الغرض آذنش کا نام کیسے متعلق یہ اس طرح کے وہ سے باعده طبعی مالاً اور تر مذہب اور تقویت کے پیاری حالت بوزندگی کے مجموعی تصور اور اس کے نظام صالح کے لئے ہر تہذیب میں اساسی مباحث کا حکم رکھتے ہیں وغیرہ ۔ شاہ عبدالحیب نے اس کتاب ("فیوض الحرمین") میں یہ مسائل کہیں مجملًا اور کہیں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔

بہر حال یہ ہے "فیوض الحرمین" کا شان نزول اور پہہ ہے اس کا موضع۔

قابل مترجم نے اس امر کی واضح طور پر نشان دہی کی ہے کہ "ہمارے ہاں پڑھئے لکھئے طبقوں کو ان دونوں بجو اسلامیات سے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے اور اسلامی اصولوں پر اپنی انفرادی اور قومی رندگی کو ڈھانلنے کا بجو ایک جذبائی رجحان پایا جاتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مترجم کے خیال میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا اردو میں منتقل ہو جانا

فائدے سے خالی نہیں ہو گا۔

آگے چل کر وہ سمجھتے ہیں کہ

”زیرنظر کتاب میں شاہ صاحب نے اسلام کے اركان اور اس کے شرعی قواعد و احکام جو زندگی کی بنیادی اور دامنی حقیقتوں کے ترجمان ہیں، ان سے پرده اٹھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ ان حقیقتوں کے جانتنے کی آج شاہ صاحب کے زمانہ سے بھی کہیں یادہ ضرورت ہے کیونکہ ان دونوں اکثر مسلمان مخفی اپنانام کا مسلمان ہوتا ہی بخات آخری کے لئے کافی سمجھتے ہیں اور اسی بنا پر دوسروں سے فوقیت چاہتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں امتیازی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نیزان میں بعض ایسے مخلص گروہ بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کو واقعی اسلام سے سمجھی جیت ہے اور وہ پورے خلوص سے اسلامی زندگی گذارنا چاہتے ہیں لیکن ان کی نظر مظاہر اسلام سے اور شعائر اسلام سے حقیقی مقصد تک نہیں جاتی اور وہ ظاہری زندگی ہی کو اسلامی رنگ دے دینا کافی سمجھ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح اسلام دنیا میں پھر وہی انقلاب پیدا کر سکے گا جو چودہ سو سال پہلے اس نے کیا تھا۔۔۔۔۔“

خدرا کرے شاہ ولی اللہ کے یہ افادات ان نوجوانوں میں جن کو اسلام سے حقیقی بنتگی ہے اور جو میں زندگی میں تعمیر میں اسلامی فکر کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اسلام اصل حقیقت اور اس کے بنیادی حقائق کو سمجھنے کا صحیح جذبہ پیدا کر سکیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی نئی زندگی جس کا آج ہر مسلمان متمنی ہے اور حکومت پاکستان بھی مرکری

سطح پر اس امر کے لئے کوشش ہے صرف اسی طرح وجود میں آسکے گی۔

وَمَا تُفْيِقِ الْأَبْالَةُ
الْمَذْنَبُ بِجَلِيلٍ لَّهُ فَوْيَ الْحَنْفَيْ عَفْيَ عَنْهُ
مَرْتَبٌ

کتابیات

- ۱۔ داکٹر محمد منظہر القاہر۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ۱۹۸۶ء۔
- ۲۔ تاریخ مسلمانان پاک و بھارت۔
- ۳۔ سیر المتأخرین۔
- ۴۔ ابو الحسنی امام خال نو شہری۔ تذکرہ علمائے الہمدویث۔
- ۵۔ " " " ۔ ہندوستان میں علم حدیث۔
- ۶۔ حافظ ابراهیم سیالکوٹی۔ تاریخ اہل حدیث۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ ۱۹۷۰ء۔ ہمیات
- ۸۔ ارگود دائرہ معارف اسلامی۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور۔
- ۹۔ ارگود اسلامی انسائیکلو پیڈیا۔ مؤلفہ
- ۱۰۔ نظامی پڑا بولی۔

عرض مترجم

مولانا عبید اشتر سندھی مرحوم حضرت شاہ ولی اشٹر صاحب کے حالات کے ضمن میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔ علم حدیث کی تحریک و تکمیل کے لئے انہوں نے سفر جہاز اختیار کیا، کامل اساتذہ کی صحبت اور اعلیٰ علمی کتابوں کے مطالعہ سے دو سال میں انہوں نے حدیث و فقہ میں مجتہد از مکال پیدا کر لیا: اس کے ساتھ ان کی قوتِ اشراق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے استفادہ کا موقعہ بھم پہنچایا۔ فیوض الحرمین میں انہوں نے دہ فلسفی، سیاسی اور اجتماعی فوائد جمع کر دیئے ہیں، جو اس طرح حاصل کئے۔

خورشادہ صاحب نے کتاب کے مژودرع میں اس کی شانِ نزول کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت جس سے کہ اس نے مجھے سرفراز فرمایا، یہ ہے کہ ۱۳۲۴ھ
اور اس کے بعد کے سال میں اشتر تعالیٰ نے مجھے اپنے مقدس گھر کے حج کی اور بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی توفیق دی۔ لیکن اس سلسلے میں اس نعمت سے بھی کہیں زیادہ بڑی سعادت جو میسر کرنی، وہ یہ لمحتی کہ اشتر تعالیٰ نے اس حج کو میرے لئے مشاہداتِ باطن اور
انکشافِ حقائق کا ذریعہ بنایا..... اس حج دزیارت کے ضمن میں مجھے جو نعمت عطا کی گئی
وہ میرے نزدیک سب سے بلند تر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک د تعالیٰ نے حج کے

ان مشاہدات باطن میں جو اسرار درموز مجھے تلقین فرمائے ہیں، ان کو ضبط تحریر میں لے آؤں، اور تیز بھی ملیہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت سے زیارت مدینہ منورہ کے دوران میں جو کچھ میں نے استفادہ کیا ہے، اس کو لکھو دوں... اس رسالے کا نام میں نے ”فیوض الحرم“ رکھا ہے۔

اردو ترجمہ میں گتاب کا جو نسخہ خاک ارستجم کے پیش نظر ہا، وہ شاہزادہ کا چھپا ہوا ہے اس کے شائع کرنے والے سید زہیر الدین عرف سید احمد صاحب مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے نواسے ہیں۔ اس عربی قلن کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی ہے، ابتدئی سے بھجئے اردو ترجمے سے زیادہ مدد نہیں سکی، لیکن کہ اس کا بھجننا ایرے لئے عربی قلن سے کم مشکل نہ تھا، فیوض الحرم کا عربی قلن بہت صحیح چھپا ہوا ہے۔ اور واقعیہ ہے کہ اس کی وجہ سے گتاب کے مطالب کو حل کرنے میں بڑی مدد ملی۔
یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور فیوض الحرم کے دقیق مباحثت کو اردو میں پیش کرنے میں مترجم کیاں تک عہدہ برآ ہو سکا۔ اس کا فیصلہ تو قارئین ہی فرمائیں ہیں۔

محمد سرور
جامعہ سرگز: دہلی

جنوری ۱۹۲۴ء

مقدمة

ما بعد الطبيعات و کوئی نات، الہیات و اسلامیات اور تصوف و حکمت کے پر سارے مباحثت جن کا ذکر ابھی ہم "پیش لفظ" میں اشارہ کرائے ہیں۔ "فیوض الحرمین" میں بیان کئے گئے ہیں، اس نوع کے مباحثت ایک تو یوں بھی دلیل ہوتے ہیں، دوسری وقت اس ضمن میں یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ان مباحثت کو ترتیب وال بیان نہیں فرمایا۔ مثلاً ایک موضوع کے متعلق ایک بات انہوں نے کہیں شروع میں کہی ہے: پھر کتاب کے پیسے میں اس کا ذکر کر دیا ہے، اور ایک آدھ عگر آخر کتاب میں اسی موضوع کی طرف اشارہ کر گئے ہیں۔ چنانچہ اس بے ربطی اور عدم ترتیب کی وجہ سے کتاب کے پر مباحثت اور بھی دلیل ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ کی میری وقت اور شاہزاد فارمِ کرام کے نئے ذہن سب سے بڑی وقت ہو، شاہ صاحب کاظم زبان اور ان کی فنی زبان ہے۔ اس زبان اور اطراف زبان پر اس زمانے کے ما بعد الطبعیاتی تصورات کا، تناگہر از نگ چڑھا ہوا ہے کہ جب تک ان تصورات پر پورا عبور نہ ہو، شاہ صاحب کا مستقصود پاناما حال ہے اب

مشکل ہے کہ یہ بعد الطبعی تصورات ایک تو اس زمانے میں بالکل غیر مانوس ہو گئی ہیں، اور پھر ان میں اتنے خالی اجھاؤ ہیں، اور ان کی بیانیت تربیتی میں اس قدر متنوع اور مختلف عناصر کو سخونے کی کوشش کی جسی ہے کہ ان تصورات کی پیچ دریچ گزیوں کو سمجھا کر اصل مطلب تک پہنچا بڑی محنت اور غیر معمولی صبر حاصل ہا ہے! اور ہر ٹیکھے والا اس کوہ کمی کے لئے عام طور پر تیار نہیں ہوتا اور نہ اس کے پاس اتنا وقت ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی دیدہ ریزی کر سکے، اور افسوس ہے کہ شاہ صاحب کے میکانہ افکار کی عام اشاعت میں یہی چیز تک سب سے بڑی مانع رہی ہے۔

"مقدمہ" کے ان صفتیات میں ہم نے کوشش کی ہے کہ قبوضہ احمدیہ کے ہضم می باہث کا مختصر سادھہ مناسب عنوانات کے احتجت جہاں تک ممکن ہو عام فہم پر پرے میں پیش کریں، مثلاً اس سے فارین کرام کو کتاب کے جملہ می باہث سے دیکھی پیدا ہو سکے، اور جس مقصد کے لئے زیر نظر کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس طرح وہ بھی پورا ہو جائے،

یعنی قبل اس کے کہ اس سلسلہ میں کچھ اور کہیں، یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے کمی جگہ لکھا ہے کہ میں نے حواب میں یہ چیزیں یوں دیکھی، یا مشہور انہوں نے اس طرح کی باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے شہداء کے بد رکی قبروں سے نور کو روشن ہوتے دیکھا۔ یا میں نے رسول ارشد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ظاہرا در عیان اپنے سامنے پایا، نیز یہ کہ میں نے آپ کی قبر مبارک سے چشمے کی طرح نور کو چھوٹتے ہوئے دیکھا یا ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوا کہ ایک نور جو بلندیوں کی طرف پر واذکر رہا تھا، طلوع ہوا اور اس نور سے میرا خال سرتاپ پڑ ہو گیا، اور اس کی تابانی دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا مجھے بنایا گیا کہ یہ نور

نور عرش ہے۔ یا میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے خود اپنا نور دیکھا، وغیرہ غیرہ
 اب سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب کی ان خوابوں اور آن کے ان مکاشفات
 کی آخر حقیقت کیا ہے؟ جہاں تک ان مکاشفات کا تعلق ہے۔ شاہ صاحب
 فرماتے ہیں کہ وہ اس عالمِ مادی سے مادر اجو عالم مثال ہے، یہ سب کے نسب اُس
 کے واردات ہیں۔ صوفیائے کرام کے نزدیک یہ وہ عالم ہے جس میں عالمِ مادی
 کی ہر حیثیت کا مثالی نمونہ موجود ہے مادر اس سے ضرورت کے مطابق اس عالم
 مادی میں چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ اور نیز وہ کیفیات اور معانی جن کو اس
 دنیا میں ہم اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ عالم
 مثال میں پہ سب مادی شکلوں میں بحتم نظر آتے ہیں۔ صوفیاء کرام اس عالم کے
 حقیقی اور واقعی ہونے کا پورا قین رکھتے ہیں۔ چنانچہ مکاشفات میں جو کچھ
 وہ دیکھتے ہیں، اس کا تعلق ان کے نزدیک اسی عالم سے ہوتا ہے۔

شاہ صاحب نے "ججہ اشراب الاغر" میں عالم مثال پر بحث کرنے ہوئے
 اس نوع کے مکاشفات کو تسلیم کرنے کے باarse میں مین گروہ بنائے ہیں۔ ایک
 درہ جو اس عالم کو خارج میں واقع ہے موجود ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ
 خود میرا اپنای مملک ہے۔ دوسرا گردہ ان لوگوں کا ہے جو اس بات کے قائل
 ہیں کہ بے شک دیکھنے والے کو تو یہ واقعات اسی طرح ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن
 خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا، شاہ صاحب اس گروہ والوں کو بھی اہل حق میں
 شمار کرتے ہیں، البتہ میرا گردہ جس کا کہنا یہ ہے کہ ان واقعات کی حیثیت محفوظ تسلیم
 کی ہوتی ہے، اور یہ ادائے مطالب کا بس ایک پیرایہ ہے، شاہ صاحب کے نزدیک
 اہل حق میں سے نہیں۔

"الغرض" فیوض الحرمین" کے ان مکاشفات کے متعلق اگر قارئین کرام کو

اس بات کے تسلیم کرنے میں تاکل ہو کر واقعہ مکاشفات اس شکل میں خارج میں رونما ہوئے یا نہیں تو وہ ٹری آسانی سے ان کو اس طرح مان سکتے ہیں کہ شاہ صاحب نے تو بیٹھ اپنے مکاشفات میں ان سب واقعات کو ضرور اسی طرح دیکھا ہو گا، لیکن خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔

باتی رہا شاہ صاحب کے خوابوں کا معاملہ، تو ان کی حقیقت بھی ان کی زبان ہی سے سن لیجئے، تہمات میں خوابوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”روحانی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ را و طریقت کے سالک جب عالم ناسوت کی پستی سے نخل کر عالمِ لکوت کی بلندی پر فائز ہوتے ہیں اور اسیں اور ناپاک اعتبارات کو کلینڈ ترک کر دتے ہیں تو اس حالت میں وہ لطیف اور خوشگوار کیفیات میں اس طرح سرشار ہو جاتے ہیں گویا ان کے لفوس ان کیفیات میں ڈوب کر بالکل فنا ہو سکتے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بیداری اور حالتِ خواب میں ان کیفیات کو اپنے اندر لے کر پاتا ہے، اور جب یہ شخص سوتا ہے اور اس کے ظاہری حواسِ نفسانی خواہشات کے اثر و تلفر سے امن میں ہوتے ہیں اور وہ فی الجمل طبیعت کے تقاضوں اور اس کے احکام سے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس حالت میں وہ تا م صورتیں جو اس کے دل کے اندر جمع ہوتی ہیں، خواب میں برلا طور پر اس کے سامنے نظر آتی ہیں۔ اور وہ ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سالک پر اس مقام میں عجیب عجیب چیزیں اور طرح طرح کے معاملات ظاہر ہوتے ہیں۔“

مکاشفات اور خوابوں کی اصل حقیقت کی اس وضاحت کے بعد اب ہم

اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

ما بعد الطیعت

ایک ذات نے یہ کل کائنات کیسے پیدا کی، یا ایک وجود سے اس کثرت کا کس طرح ظہور ہوا۔ ما بعد الطیعت کے اس نازک مسئلے کو صحیحے کر سکدے ہیں انہائوں میں عام طور پر تین رجحان یافتے جاتے ہیں، ایک یہ کہ ذات حق نے کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کے حکم سے کائنات وجود میں آگئی۔ دوسرا رجحان ان لوگوں کا ہے جو ذات اول کو عقول کا حشرشیمہ حصل مانتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے پہلے عقل اول کا ظہور ہوا، اور پھر اس سے تدریجیاً اور عقول کا نزول ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ کائنات کے وجود پر قائم ہوا۔ تیسرا رجحان یہ ہے کہ یہ صاری کثرت جو ہمیں نظر آتی ہے ایک وجود سے نخلی ہے اس وجود سے مسدود نزلات ہوئے اور انہی نزلات کا آخری تجھہ یہ کائنات ہے، اب پہلا رجحان تو عام اہل ذرا پیب کا ہے، دوسرا رجحان ارباب عقل اور فلسفیوں کا اور تیسرا رجحان صوفیا کا۔ شاہ صاحب اپنے ما بعد الطیعاتی تصویرات میں بالعموم ان تینوں جمادات کو سمجھتے اور ان میں توافق اور مطابقت پیدا کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اسی لئے وہ اس ضمن میں تینوں گرد ہوں کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ بے تک اس سے قدر سے ٹنڈلگ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شاہ صاحب کا جو حاصل مقصود ہے، اس پر لگاہ رہے تو اصطلاحات کا یہ اختلاف زیادہ پڑیاں کن نہیں رہتا۔

”ذات حق مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھی؟“ شاہ صاحب نے اس ”تری“ کو مقام تفکر میں یوں دیکھا، فرماتے ہیں۔

”ذات حق خود اس امر کی متعاضی لھتی کہ وہ استعدادیں جو اس کے اندر پختہ ہیں، آن کا ظہور عمل میں آتے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذات حق کا جو مرتبہ وجوب ہے، وہ اس مرتبے میں ذات حق کی ان استعدادوں کا عقلی ظہور ہوا، اس ظہور سے دہائی اشیاء کے مکانات کے ”اعیان“ اور ذاتِ واجب کے ظہور کی ہر صورت اور اس کی تدلیٰ کے ہر نظر کے ”شیون“ متشتمل ہوتے۔ مرتبہ وجوب میں ذات حق کا تفاصیل ہوا کہ وہ ان ظہورات کو عدم، مادہ اور خارج سے تصفی کرے چنانچہ اس ضمن میں اس نے جو کچھ کہ اعیان اور پتا یوں میں مضرِ حق اُسے ظاہر کر دیا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے جو چیز ظہور پذیر ہوئی، وہ امتناع اے کا نورِ حق، اس نور نے عدم اور مادہ کا پوری طرح سے احاطہ کر لیا۔ اور اس پر یہ سلط ہو گیا اور یہ نور قائم مقام بن گیا ذات حق کا، اور یہ نور قدیم الزمان ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک زمان، مکان اور مادہ ایک ہی حیز ہے اور یہی وہ استدار ہے جس کو ہم نے عدم اور خارج کا نام دیا ہے صفحہ ۲۶۷
ہر فل کے لئے کسی نہ کسی علت کا ہونا ضروری ہے۔ شاہ صاحب اس لیتے کو منو انس کے بعد مخلوقات کے ظہور کی آخری علت کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں -

”اس عالم میں مخلوقات کے ظہور کی جو لمبی علتیں ہیں، ان کا سلسلہ ارتقای آخر میں جا کر ارادہ الہی پر ختم ہوتا ہے لیکن خود اس ارادہ الہی کی لمبی ایک علت ہے، جس سے کہ اس کا صدور ہوتا ہے اور وہ علت ہے ذاتِ الہی کا خود اپنا انتہا، ارادے کے لئے، اور ارادے کا لازم ہونا ذاتِ الہی کے لئے۔... واقعہ یہ ہے کہ ذاتِ واجب الوجود سے ارادے کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے ان تاثیر کرنے والی استعدادوں کا جہنمیں ”اعیان“ کہا جاتا ہے،

ذاتِ واجب سے تعلق ہے، یعنی جس طرح ان "سماء اور اعیان" کے ظہور کے لئے ذاتِ واجب نہماً اقتضا موتا ہے، اور ذاتِ واجب کے لئے ان "سماء" اور "اعیان" کا ہونا لازم میں سو ہے، اسی طرح ذاتِ واجب کے ساتھ ارادے کا تعلق ہے۔ اور یہ جو نہ دعا شیر کر نہیں والی ذاتِ واجب اوسیں یعنی "سماء" اور "اعیان" ہیں، ان کے ظہور کی ایک حد مقرر ہے، چوڑخود ۲۷۳ ذاتِ واجب کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہو اور نہ کمی ہو۔

شاہ صاحب نے اس مسئلے کو درضاعت سے ایک حساب کرنے والے کی مثال

دی ہے۔

"ایک حساب کرنے والا جب حساب کرتا ہے تو اس کے حساب کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ارادہ ایک عدد سے متلقی ہوا تو اس سے ایک بنا، اور جب ایک کے عدد کو اس کی نظر نے دوبارہ دیکھا تو دو کا عدد معرضِ وجود میں آگیا..... غرضیکہ جب حساب کرنے والا کا ارادہ ایک سے روادو سے تین، اور اسی طرح تین سے جو اگلا عدد ہو، اس کو اس سے نکالتا چلا جائے گا تو جہاں تک کہ حساب کرنے والے کے علم کی حد ہوتی ہو اس حد تک اس ایک عدد سے اکائیں، دوائیں، سیکڑے اور بیڑاں انٹھلتے ہلے جائیں گے، چنانچہ جہاں تک کہ حساب کرنے والے کی عقل فرض کر سکتی ہے، وہ ان اعداد کو ایک روشنی کے ساتھ بر ابر جمع کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ اعداد اپنی اس شکل میں لانہ پایت ہو تک پہنچ جائیں۔ اب اگر ان تمام اعداد کو ان کی صلگی نسبت سے جو ایک کا عدد ہے، اور خوب سے کہ یہ سب اعداد نکلے ہیں، دیکھئے تو یہ سب اعداد ایک کے عدد میں بھروسہ نظر آئیں گے، اور ان اعداد میں آپس میں جو فرقِ مرتب ہے تو وہ اس ایک کے عدد کے اعتبار سے نہیں ہو گا، بلکہ جس طرح یہ اعداد درج ہوں بد رجحان اس ایک کے عدد سے نکلے ہیں، ان میں فرقِ مرتب اس بحاظ سے ہو گا۔ اس سے تیجہ یہ نکلا کہ اعداد کی ان بے شمار صورتوں کے ظہور کی عدالت صرف اتنی ہتھی کر

محاسب کے اندر حاصل کرنے کا ایک کمال موجود تھا۔ چنانچہ محاسب نے لپٹے اس کمال کو ظہور میں لانے کا ارادہ کیا، اور اس طرح یہ اعداد معین وجود میں آتے چلے گئے۔ باقی رہا خود اُن اعداد میں جو ترتیب حضراد والفضاظ ہے کہ اس میں نہ کسی ممکنی ہے اور نہ مشی اتو یہ چیز تو محاسب کے ارادے کی فعلیت سے پہلے ہی ان اعداد کی خواص اپنی طبیعت میں موجود تھی۔ اور محاسب کا ارادہ جب ان اعداد کو اس ترتیب والفضاظ سے وجود میں لاتا ہے، تو وہ گویا ان اعداد کی جو اپنی طبیعت ہوتی ہے، اور ان کے ظہور کے جواب پر احکام ہوتے ہیں، وہ انہی کو میش کر دتا ہے۔ صفحہ ۲۵

ان اسماء اور اعیان "کو ماہیات" بھی کہتے ہیں۔ ظہور کائنات کے عدالت میں ماہیات "کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

آپ جو ہم چیزوں کے بنانے والوں کے ایجاد کرنے کو ان چیزوں کی ماہیات کی طرف منسوب کرتے ہیں (نہ سے قبل تخلیق حق تعالیٰ کے علم میں موجود تھی)۔ پھر ان نے ان اشیاء کی خارج میں تخلیق فرمائی... یعنی اشیا قبل تخلیق خارجی علم الہی میں ثابت ہیں۔ اسی حالت میں یہ اشیا "معلومات حق" ہیں (حضور علمیہ حق) ہیں، انہی کو "اعیان ثابتہ" "ماہیات اشیا" اور حقائق اشیاء کہتے ہیں، مترجم] تو ماہیات کی طرف ہمارا ان چیزوں کو منسوب کرنا ایسا ہی ہے، جیسے ہم اور پر کی صورت میں عداد کے عدم سے وجود میں آنے کو محاسب کی تاثیر کا نتیجہ بتاتے ہیں اور "ماہیات" کو ان چیزوں سے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ان چیزوں کی ان "ماہیات" اور ان کے لازم کو ذات حق سے جس سے کہ ان "ماہیات" کا فیضان ہوتا ہے، ایسی ہی نسبت ہی جلیسی کہ ان اعداد کے ترتیب دار مدارج کو اس ایک کے عدد سے ہے جس سے کہ یہ سب اعداد نکلتے ہیں اور ایک عدد کا دوسرے پر تقدیم اور ان کا ایسیں جو فرقِ مرتب ہے۔ یہ خود اُن اعداد کی اصل طبیعت میں داخل ہے۔ الغرض جب

یہاں داضمکو گئی تو اس سے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ "ماہیات" خیر مجموع ہیں یعنی یہ
بنا فی نہیں ہیں، بلکہ ان کے بنانے اور ایجاد کرنے کا مطلب صرف ان کا ظہور
اور فیضان مقدس ہے، سمجھدیں آجائے تھا صفحہ ۲۵۹

"ماہیات" نام ہے پیدا ہونے والی اشیاء کے متعلق اثر توانے کے اس علم
کا جو اسے ان حیزوں کو وجود دادی میں لانے سے پہلے تھا۔ یہ پیدا ہونے والی نام
کی تمام اشیاء ایک مولن میں بالترتیب جمع تھیں جسے "طبعیت کلیہ" کہا گیا ہے
اس "طبعیت کلیہ" سے اشیاء کس طرح ظاہر ہوئیں، اس بارے میں شاہ صاحب
لکھتے ہیں۔

"الغرض جس طرح اعداد کا سلسلہ ایک کے عدد سے لیکر لامناہی
حد تک بالترتیب چلا گیا ہے، اور اعداد کا یہ سارے کا سارے لامناہی سلسلہ
اسی ایک کے عدد کے اندر فرضیاً اور تقدیر ا موجود ہے، ذکر فعل، اسی طرح
"طبعیت کلیہ" کے اندر جو ہی اس کے ارکان اور نیز خوبی چادرات، نباتات و رحیمات
ہیں، ان سب کا ایک مرتب سلسلہ جس کے خواص اور فرائیں معلوم ہیں، موجود ہے۔
..... اس طبیعت کلیہ سے الواقع کا ظہور ہوا اور الواقع کا یہ ظہور حساب میں جو
تقیم حصہ کا طریقہ ہے، اس کے مطابق ہوا، یعنی ان میں نہ فرد کوئی زیادتی مولکتی
ہے اور نہ کمی۔ ان الواقع سے پھر افزاد نیاز ہوئے قصر مختصر مہیت
الماہیات اور حقیقتہ الحقائق سے یہ کہ الواقع دافراً دکایہ جو سلسلہ لامناہی حد
تک پہنچتا چلا گیا ہے، یہ سب کا سب حقیقتہ الحقائق اور اشیاء کے اصل
بسط میں باعتبار فرضی اور امکان کے ذکر بمحاذین بالفعل کے موجود تھا صفحہ ۲۶۰

ذانت حق نے ارادہ کیا، اور اس کے ارادہ کرنے سے کائنات کا سلسلہ
وجود میں آگیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذانت حق نے یہ جو ارادہ کیا، تو اس کا باعث

کیا لھا۔ اس صحن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں ۔

اُس امر میں کسی قسم کا مشتبہ نہیں کہ حقیقت الحقالق ایک وحدت ہے جس میں کثرت کا گزر نہیں۔ اس وحدت کے لئے تنزلات ضروری ہیں تاکہ یہ تنزلات دھڑکنیں اس وحدت سے کثرت کے ظہور کے۔ اور اس طرح وجود کے مختلف مراتب کے احکام اور ان کی خصوصیات کا تعین ہو سکے۔ حقیقت الحقالق کی اپنی وحدت خالص سے تنزلات کی طرف اور تنزلات سے وجود کے مختلف مراتب کی طرف حرکت تدریجی ہوتی ہے۔ اور اس حرکت سے سوائے اس کے اور کچھ مقصود ہیں ہوتا کہ اس وحدت خالص کا جزو ذاتی کمال ہے، اس کا ظہور ہو سکے ۔

وحدت کی یہ حرکت وجود کی کثرت میں نتیج ہوتی ہے، اس کا باعث یا اور مقدس محبت ہے، اور یہ پاک اور مقدس محبت ذات واحد کے اس ارادہ اختیاری سے جس کو بعض لوگ اس حرکت کا باعث قرار دیتے ہیں اعلیٰ اور رتر چیز ہے..... یہ محبت ابتداء میں بالل بیط ہتھی لیکن جیسے جیسے کثرت کا ظہور ہوا، اس محبت کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا، بات یہ ہے کہ مراتب وجود میں سے ہر ہر مرتبہ کی اپنی اپنی مخصوص محبت ہوتی ہے۔ اور ہر مرتبہ کی اپنی مخصوص محبت سبب بنتی ہے اس مرتبہ وجود کے ظہور کی۔ لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ کوئی محبت ابتداء امر میں بیط ہوتی ہے، اور بعد میں اس سے بہت سی تینی پیدا ہوتی جاتی ہیں، لیکن یہ محبت اس بیط حالت میں بھی ان تمام محبتوں سے جو بعد میں اس سے ظاہر ہوتی ہیں خالی نہیں ہوتی۔ صفحہ ۱۳

الغرض اس عالم میں جو بھی اشیاء ہیں، ان میں سے ہر مرتبے کا مادی وجود گویا ایک جزوی محبت کا منظہر ہے۔ اور جس طرح اشیاء کے انسے انسے مدارج ہیں، اسی طرح یہ جزوی محبتیں بھی مختلف درجے کھلتی ہیں۔ اس صحن میں دھڑکنے والے ہیں۔

"ہمیں اس کام شاہد ہوا ہے، کہ ان انسانیت کے ظہور کا جو اساس حصلی ہے۔ وہ محض حیوانیت کے تابع نہیں، بلکہ حیوانیت سے زائد انسانیت میں ایک اور محبت ہے جو ذاتِ وجود سے ابتداء میں ظاہر ہونی لگتی، اور اسی طرح حیوانیت کے ظہور کا جو اساس ہے وہ بھی تمام تر ناموتیت یا پانپا نیت کے تابع نہیں ہے۔ صفحہ ۲۳

ذاتِ حق کے نظرِ تحلیلیں ہے اشارہ تو اس عالم میں موجود ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اشیاء کی لمحہ بہ لمحہ قل و حرکت کا ذاتِ حق کو کیسے علم موتا ہے۔ ما بعد الطیعت کا یہ بڑا ہم مسئلہ ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحبزادے میں "ذات اول" کو درج ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ذات اول اس کے علم کی اجمالی جہت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ذات اول کو اپنی ذات کا علم ہوا تو اس ضمن میں اس نے نظام وجود کے سلسلہ میں اپنا جو اتفاق اے ذاتی لکھا۔ اس کو بھی جان لیا۔ بات یہ ہے کہ عدالت تامہر کا یعنی وہ عدلت جس کا لازمی نتیجہ اس سے معلوم کا صدور ہو، علم اس امر کی کفایت کرتا ہے کہ عدلت تامہر کے ساتھ ساتھ معلوم کا بھی علم حاصل ہو گیا۔ اب جہاں تک کہ اشیائے عالم کا تعلق ہے، وہ سب کی سب وجہ دالہی میں موجود ہوں۔

..... پیغام پر ایک چیز جب متحقق ہوئی تو اس کا متحقق ہونا اس پیغام پر تھا کہ ذاتِ واجب نے اسے متحقق کیا، اور اسی طرح ایک چیز جب وجود میں آئی تو اس کا وجد دیں آنا اس وجہ سے تھا کہ ذاتِ واجب نے اسے ایجاد کیا۔ غرضیکہ ہر چیز کے مقابلی ذاتِ واجب کا ایک کمال اور اس کا اتفاقا نے ذاتی ہے، اور ذاتِ واجب کے بھی وہ کمالات ہیں جو اشیاء کے ظہور کا بنیں اور ان کے حقائق کی اصل کنہ ہیں۔ چنانچہ جس طرح ذاتِ واجب

کا ہر کمال خود اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ایک چیز کو وجود میں لانے کا تھا ضمی
ہوتا ہے، اسی طرح ہر چیز وجود میں آنے کے لئے ذاتِ واجب کے ایک نہ ایک کمال کی
محتاج ہوتی ہے، گویا کہ ذاتِ واجب کے یہ کمالاتِ اندیشیا، امر و احدهی صفحہ ۲۸۸
یہ تو ذات اول کا علم اجاتی ہوا اشیاء کا۔ ان کے علم اشیاء کی دوسری جست
تفصیلی ہوتی ہے، اور اس کی شرح یہ ہے۔

”ہر چیز جو موجود ہے وہ معلوم ہے ذاتِ واجب کی، اور جو چیز معلوم
نہیں تو اس چیز کا متحقق ہونا بھی ممکن نہیں۔ اور اس سلسلہ میں یہ بات بھی ملاحظہ رہے ہے
کہ یہ معلومات ذاتِ حق کی اس طرح محتاج نہیں کہ جیسے ایک عمارت کا بننا محتاج ہو
ہے عمار کا، یعنی جب عمارت بن گئی تو پھر عمار کی ضرورت نہ رہی۔ بلکہ ان معلومات
کو جب تک کہ وہ معلومات موجود ہیں، اپنے تقریبی، اپنے جو ہر ہونے والے متحقق
ہونے اور قیام پذیر ہونے میں ذاتِ واجب کی برابر حاجت رہتی ہے.....
... انفرض ذات اول ان اشیاء کو ان اشیاء ہی کے ذریعہ جانتی ہے“ صفحہ ۲۹۰

المیات

شاہ صاحب کے نزدیک بنی نوع انان کے ہر ہر فرد کے دل کی گمراہی
میں، اس کے جو مرنگیں اور اس کی جمل بناوٹ میں اثر تعالیٰ کو جاننے کی استعداد
رکھی گئی ہے۔ لیکن انانوں کی اس استعداد پر اکثر پر پڑ جاتے ہیں، انبیاء اور
مصلحین جو میتوڑ ہوتے ہیں، ان کا کام درست انانوں کی اسی نظری استعداد
سے ان پر دوں کو بٹانا ہوتا ہے۔ صفحہ ۳۲۴، صفحہ ۳۲۵
اننانوں میں اثر تعالیٰ کو جاننے کی یہ استعداد کہاں سے آئی، اس کی تفصیل
شاہ صاحب نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔

"خارج میں جب شخص اکبر کا وجود بناتو سب سے پہلا کام شخص اکبر نے یہ کیا کہ اس نے اپنے رب کو بھیانا، اور اس کی جانب میں عجز و نیاز مندی کی اور یہ عجز و نیاز مندی شخص اکبر کے اور اُنکے ایک علمی صورت کی طرح نقش ہو گئی۔ صفحہ ۷۸
جس طرح شخص واحد عبارت ہوتا ہے جسم اور نفس دونوں کے مجموعے سے، اسی طرح کل کائنات کا بھی ایک کلی جسم اور ایک کلی نفس مانا گیا ہے۔ اور ان دونوں کے مجموعے کا نام شخص اکبر ہے، اس شخص اکبر سے جب افلاک، عناصر، انواع اور افراد نکلے تو اُنہر تعالیٰ کو جاننے کی وہ علمی صورت جو شخص اکبر کے اور اُنکے پہلی نقش ہوئی تھی، اُس نے یہ بھی بڑہ درست ہے، اور اسی طرح انسانوں کے اندر ذات حق کی ایک تعلیٰ یا اس کا حجوم مستقر ہو گیا۔ صفحہ ۷۹
شخص اکبر کی اس تعلیٰ کی نوعیت کیا ہے۔ اس بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

شخص اکبر نے جب اپنے رب کو اس طرح جان لیا جیا کہ اس کے جاننے کا حق تھا اور اس نے اپنے رب کا اس طرح تصور کر لیا جس طرح کہ اس کو تصور کرنا چاہیے تھا تو اس نے رب کو اس طرح جانے اور اس کا اس طرح تصور کرنے سے شخص اکبر کے اور اُنکے اُنہر تعالیٰ کی ایک باعظیت صورت نقش ہو گئی، جو تر جان بین گئی اُنہر تعالیٰ کی جہالت شان اور اس کی عزت و رفتہ کی۔ چیز چیز جب تک شخص اکبر کا وجود قائم ہے، اُنہر تعالیٰ کی یہ صورت بھی اس کے اندر موجود رہے گی۔ صفحہ ۷۹

افراد افسانی چونکہ اسی شخص اکبر کا حصہ ہیں، اسی لئے ان میں سے ہر ہر فرد کے اندر شخص اکبر کی اس صورت کا کسی نہ کسی حد تک ہرنا ضروری ہے، نفس ان فی کا یہ نعمت ہے نظر تعلیٰ "کہا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جسے چھے

اسباب و حالات ہوتے ہیں، انہی کے مطابق، ”بِنَقْدِ تَدْلِيٍ“ اور اس کے آنکھ
ظاہر ہوتے ہیں۔ صفحہ ۲۲۳

آخری تدلی کیا چیز ہے؟ ذات حق کے لاحدود کمالات میں سے اس عالم میں
جب کوئی اس کامل، اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عنوان بن جاتا ہے۔
ذات حق کا، تو ذات حق کے کمال کے اس طرح ظہور پر ہونے کو تدلی کہتے ہیں۔
اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

”لہیں جاننا چاہیے کہ افسر تبارک تعالیٰ کی ایک عظیم الشان تدلی ہے جو
خلق کی طرف متوجہ ہے، لوگ اسی تدلی کے ذریعہ برداشت پاتے ہیں اس تدلی
کی ہر زمانے میں ایک نئی“ شان ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ایک زمانے میں ایک منظر
میں ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے زمانے میں دوسرے منظر میں۔ اور جب بھی
یہ تدلی کسی خاص منظر میں ظاہر ہوتی ہے تو اس منظر کا عنوان ”رسول“ ہوتا ہے۔
صفحہ ۲۲۴

شاہ صاحب کے نزدیک ”رسول“ بے شک اس تدلی کے کسی خاص منظر
کا عنوان نہتا ہے، لیکن اخبار اور ریاض اور حکماء اور محدثین بھی تدلی الہی کے
اسی سرچشمے سے ہی عسلم حاصل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”میں
نے اس تدلی کو جو اپنی ذات میں ایک ہے دیکھا اور یہ پایا کہ جیسے جیسے خارجی
حالات و اسباب ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے وہ طرح طرح کے منظاہر
میں صورت پر ہوتی ہے۔ خارجی حالات و اسباب سے میری مراد لوگوں
کی عادت و اطوار اور رسم کے ذمہوں میں جو علوم و رکوز ہوتے ہیں، اُن سے
ہے۔ صفحہ ۲۴۷

ڈوسرے لفظوں میں ہر زمانے میں افسر تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتا

ہے وہ اس زبانے کے مذاق اور اس کی خصوصیات کے زنگ میں رنگی ہوئی ہوتی
ہے اور آخر ایسا کیوں نہ ہو، خود شاہ صاحب کے الفاظ میں ۔

"جہاں تک تدلی اور شعائر کے ظہور کا تعلق ہے تو لوگوں کے جو مسلمات
ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے ہاں مشہور ہوتی ہیں، اور لوگوں کے دل ان سے
مطہیں ہوتے ہیں، تدلی اور شعائر ان چیزوں ہی میں ظہور پذیر ہونے ہیں، چنانچہ
پھری وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تدلی کا ظہور ہوتا ہے، لوگوں کے مسلمات ہی
اس کے نزدیک کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، آخر تدلی سے اثر تعالیٰ
کا مقصد تو یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جہاں تک کہاں سے ہو سکے، اس
کی اطاعت کریں اور اپنے اعضا و خوارج کو اعمال اطاعت کا عادی بنائیں
اور اس کے لئے ضروری ہے کہ تدلی لوگوں کے لئے مانوس صورتوں میں ظاہر
ہو" صفحہ ۹۱

اس مسئلہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ "مکن ہے تمہارے دل میں
یہ خیال گز رہے کہ ہر تدلی کا خارق عادت اور اعجائز ہونا ضروری ہے، اس
لئے کیسے ہو سکتا ہے گز تدلی لوگوں کے مسلمات کے مقابلے ہو" اس پر شاہ صاحب
نے مفصل بحث کی ہے۔ اور آخر میں یہ تجھہ نکالا ہے کہ تدلی کی وجہ سے ان
چیزوں میں اسی خیر و برکت پیدا ہو گئی جو دوسری چیزوں میں نہ ہوتی اور ان
چیزوں کا خارق عادت ہونا دراصل اسی خیر و برکت کے لحاظ سے تھا۔
اس وجہ سے کہ ان چیزوں میں خلاف عادت کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، صفحہ ۹۲

شاہ صاحب تجھے ہیں کہ افہر توانے نے مجھے اس تدلی کے مختلف نمازوں
میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونے کی حکمت اور پھر اس تدلی کی ایک صورت
کا دوسری صورت سے جو درجہ اتنا ذہبے اور وجود را اصل تجھہ ہوتا ہے اُن

خارجی حالات و سباب کا جو اس تملی کے طور پر باعث بنتے ہیں، الغرض اسر تعلی نے مجھے اس حکمت اور اس وجہ احتیاز سے آگاہ فرمایا۔ صفحہ ۷۶
اب اگر آپ اس تملی سے اسر تعلی نے اس کی طرف سے مدد و دعا دار شاد کا وہ سلسلہ مرا دیں جو اہل مذاہب کے نزدیک روز روئیں سے اب تک انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لئے جاری ہے تو شاہ صاحب نے اس ضمن میں اپنی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے، اس کے معنی یہ لئے جا سکتے ہیں کہ شاہ صاحب یہاں مذاہب کے ارتقائی طرف دشوار کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے قدرت کی طرف سے ارتقاء کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھنے کا مکمل عطا کیا گیا ہے۔

وحدت الوجود

شاہ صاحب نے خواب میں (پہلا مشاہدہ) دیکھا کہ اہل اسر کا ایک گروہ ہے جو عقیدہ وحدت الوجود کو مانتا ہے۔ اور اس کائنات میں اب باری کے وجود کے جاری و ساری ہونے کے متعلق وہ کسی نہ کسی شکل میں عوروف فکر کرنے میں مشغول ہے، اور چونکہ اس ضمن میں ان سے ذات حق کے بارے میں جو کل عالم کے انتظام میں بالعموم اور لفوس انسانی کی تدبیر میں بالخصوص مصروف کا رہے، کچھ تقصیر موئی ہے، اس لئے ان لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی نیامت ہے اور ان کے چہرے سیاہ ہیں، اور ان پر خاک اڑ رہی ہے۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحب ذمانتے ہیں کہ بیشک وحدت الوجود کا مسئلہ تعلوم حقہ میں سے ہے اور ذات حق میں محل موجودات کو گم ہونے دیکھنا بھی

اہر واقعہ ہے لیکن ائمہ تعالیٰ نے نفوس ان فانی میں الگ الگ استعدادیں رکھی ہیں۔ چنانچہ ہر شخص اپنی اپنی فطری استعداد کے مطابق ہی علوم حقہ میں سے اگر کسی علم کو حاصل کرے تو اس کی صحیح معنوں میں تہذیب و اصلاح ہوتی ہے۔ اب ہر یہ کہ یہ گردہ جس کو وحدت الوجود پر اعتماد تھا، ان کی اس معاملہ میں بٹک اصل حقیقت تک تو رسائی ہو گئی لیکن چونکہ ان کی طبیعت کو اس علم سے فطری نہ نہ تھی، اس نے وحدت الوجود سے انہیں ندامت اور درسیا ہی کے کچھ عالی نہ ہوا۔ صفحہ ۵۴

یعنی وحدت الوجود کا مسئلہ اپنی جگہ امر حق ہی، لیکن اگر اس سے تہذیب نہیں ہوتی تو وہ بے کار شخص ہے، بے شک وجود باری موجودات میں جاری و ساری ہے، اور مبدل کے ادل اپنے ارادہ حیات میں عالم کے منظاہر حیات میں متوجہ ہجی ہے، لیکن عارف کامل کے لئے ضروری ہے کہ ان امور میں وہ اس طرح غور و فکر نہ کرے کہ اس کے اندر فرسودگی آجائے اور اس کی کیفیات اور جذبات کی ترویازگی باقی نہ رہے۔ صفحہ ۱۹۶

اگر کوئی عارف اس ابتلاء میں پڑ جائے تو وہ یقیناً فریب زده ہو۔ چنانچہ اس ضمن میں شاہزادہ صاحب کو رسول ائمہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حقیقت معلوم ہوئی کر دہ شخص جس سے غیر ائمہ سے تعلقاتِ محبت کو بالکل منقطع کرتے صرف ائمہ ہی سے محبت رکھنے، غیر ائمہ سے حقیرت ابراهیم علیہ السلام کی طرح حدادت کرنے اور نیز ائمہ کے ساتھ شخص علم و معرفت کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمل اور ذاتی عشق و محبت رکھنے میں کوتا ہی ہوتے ہیں۔ شک دہ شخص فریب زده ہے، خواہ اس کا سبب یہ ہو کہ دہ شخص کائنات کی اس کثرت میں ایک ہی وجود کو جاری و ساری دیکھنے میں منہک ہے۔ اور اس کی وجہ سے دہ

اس کائنات کی ہر حیز سے محبت کرنے لگتا ہے، لیکن کہ اس کے نزدیک وہی ایں وجود جو کہ اس کا محبوب ہے اس کل کائنات میں جاری و ساری ہے "صفحہ ۲۵۵" شاہ صاحب کے زمانے میں وحدت الوجود اور وحدتہ الشہود کا مسئلہ مابالنزاع ہوا رہا تھا، آپ نے ان دونوں مطابقت پیدا کی اور ایک ایسی ناہ لکائی کہ مدت و مہرب دلوں کے مطالبات پورے ہو جائیں۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں۔

"میں نے اس پھیلنے ہوئے وجود کو دو جہت سے ذاتِ حق میں گم پایا۔ ذاتِ حق میں اس کے گم ہونے کی ایک وجہ توجیہ ہے کہ وجود چونکہ خود ذات ہی ہے برابر صادر ہو رہا ہے، اس لئے میں نے اسے ذاتِ حق میں گم ہونے کے پایا۔ اور ذاتِ حق میں اس کے گم ہونے کی دوسری وجہ توجیہ یہ ہے کہ اسرائیل کی تجلی اس وجود میں ظاہر ہوئی، اور اس نے ہر طرف سے اس وجود کو اپنے اندر بے لیا۔ چنانچہ اس طرح یہ وجود مبین خود ذاتِ حق میں مجھے گم ہوتا ہوا منتظر یا اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ وجود مبین خود ذاتِ حق ہے، ظاہر ہے، یہ اس کی ذہب زدگی ہے بلکن جو شخص کہ باریک میں نظر کرتا ہے، وہ تو یقینی طور پر اس معاملہ میں اسی توجیہ پر بندھے گا کہ ذات واجب سے شیون الہی (شیون جمع شان کی) کا صدوار ہوا جو کہ مبدی اول میں تھیں اور ان سے اس وجود مبین کا ظہور ہوا" صفحہ ۲۸۶

تاریخ اسلام میں علماء درصوفیا کا ہیگر ڈاشر درع سے چلا آتا ہے۔ اور یہ بحث کہ شریعت مقدم ہے یا اطریقت، ایک عالمگیر نزاع کی شکل اختیار کر رکھی ہے، اس سلسلہ میں ہ صاحب کی رائے یہ ہے

"وہ علماء کہ ان کا جتنا بھی مبلغ علم ہے، وہ اسی کے مطابق مصروف عمل ہیں اور اپنی بساط کے مطابق کسی نہ کسی حدیث سے لوگوں کے تذکیرے میں لگتے

ہیں۔ اور علم اور دین کی اشاعت میں سرگرم کار ہیں اور رسول امیر علیہ السلام
سے زیادہ قریب، ان کے ہاں زیادہ محترم اور ان کی نظر میں زیادہ محبوب
ہیں پسیت ان صوفیاً کے جو "گوار باب" فنا و بقا" ہیں اور "جذب" جو نفس ناطقہ
کی ہوشی سے لپھوتا ہے اور "توحید" اور اس طرح کے تصوف کے جو اور بلند مقامات
ہیں، ان پر سرفراز ہیں "صفحہ ۹"

اگر یہ تمام عالم اور جو کچھ اس کے اندر ہے، سب اُسی کے جلوے کا ٹھوڑی
کمال ہے تو لوگوں کے اس کفر و انکار کے کیا معنی، اور یقول مرتضیٰ علیہ الرحمۃ
تو پھر یہ ہنگامہ ایسے خدا کیا ہے

شاید اسی حقیقت کو شاہ صاحب نے اس تسلی رنگ میں بیان فرمایا ہے۔
”میں روح آفتاب سے ملا اور میں نے اس سے کہا کہ اسے روح آفتاب
لوگ تجھ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور فائدہ الٹھاتے ہیں اور ہر زنگ اور
ہر طور میں تیر انجلیہ اور ظہور دیکھنے کے باوجود وہ تیر انکار کرتے اور تیر سے خلاف
چھوٹ باندھتے ہیں، لیکن تیری حالت یہ ہے کہ نہ تو ان سے انتقام لستی ہو اور
نہ ان پر خفا ہوتی ہے، یہ سُن کر روح آفتاب بولی کہ کیا یہ داعونہیں کہ ان
لوگوں کا غرور اور تکبیر اور تیزان کا اپنے آپ میں لچولانہ سما ناخود تیری اپنی
ذاتی مسرت کا ایک منظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میری نظر ان لوگوں کے غزوہ
تکبیر کی طرف نہیں جاتی، بلکہ میں تو ان لوگوں کی خوشی و شادمانی کو دیکھتی ہوں
اور جانتی ہوں کہ یہ سب میری اپنی خوشی و شادمانی کا ایک پرتو ہے۔ اس
بات کو جانتے ہوئے کیا یہ جائز ہے کہ کوئی خود اپنے ذاتی کمال پر بکری ہے۔ یا
کوئی خود اپنی ذات سے انتقام رے، صفحہ ۹“

آفتاب نے اسی حقیقت کو ”جہاں تیرا ہے یا میرا“ کے تحت اس مصرع

میں ادا فرمایا ہے
اگر کچھ رُد میں انجام ہے ماں تیرا ہے یا میرا

اسلامیات

شریعتوں کی تشکیل ائمہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کی توجہ ایک عالم تدلی کی صورت میں اس کائنات کی طرف منتظر ہوئی۔ یہ تدلی نامہ بنی نويع بشر کے لئے تھی۔ اور اس سے ائمہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے اپنے تک پہنچنے کی راہ لوگوں کے لئے آسان کر دے یہ تدلی مختلف زمانوں میں مختلف صورتیں اختیار کرتی آتی ہے۔ اس تدلی کا مختلف صورتیں اختیار کرنا ان خارجی حالات و مقتضیات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جن میں یہ تدلی میں اور شخص ہوتی ہے۔ تدلی کی ان صورتوں میں سے بتوت، نماز، الہامی کتابیں، شریعت کے احکام و ضوابط اور بیت ائمہ وغیرہ میں صفحہ ۵۷

یہ تدلی عبارت ہے رشد و ہدایت کے اس مسئلے سے جو ابتدائے افریدیں سے چلا آ رہا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب کی شکل میں ظہور میزپر ہوتا رہا ہے، تدلی الہامی کا خارجی حالات سے مطابق مونا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب کے الفاظ میں ”شریعتوں کے احکام و قواعد کی تشکیل لوگوں کی عادات کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس بات میں ائمہ تعالیٰ کی بہت ٹڑی حکمت پوشیدہ ہے، چنانچہ موتا یہ ہے کہ جب کسی شریعت کی تشکیل ہونے لگتی ہے، تو اس وقت ائمہ تعالیٰ لوگوں کی عادات پر نظر ڈالتا ہے۔ چنانچہ جو عادات میں بُرگی ہوتی ہیں، ان کو تو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو عادات میں اچھی ہوتی ہیں، ان کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا ہے۔“

شریعت کا زوال کس شخص پر ہوتا ہے؟ شاہ صاحب کے نزدیک انسانوں کے اخلاق میں سے ایک خلق "نمیت صالح" ہے۔ اور یہ عبارت ہے ایک شخص کے نفس ناطقہ میں ان اعمال اور اخلاق کے متعلق بیداری سے جو اس کے نفس ناطقہ اور انسٹر کے یا اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہیں یا تو "خلق عبارت" ہے اس شخص کے نفس ناطقہ کے نظام صالح کی طرف ہدایت پائے۔ ایغرض جو شخص اس "خلق نمیت صالح" کا مالک ہوتا ہے، انسٹر تعالیٰ نے اس نسبت سے نوازتا ہے، بندے پر انسٹر تعالیٰ کی طرف ہے اس معرفت اور ہدایت کا فیضان اس بندے کی کسی کاوش اور تردی کا صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ اس فیضان کو بارگاہِ رحمت کی ایک برکت سمجھنا چاہئے۔ صفحہ ۲۲۳

صاحب "خلق نمیت صالح" کس طرح اس معرفت اور ہدایت سے نوازا جاتا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔

"یہ رحمت انسانوں میں سے کسی ایسے کامل کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اپنی جدت کے تقاضے سے اس امر کا سخت ہو کر ایک انسان پر طبیعت کے جو اشکام دار ہوتے ہیں، وہ اُن سے بالاتر ہو جائے۔ اور پھر وہ کامل انسانوں کی جس جماعت میں ہو، اس جماعت کے مزاج سے، اور اس جماعت کے مناسب جو اعمال و اخلاق ہیں اُن سے اور نیز اس کی جماعت کے لوگ اپنی حیوانی طبیعتوں سے ترقی کر کے کس طرح قریب الہی کے اس درجے تک جو اُن کے لئے مقدر ہو چکا ہے، پہنچ سکتے ہیں، اس طریقے سے اس طرح ہم نواہ ہو جائے کہ اس کامل کا الفزادی دجوہ اس کی جماعت کے اجتماعی دعویٰ میں فنا ہو گریقاً حاصل کرے۔ اور پھر فطرتاً اس کامل ہیں یہ صلاحیت ہی ہو کر وہ اپنی طبیعت کے مقام پرست سے روح کے مقام قدسی کی طرف جذب ہو سکے.... لغرض

دہ کامل جس کے اوصاف یہ ہوں جب اہل تعالیٰ کی رحمت اس کامل کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ اُسے اپنے ساتھ منقسم کر لیتی اور اس کو اپنے دامن میں ٹھانپ لیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دہ سراہی "جو مقصود و مطلوب ہوتا ہے" دہ اس کامل کے اندر نقش ہو جاتا ہے، اور دہاں پر اس سراہی کا نقش جس جماعت میں کہ یہ کامل ہوتا ہے، اس جماعت کے لئے احکام و قوانین کے قابل میں بدل جاتا ہے..... چنانچہ بیمار کرام پر دھی کے ذریعہ جو شریعتیں نازل ہوتی ہیں اور اولیا پر پرکشش والہام کے ذریعہ جن طرق تصور کا نزول ہوتا ہے، ان سب کی حقیقت در حصل یہ ہے "صفحہ ۲۶۷"

جب سے یہ دُنیا بی ہے، اپنیا رہا برمیوثر ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو وقتاً فوتاً مختلف شریعتیں عطا رہتی رہی ہیں، لیکن ایک زمانے میں کسی رسول پر جو شریعت نازل ہوتی ہے، وہ جہاں تک کہ خاص اس زمانے کا تعلق ہوتا ہے کہ قطعی اور آخری حدیث رکھتی ہے۔ یعنی اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس شریعت کے اتباع کے بغیر خیر و فلاح حاصل ہو سکے، لیکن اگر اس شریعت کو تمام شریعون کو سامنے رکھ کر مجموعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا تو پھر اس حدیث بے شک اضافی ہوگی، اس مسئلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

"جس طرح ہر چیز کی ایک عدالت مقدر ہوئی جو اس کو اس دنیا میں لانے کا بدب بندی، اسی طرح مبدلے اول کی طرف سے شریعون کا ظہور مذکور ہونا بھی جب ٹھہرا یا گیا، اور ان کے ظاہر ہونے کی صورت یہ مقرر ہوئی کہ اہل تعالیٰ نے یہ میلو ہی سے جان لیا تھا کہ جس زمانے میں کوئی شریعت نازل ہو گی اس زمانے میں "خیر و فلاح" ہر ف اسی شریعت کی صورت میں محدود ہوگی صفحہ ۲۳۴" لیکن یہ کیوں؟ اس پارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

ایک زمانے میں ائمہ تعالیٰ کی رضا دخشنودی اس کی اس تدبیر خصوصی میں جو اس بندے کے ذریعہ دنیا میں برپا کار آتی ہے۔ محدود ہو جاتی ہے اور اسی طرح ائمہ تعالیٰ کا قبیر غضب بھی اس کی اس تدبیر کی نتیجت کے ساتھ خصوص ہو جاتا ہے۔ الغرض جب کسی ملت کو ائمہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعتیاز حاصل ہو جاتا ہے تو اس ملت کے سارے کے سارے احکام "حق" سے موسوم ہوتے ہیں اور ان احکام کو "حق" سے موسوم کرنے میں جو بات پیش نظر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں احکام کی صرف اسی "شیع" اور قابی ہی میں ائمہ تعالیٰ کی تدبیر مصروف کا رہوتی ہے۔ اور اس "شیع" اور قابی کے علاوہ اس زمانے میں تدبیر الہی کا اور کوئی منظہر موجود نہیں ہوتا۔ صفحہ ۲۲۵

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا پہچان ہے کہ ایک خاص زمانے میں صرف شریعت کے اسی قابل ہی میں تدبیر الہی مصروف کا رہے اور یہی شریعت حقہ اور اس زمانے کی آخری و قطعی شریعت ہے۔ اس ضمن میں شاہ صاحب کا ارشاد ہے

"اس سلسلہ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ صالح نفوس جو شیطانی آلاتوں سے ملوث نہیں ہوتے، ان نفوس میں اس شریعت کے متعلق چب کر وہ صاحب شریعت سے مجزات صادر ہوتے دیکھیں، پختہ اعتقاد پیدا ہوا اور اسی طرح عقل صحیح بھی اس شریعت کے پہنچانے والے کے سچے ہونے پر دلالت کرے۔ اور اس کی تقدیم کرے کہ صاحب شریعت نے دائمی بارگاہ غنیب سے اس شریعت کو لیا ہے اور نیز مبدی اور اذل سے اس ضمن میں یہ بھی ضروری قرار پایا کہ زیادہ سے زیادہ نفوس فنظر تا پختہ اعتقاد والے اس شریعت سے اثر پذیر ہوں۔ اور اس کی وجہ سے ان نفوس میں عزم دار اور اس کی ایک لہر دوڑ

جائے۔ صفحہ ۲۷۶ مطلب یہ مکلا کہ کسی زمانے میں ایک خاص شریعت کے "حق" ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ صالح نفوس کو اپنی طرف کھینچے، عقل صحیح اس کی تصدیق کرے۔ اور اس کی وجہ سے اعمال نیک کا ظہور عمل میں آئے۔ ایک شریعت جس زمانے میں اور جن لوگوں میں اختقاد پذیر ہوتی ہی، اُس کی صورت جیسا کہ الہام بیان ہوا، یہ ہوا کرتی ہے کہ اس وقت قوم میں جو اچھے خلاق و آداب اور فوائد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کو تو وہ بائی رکھتی ہے اور جو بُرے ہوں ان کو رد کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوموں میں یہ آداب و اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب اس پڑھی روشنی ڈالتے ہیں ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

"انہوں کو فطرت کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ وہ آپ کے تعلقات کو استوار رکھنے کے لئے دستور اور قواعد بنائیں، اس الہام کی بناء پر انہوں نے شہری زندگی کے قاعدے بنائے، خانہ داری کے طریقے وضع کے معاشی اور کاروباری دستور مرتب کئے۔ چنانچہ اجتماعی زندگی کے لئے قواعد اور دستور بنانے کی یہ عادت ان کی فطرت کا اصل الاصول بن گئی، اس کا شمار ان کے ہال ضروری علوم میں سے ہونے لگا۔ جب یہ حضر لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ ائمہ تعالیٰ نے نبی کے قدب کوہہ بلت بخشی کر اس میں ائمہ تعالیٰ کا تعلیم کر دہ دستور جگہ پکڑ لئے۔ اس دستور میں ائمہ کی روح ہوتی ہے۔ اور اس میں برکت اور لوز ہے۔ یہ ہے ائمہ کی شریعت اور اسی کا نام مدت ہے، صفحہ ۲۷۶

بے شک شریعت کی تکمیل تو ائمہ تعالیٰ نے کی وحی کے ذریعہ بنی کرتا ہے، لیکن اس شریعت کے لئے مواد اُس سے اُس قوم سے اور اُس ماحول دعہدہ ہی سے

جسیں ہم بتوث ہوتا ہو ملتا ہے اور اسی وجہ سے شریعتیں مختلف زمانوں میں مختلف شکلوں میں ترقی رہیں بلکن اسی خلاف کے باوجود ان میں ایک اساسی وحدتی بھی موجود رہی۔

وحی

وحی کی حقیقت کیا ہے؟ بشرطیں طرح اس عالمِ مادی میں رہنے ہوئے اُس "مقامِ قدس" میں پہنچ جاتا ہے، جہاں کہ الشہزادے کے لام کرتا ہے۔ اس نازک مسئلے پر بھی شاہ صاحب نے بحث کی، چنانچہ ذہانتے ہیں۔

عارف جب اس مقام پر ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کے قریب ہے تو اس حالت میں وہ فعلِ حق کا اس طرح مشاہدہ نہیں کر سکتا جیسے کہ اُس سے کرنا چاہئے۔ چنانچہ ایسے موقع پر اکثر عارف کو الہامات اور دل کے دسمبوں میں اور الہی کیفیت اور طبیعت کے اقتدار میں اشتباہ ساپدا ہو جاتا ہے۔ اور نیز اس ضمن میں دیباںگی ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہمیں اور اس کے متعلق عارف نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اندر کا کیا حکم ہے چنانچہ وہ اس میں متعدد ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک وہ اس تردید کی حالت میں رہتا ہے بلکن اس کے بعد وہ مقامِ حق کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور وہ اندر کا ہو جاتا ہے اس حالت میں ان کے سامنے ہر ایک چیزِ متجملی ہو جاتی ہے، اور وہ امورِ حزن کے متعلق پہنچے اُسے شہید ہتا، وہ ان پر اور نیز انے شکوہ پر دوسرا بار نظر ڈالتا ہے تو ان کے متعلق اندر کا جوازادہ اور فیصلہ ہوتا ہے وہ منتشفت ہو جاتا ہے اور اس حالت میں وہ گریا اندر کے ارادے اور فیصلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اب اگر وہ عارف "مکلم" ہوتا ہے تو اس حالت میں اس سے کلام کی جاتی ہے، اور اگر وہ "مفہوم" اور "لغتن" ہر تو اس کو افہام و تفہیم اور تلقین کے ذریعہ اندر کے ارادے اور فیصلے کی اطلاع ہوتی ہے۔ صفحہ ۲۷

شاد صاحب نے اپنے اس بیان کی وضاحت کے لئے سورہ "الفال" کے نزول کے واقعہ کو میں کیا ہے اور بتایا ہے کہ "اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے سورہ الفال" میں ایک بصیرت ہے۔ صفحہ ۲۱

ایک اور مقام پر شاد صاحب نے دھی کی مزید تشریح فرمائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، لوگوں میں تابوں کو لکھنے اور رسالوں کو جمع کرنے کا رواج خوب یخیل گیا تھا تو ان حالات میں جب افسر کی تدلی حرکت میں آئی تو لامحال اس وقت لوگوں کے ہاں جو دستور بن چکا تھا، اسی کے مطابق اس تدلی نے بھی صورت اختیار کی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ افسر تعالیٰ کا ارادہ اس امر کا مقصود ہوا کہ رسول ایسی تبلیغات سے بہریاں موجود سے عالم بشریت سے اچک کر خظیرہ القدس میں پہنچا دیں، اور اس طرح طار اعلیٰ کے علوم، طار اعلیٰ کی طرف سے، انسانوں کو ان کے ناپاک شبہات کے جوایات، وحدتِ الہی کے ارادے اور وہ اہمادات خیر خود لوگوں کے دلوں میں ہی سب رسول کے ادراک میں تلاوت کی جانے والی دھی کی شکل میں قرار پذیر ہو جائیں۔ الفرض یہ ہے شان نزول الہامی تابوں کے وجود میں آنے کی صفحہ ۲۲ دھی جو رسول کے ادراک میں تلاوت کی جانے والی آیات کی شکل میں قرار پذیر ہوتی ہے، بعض معانی کا نام ہے یا معانی کے ساتھ الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں اس کے متعلق شاد صاحب کی رائے یہ ہے۔

"دھی یعنی" دھی مسلو" ان الفاظ، کلمات اور اسالیب میں جو خود صاحب دھی کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، صورت پذیر ہوتی ہے اور بھی وجہ ہے کہ عربوں کے لئے افسر تعالیٰ نے عربی زبان میں دھی کی اور سرمایہ بولنے والوں کے لئے سرمایہ میں صفحہ ۲۹

اس ثبوت میں شاد صاحب نے روایاتے صاحب کی مثال دی ہے چنانچہ

فرماتے ہیں۔

"خواب دیکھنے والے کے ذہن میں جو صورتیں اور خیالات پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ انہیں کے بہاس میں خوابوں کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ اسی بناء پر جب ماوراء الارض اور خواب دیکھتا ہے تو اس کو خواب میں رنگ اور مشکلیں دکھائی نہیں دیں اور اس..... اور جو پیدائشی بہرہ ہے، وہ خواب میں بھی آداز نہیں سُنتا" صفحہ ۹۰
اس مثال کے بعد شاہ صاحب اس معاملہ کی فزیل صراحت فرماتے ہیں چنانچہ
لکھتے ہیں۔

"اگر اس معاملہ کی فزیل تحقیق چاہتے ہو تو سنو! عالم غیب سے جب کوئی فیضان ہوتا ہے، خواہ یہ فیضان روزمرہ کا ساعام فیضان ہو یا یہ فیضان اعجاز اور خارقِ عادت کی نوعیت کا ہو، بہر حال یہ فیضان محل فیضان کی حضوری خصوصیات ہوتی ہیں، انھیں کے بہاس میں صورت پذیر ہوتا ہے۔ اور محل فیضان کی یہی خصوصیات ایک فیضان کو زور سے فیضان سے جدا کرنی ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہر فیضان غلبی کی جو بھی اپنی مخصوص صورت اور وضع ہوتی ہے، اگر اس مخصوص صورت اور وضع کا سبب دھونڈنا چاہو تو وہ نہیں اس محل کی خصوصیات میں لئے گا جہاں کہ یہ فیضان واقعہ ہو۔" صفحہ ۹۰

شمارہ دین

دین کا اصل اساس توبے شک امداد کیانے اور اس کے بھیجے ہوئے معمولی پرایاں لانا ہے، لیکن جب تک ایمان کے ساتھ ساتھ شعائر مدد ہوں، دین کی مکمل ہیں ہو سکتی۔ دین اسلام کے اہم شعائر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں۔ نماز کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی وضاحت شاہ صاحب نے ان الفاظ میں ایک

نماز

اگر انسان کے اندر اخلاق و اطوار کی جو نفسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے
ہر فنی کیفیت کا خارج میں کوئی نہ کوئی عملی مظہر ہونا ضروری ہے، اور تبھی عملی مظہر
اس عالم محسوس میں اس نفسی کیفیت کا ادی قائم مقام بن جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کے
یہ عملی مظاہر ہی ذریعہ بن جاتے ہیں، نفس میں اخلاق کی باطنی کیفیات کی تربیت کا جناح ہے۔
اگر تعریف ہوتی ہے تو ان عملی مظاہر کی اور نرمیت کی جاتی ہے تو ان کی اور ذکر ہوتا ہے
ان عملی مظاہر کا، اگرچہ اصل مقصد مودتہ عملی مظاہر نہیں ہوتے بلکہ نفس کی دو کیفیات ہیں
ہوتی ہیں جن کا یہ اعمال خارج میں مظہر ہوتے ہیں، الغرض نفس کے ان باطنی اخلاق کی
بجائے خارج میں جو آن کے قائم مقام ظاہری اعمال ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنا
انہوں کی طبیعت میں داخل ہو گیا ہے۔ صفوۃ

اب سوال یہ ہے کہ نماز کے ارکان مثلاً دعائیں قیام، رکوع، شہاد اور
نفس کی کس باطنی کیفیت کے عملی مظہر ہیں۔ ظاہر ہے جیسا کہ الجی بیان ہوا، نماز کے
یہ عملی مظاہر مقصود بالذات نہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد نفس میں کسی خاص کیفیت کو
پیدا کرنا اور اس کو تربیت دینا ہے۔ شاہ صاحب ان اعمال نماز کو نفس کی صفت
احسان کا مظہر تھا تے میں، اس صفت کی کیا خصوصیات ہیں، اس فہم میں تاہم صاحب
لکھتے ہیں۔

”اس غلق“ اس باطنی کیفیت اور اس رذحانی رنگ سے میری مرآۃ احسان“ کا
صفت یعنی خدا تعالیٰ کی جانب میں خشوع و خضوع اور طبیعت کا لغز کے تاریک
اور فاسد فرات سے پاک ہونا ہے۔ اس ”غلق احسان“ کی خصوصیت یہ ہے کہ
وہ انسان میں اس وقت بھی موجود رہتا ہے جب کہ اس کا نقش حیرانیت سے انتراج

رکھا ہو... اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اخلاق میں سے اُس کے اس خلق احسان کو منصب فرمایا، اس کے بعد وہ اقوال اور افعال انتساب کرنے جو اس خلق کی ترجیحی کر سکتے اور اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں... اس طرح گویا نماز کے یہ اقوال اور افعال بعینہ خلق احسان بن چکے ہیں صفحہ ۵۷

خانہ کعبہ

خانہ کعبہ کا جج بھی اسلام کا ایک اہم شمار ہے، اس کی صرف دستیں پیش آئی اور ایک گھر کو مدد کئے ساتھ میں لیے مخصوص کرنا پڑا، شاہ صاحب نے اس کی بھی وضاحت قرآنی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”حضرت ابراہیم سے چلے لوگ عبادت کاہیں اور یہیے بناتے تھے، انہوں نے اس زمانے میں جب کہ آنکاب کی رومنیت کا غلبہ تھا، آنکاب کے امام پر عبادت گاہیں بنائیں، اور اسی طرح اور اسی خیال کے ماتحت مانہتا پڑ دوسرے تاروں کے نام سے معابد بناتے... اور وہ اس بات کو ایک درست عقیدہ میں مذکور کیا جائے، تو یہ بہ کی جاسکتی ہے، اس زمانے میں حضرت بر ابراہیم مسیحوت ہوتے ہیں اور ان کے زمانے کا جو دستور تھا، اس کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معبد بنانے کا اقتداء مولیٰ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایس مخصوص جگہ جو انہیں نے اس معبد کے لئے مناسب تھی، اس کا انتساب کیا... اور اس سلسلہ میں قاعدے اور دستور مقرر ہوئے...“

ان شعائرِ دینی کو بجا لانے کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ اس خمن میں شاہ صاحب رہاتے ہیں۔ ایک گردہ شعائر اہل کے حقوق ادا کرنے میں صرف اپنی نیت کا

بھل پاتا ہے اور وہ اس طرح کہ یہ گردہ سمجھتا ہے کہ یہ شعائر اشر قائم کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ اور وہ اس کا حکم سمجھ کر ان شعائر کو بجا لاتا ہے، اور اسرا گردہ ان لوگوں کا ہے جن کی رسم کی آنھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اپنے روحاںی عاسی سے شعائر اشر کا ذر محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی بھی قوتیں پر ملکی قوتیں غالب آ جاتی ہیں، اور تیراگردہ ان لوگوں کا ہے، جو شعائر اشر کے نور میں بالکل ڈوب کر اشر قائم کی اس تدری کو جوان شعائر کی صلی ہے، پائیتے ہیں... صفحہ ۲۷۔ یعنی ان شعائر کو بجا لانے سے بعض لوگ تقریب الہی کی لذت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور بعض ان کے ذریعہ اپنی بھی قوتیں پر قابو پاتے ہیں۔ اور ان کے اندر جو ملکی قوتیں موتی ہیں، وہ انھیں محسوس ہونے لگتی ہیں، اور بعض جو مخفی اشر کا حکم سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں، اس سے ان کے اندر ایک نظم اور ضبط پر امانتا ہے۔

آخرت کی زندگی

قرآن عجید میں آیا ہے کہ قیامت کے بعد جو لوگ دوزخ میں جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کو تارکوں کے کپڑے پہننے کو ملیں گے، اور بہشت والے رشیم و حریر میں ملبوس ہوں گے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو دوزخ میں گئے یہ وہ لوگ ہیں جہوں نے دنیا میں کفر کیا، اور اس بکفر کارنگ ان کے چہروں پر چڑھ گیا اور اس کی وجہ سے دہ اشر قائم کی لذت کے مستوجب ہوئے۔ چنانچہ قرآن کا دنیا میں کفر کرنا دوزخ میں تارکوں کے پکڑوں اور چہرولیں کی سیاہی میں بدل جائے گا۔ اسی طرح جو جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں، جو دنیا میں ایمان لائے، اور ان کے ایمان کا

رنگ ان کے نفوس پر چڑھ گیا۔ چنانچہ مرنے کے بعد ان کے ایمان کل ابی رنگ جنت میں دشمن کے گپڑوں اور چہروں کی بشاشت میں بدل جائے گا، اور یہ اس نے کہ شاہ صاحب کے نزدیک اس دنیا کی گیفات جن کو ہماری جسمانی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، دوسری دنیا میں مادی شکلوں میں مل جائیں گی... صفحہ ۲۸

اسی آخرت کی زندگی کے بارے میں ایک اور جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

”جب قیامت کا دن آئے گا اور دن کے یہ جیاتِ حیثیت جائیں گے تو اس دن روح کی آنکھ بذاتِ خود متعلق حیثیت اختیار کرے گی۔ اور حکم کی آنکھ دنیاں روح کی آنکھ کے تابع ہو گی۔ بات یہ ہے کہ آخرت میں زندگی کی جو بھی شکل ہو گی، وہ اس دنیا ہی کی زندگی کا عامل تجیہ ہو گی۔“ صفحہ ۱۵۵

ادیان و ملل کا اختلاف

شاہ صاحب کے نزدیک ادیان و ملل کا اختلاف فطری ہے، اور وہ اس کو کہ دین و ملت کا خارجی حالات و اسباب کے مقابلہ ہونا ضروری ہوتا ہے اور چونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ خارجی حالات و اسباب بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے ادیان و ملل بھی کبھی ایک حالت پر نہیں رہ سکتے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان میں اساسی ہم آہنگی اور وحدت پائی جاتی ہے، شاہ صاحب اس وحدت کے قائل ہیں، اور اس کی طرف وہ مکاشتفے کی زبان میں پاربار اشارے کرتے ہیں مثلاً چوتھے مشاہدہ میں فرماتے ہیں، امیر تعالیٰ نے مجھے اپنی غظم اشان اور جلیل تقدیر کی حقیقت سے مطلع فرمایا، جو تمام بُنی نوع بشر کی طرف متوجہ ہے:- اس تقدیر سے امیر تعالیٰ کو منظور ہے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے نک پہنچنے کی راہ کو لوگوں کے لئے آسان بنائے، اس تقدیر کا عالم مثال میں ایک مشاہی پیکر ہے

اور وہاں سے یہ عالم اجارد میں کبھی ابیمار کی صورت میں بالعموم اور رسول اُنہرِ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اشanel میں با شخص اور کبھی نازکی صورت میں اور کبھی صحیح کی
شکل میں ظہور پذیر ہوتی ہے، میں نے اس تدلیٰ کو جو اپنی ذات میں ایک ہی دیکھا
اور یہ پایا کہ جیسے جیسے خارجی حالات و اسباب ہوتے ہیں، اُنیٰ مناسبت سے
وہ طرح طرح کے مظاہر میں صورت پذیر ہوتی ہے ۔

اس معاملے میں شاہ صاحب کو فکر کی جو دعوت اور ذہن کی جلا محدودت
حاصل تھی، اس کی ایک مکاشفے میں انہوں نے بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے۔ فرماتے
ہیں

..... اس کے بعد میرے لئے اُنہر توانے کی تدکی اعظم ظاہر ہوتی
[تدکی اعظم سے بہاں مراد ہدایت کا وہ ابدی سلسلہ ہے جو آفرینش سے اب
تک برابر چلا کر رہا ہے۔ مترجم] تو میں نے اُسے بے کنار اور غیر تناہی پایا، اور
اس وقت میں نے اپنے نفس کو بھی غیر تناہی پایا، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک
غیر تناہی ہوں جو دوسراے غیر تناہی کے مقابل ہے اور میں اس غیر تناہی
کو نکل گیا ہوں ”صفحہ ۱۵۹“

مذاہب فقہ کا اختلاف

شاہ صاحب کو رسول اُنہرِ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنا ہوا تھا کہ وہ فرد عاتی میں اپنی
قوم کی مخالفت نہ کریں، چونکہ مدد و ستابی مسلمان عرصہ دراز سے حنفی مسکن پر تھے
اس لئے شاہ صاحب نے بھی اپنے اوپر حنفی مذاہب کی پابندی واجب کر لی، لیکن
اریان دمل کی طرح وہ مختلف مذاہب فقہ میں بھی اساسی وحدت کے قائل تھے
چنانچہ وہ اپنے ایک مکاشفہ کا ذکر فرماتے ہیں جبکہ انہوں نے رسول اُنہرِ صلی اللہ

علیہ وسلم کی بارگاہ سے استفارہ کیا۔ اس ضمن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آپ مذاہب فقہ میں سے کس خاص مذہب کی طرف رجحان رکھتے ہیں تاکہ میں فقہ کے اس مذہب کی اطاعت کروں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے نزدیک فقہ کے یہ سارے کے سارے مذاہب میں ہیں... واقعہ یہ ہے کہ آپ کی روح کے جوہر میں ان تمام فتحی فروعات کا جو نہاد علم ہے، وہ موجود ہے اور اس بنیادی علم سے مراد یہ ہے کہ تفہیقی فتنے سے متعلق ارش تعالیٰ کی ہی عنایت اور اہم کو جان لیا جائے، جس کے میں نظر افسالوں کے اخلاق و اعمال کی اصلاح ہے۔ الفرض فقہ کے تمام قوانین کی حصل بنیاد تو یہ عنایت الہی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ پڑتا ہے، اسی کے مطابق اس حصل سے نئی نئی شاخیں اور اگل اگل صورتیں بتی چلی جاتی ہیں، چونکہ رسول ارش صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی حصل جوہر میں فقہ کا یہ بنیادی علم موجود ہے، اس نئے ضروری ہے کہ آپ کے نزدیک فقہ کے سارے مذاہب برابر ہوں۔ بات در حمل یہ ہے کہ فقہ کے مذاہب کو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن چنانچہ فقہ کے ضمن میں دینِ اسلام کے ضروری اصول و مبادی کا تعلق ہے، مذاہب فقہ میں ہر مذہب میں حصہ موجود ہیں، ازید برداں اگر کوئی شخص فقہ کے ان مذاہب میں سے کسی مذہب کا لمحہ تابع نہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص سے ناراض ہوں۔ باہم مسلمین اگر کوئی کوئی بات ہو جس سے ملت میں اختلاف ہو تو ظاہر ہو اس سے بڑھ کر آپ کی ناراضگی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے... مذاہب فقہ کی طرح تصوف کے تمام طریقوں کوئی میں نے بنی علیہ السلام کے نزدیک میں کیا پایا۔ صفحہ ۱۷۷

حنفی فقہ

حنفی فقہ پر عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کو بعض مسائل مشہور حدیث

کے خلاف ہیں۔ چنانچہ علمائے حدیث اور حنفی فقہاء میں صدیوں سے بھی زراع جلا آتا ہے۔ شاہ صاحب گواپنے اپنے اہل وطن کے خیال سے حقی ملک رکھتے تھے، لیکن وہ حدیث کی اہمیت کو بھی مانتے تھے، اس لئے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ حقی مذہب دراحادیث میں اختلاف نہ رہے۔ اس سلسلہ میں آپ کو ایک مکاتبہ ہوا جس میں رسول اصلی علیہ وسلم نے حقی مذہب کے ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ کو آگاہ فرمایا۔ اور حقی مذہب کا یہ طریقہ ان شہور احادیث سے ہے جو امام بن حاری اور ان کے اصحاب کے زمانے میں جمع کی گئیں، اور ان کی اسی زمانے میں جائیج پڑتال بھی ہوئی، موافق ترین ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف اور امام محمد کے اقوال میں سے وہ قول لیا جائے جو مسئلہ زیر بحث میں شہور احادیث سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور پھر ان فتویٰ اخاف کے قادری کی پیر دی کی جائے جو علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزوں میں کہ امام ابوحنیفہ اور ان کے دونوں صاحبی چہاں تک کہ ان چیزوں کے اصول کا تعلق تھا، وہ اس معاملے میں خاموش رہے، اور انہوں نے ان کے بارے میں مخالفت کا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن میں ایسی احادیث میں جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس حالت میں ان چیزوں کا اثبات لازمی اور ضروری ہے اعمال اور احکام میں اس روشن کو اختیار کرنا بھی مذہب حقی میں داخل ہے۔ صفحہ ۱۴۵
سذت اور فقة حقی میں کس طرح تطبیق دی جائے۔ شاہ صاحب نے اس کا ذکر اکتسیوں مشاہدے میں بھی کیا ہے۔ اس میں میں وہ فرماتے ہیں کہ ”اس معاملہ میں نہ تو دور از قیاس تاویل سے کام لیا جائے اور نہ یہ ہو کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث سے بھرا کیا جائے، اور نہ اُست کے کسی فرد کے قول کے خیال سے بنی صلی اسر علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ترک کیا جائے۔“

سذت اور فتح خفی میں باہم مطابقت دینے کا یہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر راشر تھا لئے اس طریقے کو کمال کر دے تو یہ دین کے حق میں کبریت احمد اور اکیر عظیم ثابت ہو گی۔ شاہ صاحب کے نزدیک کبھی یہ بھی موتا ہے کہ ایک زمانے میں کسی مذہب فتحی کو ماننے والے ہی ملت کی حفاظت کرنے والے ہوں یا مشلاً ایک ملک میں ایک فتحی مذہب کے تمام پروپری، اور ان کا یہی فتحی شعار خاص و عام میں حق و بالطل کے لئے وجہ امتیاز بن گیا ہے، اس طرح تسلیم الہی اسی فتحی مذہب میں محدود ہو جاتی ہے اور یہی مذہب فتحی مذہب حق بن جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرمائے ہیں:-

”میں نے دیکھا کہ کسی فتحی مذہب کے حق ہونے کا جو دلیق ہے، اُس کے لحاظ سے آج اس زمانے میں خفی مذہب کو باقی سب مذاہب فقه پر ترجیح حاصل ہے۔ صفحہ ۲۲۵، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اور پر خفی فقه کی پابندی لازم کر لی ہتی۔“

علماء اور صوفیا کا اختلاف

علماء شریعت پر زور دیتے ہیں اور صوفیا طریقت پر ایک کے پیش نظر زیادہ تر ظاہری اعمال دین رہتے ہیں، اور صوفیا کا گروہ باطن پر سارا زور دیتا ہے، علم اور عرفان کی پیشگش بہت پرانی ہے۔ شاہ صاحب چونکہ عالم بھی تھے اور صوفی بھی، اس لئے قدرتی بات تھی کہ وہ شریعت اور طریقت میں مصائب کرنے کی کوشش کرتے چڑھپے اس ضمن میں وہ فراہمے ہیں۔

”قرب الہی کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب رسول اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آئے تو قرب الہی کا یہ طریقہ بھی بندوں کی طرف منتقل ہو گیا۔“

قرب الہی کے اس طریقے میں واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے پیش نظر طاغات دعیادات کے ذریعہ اعفار و جوارح کی اور ذکر و تذکرہ اور اثر اور اس کے بنی علیہ الرحمۃ والسلام کی محبت کے ذریعہ تو ائمۃ لغت کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے چنانچہ عالم لوگوں کی تہذیب و اصلاح کے لئے علوم کی نشر و اشاعت، ایک کاموں کا حکم دینا، براہمیوں سے روکنا..... یہ سب کے سب قرب الہی کے اس طریقے میں داخل ہیں۔

"قرب الہی کا دوسرا طریقہ اثر اور بندے کے پراؤ راست القیال کا ہے... جو شخص اس طریقہ پر چلتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے "انا" کو بیدار کرتا ہے۔ اور اپنے "انا" ہی کی بیداری کے ضمن میں اس کو ذات حق کا تنبیہ اور شور حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی سلسلہ کے یہ فتاویٰ اور جذب اور توحید وغیرہ مقامات ہیں" صفحہ ۱۸

شاہ صاحب کی رائے میں قرب الہی کا دوسرا طریقہ نہ تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عالی منزلت تھا، اور نہ آپ کو مرغوب ہی تھا۔ اور آپ کی ذات اقدس تو قرب الہی کے پہنچنے طریقے کا عتوان تھی۔ اور آپ ہی کے ذریعہ یہ طریقہ عام طور پر پھیلا۔

تصوف

تصوف کیا ہے؟ تصوف کی تعریف میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے مختصرًا اس کی تعریف یہ کی ہے۔ قرب الہی کا وہ طریقہ جس کے ذریعہ اثر اور بند کے درمیان براہ راست القیال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اذکار و اخفال سے انسان کے اندر جوانا ہے اس کی حقیقت کو بیدار کیا جائے۔

ہے اور انہی کی حقیقت کی اس بیداری ہی کے ضمن میں انسان کو ذاتِ حق کا تمہارہ اوہ شعور حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۱۹۰

تصوف کا حاصل "فنا و لقا" - "جذب" اور توحید دیگر مقامات ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کمالات کے مقابلے میں جو شخصی اور انفرادی ہیں، اجتماعی خوبیوں کو جن کو وہ امورِ نبوت سے موسوم کرتے ہیں، بلکہ ترمانا ہے۔ صفحہ ۱۹۱

ہر انسان میں یہ استعداد رکھی گئی ہو کہ وہ اپنے "انا" کو بیدار کر کے خدا تعالیٰ نے سے اتصال پیدا کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کی اس استعداد پر پہنچے ٹھانے ہیں اور ان کو ٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے نفس کی خاصیت کچھ یہی ہے کہ اس پر ہر طبیعت کا اثر ٹھانے ہے، چنانچہ نفس انسانی ان طبائع سے جبقدر متاثر ہوتا ہے، اسی قدس اگر فطری چلا میں کمی آجائی ہے۔ اور اس کے اندر "انا" کا جزو نقطہ تدلی موجود ہوتا ہے، وہ حیپ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ پڑتے ہیں تو اُبے "حقیقتِ الحقائق" کی طرف تجہیز حاصل ہو جاتا ہے۔ صفحہ ۱۹۲

راہِ طریقت کے جو کامل ہیں، ان کو بالفعل ذاتِ حق کا وصال ہوتا ہے اور یہ اس طرح کہ سالک جب اس حقیقت تک پہنچتا ہے، جس کو "انا" سے لغیر کرنے ہیں۔ اور پیز جب وہ اس حقیقت "انا" کو اس کے نچے جو مرتب ہیں، ان سے منزہ اور بخوبی کر لیتا ہے، تو اس حالت میں سالک کا اصل وجود مطلق کی طرف التفات ہوتا ہے، اس وجود مطلق کے کئی نزولات اور بہت سے بیاس ہیں۔ سالک وجود مطلق کی طرف التفات کے ضمن میں ہر ہر نزول اور بیاس کو جان جاتا ہے۔ اس سے وہ اور آگے بڑھتا ہے، زیماں تک کہ وہ اس حقیقت کا جس کے بعد کوئی اور حقیقت نہیں۔ خود اس حقیقت کے ذریعہ ادراک کرتا ہے اور یہ ہے عارف کا ذاتِ حق سے وصال۔ اس مقام میں اگر اس کو علم ہوتا ہے تو اسی حقیقت "انا" کا اور وہ اور اس کرتا ہے تو

اسی "انا" کی حقیقت کو صفحہ ۲۲۶ پر

ادیا، افسر سے جو کرا ماتھا ہوتی ہیں، وہ تجھے ہوتی ہیں، ان کی اس قوت کا
چونق نہ باطھتے میں ہوتی ہے۔ صفحہ ۲۸۹ پر۔ اس سلسلہ میں بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک
نفس میں یہ قوت موجود ہتی، لیکن وہ اس کی دوسری قوت کے اس طرح تابع ہے
کہ دو ان میں فنا ہو گئی، اس حالت میں اس نفس کی یہ قوت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اب
جب دوسرے کوئی نفس اس نفس پر اپنا اثر دالتا ہے تو اس میں وہ قوت الہبراتی ہے
اور ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ فلاں نفس نے اس نفس پر اپنی تاثیر ڈالی۔ اور اس میں
یہ کیفیت پدا آگئی، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ متاثر ہونے والا نفس موثر کرنے والے
نفس سے جو تجھہ بھی حاصل کرتا ہے، وہ اس کے اندر کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ موتا
یہ ہے کہ متاثر ہونے والا نفس اپنی عنانِ توجہ کو خود اپنی باطنی استعداد دیا اس قوت
کی طرف جو بدلے سے اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس طرح پھر دیتا ہے کہ اس استعداد
یا قوت کے مقابلے میں اس نفس کے اندر جو دوسری قوتیں اس قوت کو دبائی ہوئے
ہوتی ہیں، موثر کرنے والے نفس کی تاثیر سببے اثر ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح اس
کی وہ استعداد یا قوت الہبراتی ہے۔ صفحہ ۲۸۸ پر

جماعتِ اولیاء میں سے ایک بڑی تعداد ایسے اولیاء کی بھی ہوتی ہے جن کو
الہام کے ذریعہ یہ اتفاق کیا جاتا ہے، کہ افسر تعاونے نے اپنے لوگوں سے شرعی
قیود اٹھا دی ہیں، اور انھیں اختیار ہے کہ چاہیں تو عبادت کریں، اور چاہیں تو نہ کریں
شah صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد اور میرے چھاکو اور خود مجھے بھی اس طرح
کا الہام ہوا، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیشک یہ الہام برحق تھا۔ لیکن
میرے نزدیک یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی عاقل و بالغ سے شرع کی قیود نہیں مل سکتیں۔
اس تفاصیل کو شah صاحب اس طرح رفع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ اس حالت

میں دراصل شرعی قیود کو کہیں باہر سے اپنے اوپر عالم کیا ہوا نہیں جانا جاتا بلکہ کامل ان کو اس طرح محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی شخص بھوک اور پیار کو محسوس کرے، اور اس صورت میں ان طالعات و عبارات کو ترک کرنے کی اس میں استطاعت نہیں رہی، چنانچہ اس شخص کے لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ طالعات و عبارات اس پر شریعت کی طرف سے عائد کی گئی میں یا نہیں۔ صفحہ ۱۰۵ اسی حقیقت کی تفاصیل ایک اور مقام پر وہ اس طرح کرتے ہیں "فرد" کے حق میں جوان کمالات کا حامل ہوتا ہے جن کا ذکر اور موجود کا، اپنے رب کی عبارت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اپنی طبیعت کے کسی فطری تقاضے کو سجا لارہا ہو۔ صفحہ ۲۱۶، اقبال نے "تائی نامہ" میں شاید اسی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ چنانچہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں۔

برٹھے جایہ کوہ گران توڑ کر طسم زمان و مکان توڑ کر
جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود
ہر اک منتظر تیری یعنی اراد کا تری شوختی فکر و کردار کا
یہ ہے مقصد گردش دزگار کہ تیری خودی تجوہ پر ہوا شکار
اواس کا نجہ دہ ہے بتاتے ہیں کہ تم اور پر سے عائد کئے ہوئے نیکی و بدی کے معیاروں
کے پابند نہیں رہو گے۔ بلکہ "تم خود" فاتح عالم غرب و رشت ہو گے
تو ہے فاتح عالم غرب و رشت نجھے کیا بتاؤں، تیری سر رشت
یہ ہے کمال انسانی خودی کے انتقامار کا۔ اور اسی کمال کے حامل کو شاہد ہے۔
"فرد" کہتے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کی تفصیل کاملہ

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اشصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا۔ ”حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ حضرت علیؓ کے کس اعتبار سے افضل ہیں۔ باوجود اس کے کہ حضرت علیؓ اس امت کے پہلے صوفی، پہلے مجدد و پہلے عارف ہیں؟“

آپ کو بتایا گیا کہ رسول اشصلی علیہ وسلم کے نزدیک فضیلت کی کامرا رامور بُوت پڑھے جیسے کہ عالم کی اشاعت، لوگوں کو دین کا مطبع و فرمائیر دار بنانا اور اس طرح کے اور انور جو بُوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ فضیلت جس کا مرجع دلایت یعنی ”جذب اور فنا“ ہے، یہ تو ایک جزوی فضیلت ہے، اور ایک اعتبار سے کم درجے کی..... وہ عنایت الہی جس کا مرکز و موضوع رسول اشصلی اشصلی علیہ وسلم کی ذات اقدس لھتی، وہ بعدینہ ان دونوں بزرگوں کے وجودگرامی میں صورت پذیر ہوئی..... اور گو حضرت علیؓ نسب کے اعتبار سے اور نیزائی جلس اور محبوب فطرت کے بحاظ ہئے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے زیادہ آپ سے قریب تھے ماورے جذب میں بھی قوی تر اور معرفت میں بھی بالاتر تھے۔ بلکن اس کے باوجود آپ منصب بُوت کے کمال کے پیش نظر حضرت علیؓ سے زیادہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی طرف مائل تھے..... صفحہ ۲۹

سیاست و تنظیم ملت

ایک مکاشفہ میں (صفہ ۲۹) شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ ہندوستان میں کفار کا غلبہ ہورہا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے مال و متعارث لئے

اور ان کی اولاد کو اپنا غلام بنایا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں قائمِ الزمان ہوں، یعنی افسر تعالیٰ نے دنیا میں نظامِ خیر کو قائم کرنے کا مجھے اپنا ذریعہ رکار بنا یا ہے۔ چنانچہ میں نے اسلام کے شعار کو تباہ اور کفر کے رسول کو سر بلند پایا تو میں غصے سے ٹھر گیا۔ ساختیوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت افسر کا کیا حکم ہے؟ میں نے اُن سے کہا کہ ہر نقطہ احمد کو توڑنا۔

ایک اور مکاشفہ میں (صفحہ ۲۱۹) شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ افسر تعالیٰ اُن کے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزا کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے اخینچ ہیئے کہ وہ فروعات میں اپنی قوم کی مخالفت نہ کریں۔ اور ملت کی تنظیم کے لئے ابیمار کا طریقہ اختیار کریں۔ اور ان کے بارہائے گروں کو اٹھائیں اور ان کی خلافت کے لئے کوشش کروں۔

یہ ابیمار کی خلافت کیا ہے؟ ایک تو خلافت ظاہری ہوتی ہے جسے سیاسی اقتدار یا سلطنت کہہ سکتے اور دسری خلافت باطنی ہے جس سے مقصود تعلیم و تربیت کے ذریعہ قوم کی تنظیم ہے۔ شاہ صاحب کو ایک مکاشفہ میں (صفحہ ۲۲۰) دکھایا گیا کہ رسول امسّرِ صلی افٹر علیہ وسلم کی ذات اور اس ہر دو قسم کی خلافتوں کے لئے امورِ حشر ہے۔ چنانچہ آپ کی تکی زندگی خلافت باطنی کا نمونہ ہے اور مدنی زندگی خلافت ظاہری کا، پہلے آپ نے مسلمانوں کو دعوظ دار ارشاد اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ تیار کیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آگے جل کر مسلمان مذہب میں سیاسی اقتدار کے مالک ہو گئے۔ شاہ صاحب کو بھی اسی طریقے پر کام کرنے کو کہا گیا۔ چنانچہ ابیمار کی خلافت کے لئے ان کے کوشش ہونے کا یہی مطلب ہے۔

شاہ صاحب کے سپرد دین اسلام کی تحریک دیدار میہت اسلامیہ کی تبلیغ کی گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے مکاشفہ میں دیکھا کہ وہ اس امت کے قطبِ مجدد

اور وحی ہیں۔ آپ کو علم نبوت کا حوال بنا لیا گیا ہے، اور انسانی نفس کے حالات
ذکوالفہر کے مطابق شرعی احکام و قواعد کے معارف کو استنباط کرنے اور جوڑ
الہی کے جو مختلف مدارج ہیں، ان کے علوم سے آپ کو بہرہ ور کیا گیا ہے ۹۹
رسول ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش تباہ صاحبؑ کے نزدیک ائمہ تعلیٰ
کی اس عنایت کا جو عامم نوع بشر کے لئے مدایت عالمی ہزاد فتحی، جسم انسانی
میں شخص ہونا ہے، اور یہی مطلب ہے تہلی عظم کے مشائی منظر کا جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مشائی کے ساتھ عالم مشائی میں قائم تھا، عالم ناسوت
میں آنے کا اس تہلی عظم کا ذکر کرنے ہوئے ذہ ایک مکاشفہ میں (صفحہ ۹۹)
لکھتے ہیں۔ میں تہلی عظم کے اس مشائی منظر سے جو رسول ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ اس عالم ناسوت میں نازل ہوا یتھل ہو گیا، اور اس سے گھل گیا
اوقت میں نے اپنے آپ کو دیکھا اس مشائی منظر کے جو در قلب ہیں، میں ان
میں سے ایک ہوں..... تہلی عظم کے اس مشائی منظر کا یہ دوسرا قلب جو
علمی سے قریب ہوتا ہے، یعنی میں نے ائمہ تعالیٰ کی اس عنایت ازیٰ کا جو نہایت
عما مہ کی شکل میں ابیار کی صورت میں بالعموم اور رسول ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے وجود مبارک میں با شخصی طور پر مہیں، علمی اچھا کر لیا، اور میں علمی
طور پر اس عنایت الہی کا منظر ہو گیا۔ تباہ صاحبؑ کے لئے اس عنایت ازیٰ
کا احصار تجدید دین کے لئے ضروری تھا، لیکن کو جب تک کسی مسئلے کا تاریخی میں
منظرا نہ ہو، اور اس کے تمام پیروؤں کو نہ جان لیا جائے، اس مسئلے کا شیع
جاڑہ نہیں لیا جا سکتا،

اُس کے بعد ایک اور مکاشفہ میں (صفحہ ۹۹) تباہ صاحبؑ کو رسول ائمہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا قلم عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت کے خومعارف و علوم

ان پر منکشف ہوئے ہیں، اور اسرار تعالیٰ کی تعلیٰ عظم کے اسرار وہ موز کو جو بنی نوع انسان کی پداشت کے لئے برداشت کا رآتی رہی ہے، جس طرح انہوں نے شاہد کیا ہے، اس کو دہ لکھیں اور اس طرح دہ دین اسلام کی خبیدید فرمائیں۔ اور مسلمانوں کو عرضج را قبائل کی راہ درکھائیں۔

کوہنات

تخلیق عبارت ہے مختلف اجزاء کو جمع کرنے اور ان جمع شدہ اجزاء کے لئے جو صورت مناسب ہو، اُن پر اس صورت کے فیضان کرنے سے تاکہ ایک چیز وجود میں آجائے۔ تخلیق کا عمل کبھی انسان کی صورت اختیار کرتا ہے اور کبھی گھوڑے کی اور کچھی کی اور چیز کی، یہ تخلیق تو عناصر میں ہوتی، اور بعض دفعہ یہ تخلیق خیالی صورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ صفحہ ۲۶۸

اس سلسلہ میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ کسی محل میں کوئی تخلیق ہو، اس میں ای نہیں ہو تاکہ اس محل سے خارج کی کوئی چیز میں داخل ہو جائے، ایسا ہونا محالات میں سے ہے، اور عقل کبھی اس کو سلسلہ تہیں کر سکتی، ہاں اس ضمن میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سلسلہ تخلیق میں نشوونما کا ایک محل بہب بنتا ہے، نشوونہوڑ کے دوسرے محل کا، اور ایک محل ہو میں ایک چیز جو موجود ہوئی ہے، وہ سبب ہوتی ہے، دوسرے محل میں اس چیز کے ہوڑ کا۔ صفحہ ۲۶۹

نفیات

السان کے اندر ایک لطیفہ نسمہ ہے، جسے روح ہوائی بھی کہتے ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ اسی نسمے کے آڑ کا رہیں، جن کے ذریعہ وہ ہوتا

وکھتا، سونگھتا، چکھتا اور چھوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان فی نسے میں یہ بھی خاصیت ہی کہ وہ بغیر کان کے مٹن سکے! اور بغیر زبان کے چکھ سکے، اور بغیر ناک کے سونگھ سکے، بغیر ہاتھ کے چھو سکے اور بغیر انکھ کے دیکھو سکے۔ یہ کیسے؟ اس کی توجیہ وہ اس طرح فرماتے ہیں نے میں ایک اجمالی حس ہوتی ہے، جس کا نام حس مشترک ہے، اس کے ذریعہ انسان کے حواسِ حس میں سے ہر حصہ صرف قوتِ خیال پر ہے، ہی پہلے چیز دن کا اور اک کر لیتی ہے۔ مثلاً چکھنے کی حس کی قوتِ خیال پر ہے کہ انسان کھانے کی ایک حرزے دار چیز دیکھتا ہے اور چکھنے سے پہلے مخفی دیکھنے سے اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اسی طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کو گُردگری کرنے کے لئے اس کے قریب ہوتا ہے، لیکن قبل اس کے کہ وہ اس کے بدن کو پا ہتو لگائے، دوسرًا آدمی مخفی خیال سے گردگری محسوس کرنے لگتا ہے، چھونے کی حس کی قوتِ خیال ہے اور حس سماعت کی خیالی قوت یہ ہے کہ وہ لغات اور اشعار کو سننے کے ساتھ ہی ان کے اوزان کا پستہ لگائیں گے بعض نے جن کی حس مشترک بڑی قوی ہوتی ہے، وہ بدن کے ظاہری چوارج کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کے بغیر ہی بصارت، سماعت و ق اور لمس کی حسون سے لذت یاب ہو سکتے ہیں صفحہ ۲۷۶

شاہ صاحب ذرتاتے ہیں۔ مجھے آپ کے فیضِ صحبت یہ علم حاصل ہوا کہ ہر وہ عارف جو صرفتِ حق میں کامل ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی اخذ کرتا ہے، صرف اپنے نفس سے کرتا ہے، اب رہے، اخذ کے ذرائع داسباب، تو ان کی صورت یہ ہو کہ پہلے سے وہ چیز اس عارف کے نفس میں موجود ہوتی ہے، اور یہ ذرائع داسباب صرف داسباب بنتے ہیں، اس کو اس چیز سے ہماگا و کرنے کے، جو عارف اس طرح سے اخذ علم نہیں کرتا وہ صرفتِ الہی میں کامل

نہیں ہوتا۔ صفحہ ۱۹۹

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد

اے اللہ! میں تیری حمد و شناگرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں اس امر کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں تیری حمد و شنا میں قاصر ہوں میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تجھے ابھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا سمجھنے والا نہیں۔ اور تیرے سوا کوئی سختی و نرمی میں میری مدد نہیں کرتا۔ اے اللہ! میں سر تا پا تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میری عبادت، میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا تیرے ہی لئے ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اہل شرک جن کو تیرے ساتھ شرکیت کرنے ہیں، تو ان سب سے بلند و بزرگ ہے۔

اے اللہ! میں اپنے نفس کی بُرا ہیوں اور اپنے اعمال کی خرما ہیوں سے تیرنی پناہ چاہتا ہوں۔ اور تجھے سے اپنے اخلاق اور نیک اعمال کی طرف ہدایت پانے کا بڑے عجز اور اصرار سے سوال کرتا ہوں۔ اور میرا یہ اعتقاد ہے کہ سوائے تیری ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور جس نے کہ زمین اور آسمان کو بنایا، نہ تو کوئی مجھے بُرا ہیوں سے بچا سکتا ہے، اور نہ کوئی اپنے اخلاق اور نیک اعمال کی طرف ہدایت دے سکتا ہے، اور میں اس امر کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی مصود نہیں۔ اور تو اکیلا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں اور نیز میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد تیرے بندے اور رسول ہیں، سب رسولوں سے اور انہیاں سے افضل۔ میری دعاء ہے کہ تو آپ پر، تمام رسولوں اور انہیاں پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر حب تک کہ دن اور رات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور حب تک کہ آسمان سایہ کئے ہوئے، اور زمین سب کو اٹھائے ہوئے ہے خیر وسلامتی بھیجا رہے۔

اما بعد ————— بندہ صنیفت ولی اشد بن عبد الرحمن (خدان دونوں پر لطف و مہربانی فرماتے، اور آن کو اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانپے) عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت،

رسوی سے کہ اُس نے مجھے سرفرازہ فرمایا ہے ہے کہ ۱۴۷۳ھ اور اس کے بعد کے سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مقدمنگر کے حج کی اور اپنے بنی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی توفیق دی۔

لیکن اس سلسلہ میں اس نعمت سے بھی کہیں زیادہ بڑی سعادت جو مجھے میسر آئی، وہ یہ ہتھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو میرے لئے مشاہدہ باطن اور معرفت حقائق کا ذریعہ بنایا اور اسے محض حجاب اور بے علمی کا حج نہیں رہنے دیا۔ اور اسی طرح اُس نے بنی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی اس زیارت کو میرے لئے بصیرت افزوز بنایا، اور اُسے بے بصیری اور اندر ہے پن کی چیز نہ رہنے دیا۔ الغرض اس حج و زیارت کے ضمن میں مجھے جو نعمت عطا کی گئی، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ اور اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ان مشاہداتِ باطنی میں جو اسرار و رموز مجھے ملکین فرمائے ہیں، اُن کو ضبط تحریر میں لے آؤں، اور نیز بنی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی روحاںیت سے اپنی زیارت کے دوران میں خوکچھ میں لئے استفادہ کیا ہے، اُس کو لکھ دوں تاکہ ایک تو یہ چیز خود میرے لئے ایک یادداشت کا کام دے، اور دوسرے میرے اور بھائیوں کو اس سے بصیرت حاصل ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر جو اس نعمت کا شکریہ عاید ہوتا ہے، شاید اس طرح میں اس کا کچھ حق ادا کر سکوں گا۔

میں نے اس رسالے کا نام ”فیوض الحیرین“ لکھا ہے۔ قصہ
مختصر، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہماری کفیل ہے، اور وہی سب سے
اچھی ہماری کار ساز بھی ہے۔ اور پھر خُدراۓ بزرگ و برتر کے سوا
نہ تو کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے اور نہ کوئی قوت۔

پہلا مشاہدہ

ان مشاہدات میں سے پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اور ان میں ایک گروہ ذکر و اذکار کرنے والوں اور سبتوں یادداشت کے حاملوں کا ہے۔ ان کے دلوں پر انوار جلوہ گر ہیں، اور ان کے چہروں پر ترقہ تازگی اور حسن و جمال کے آثار نمایاں ہیں۔ اور یہ لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل نہیں۔

میں نے دیکھا کہ اللہ والوں کی اس جماعت میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو عقیدہ وحدت الوجود کو مانتا ہے، اور اس کائنات میں لئے یادداشت عبارت ہے۔ ذات واجب الوجود کی طرف خالص توجہ کرنے سے، ایسی توجہ جو الفاظ اور تخلیقات سے محدود ہو۔

(مترجم)

ذات باری کے وجود کے جاری و ساری ہونے کے متعلق وہ کسی نہ کسی شکل میں خود فکر کرنے میں مشغول بھی ہے۔ اور چونکہ اس خود فکر کے ضمن میں ان سے ذات حق کے بارے میں جو مکمل عالم کے انتظام میں بالعموم اور نقوص انسانی کی تدبیر میں بالخصوص مصروف ہوتا ہے، پچھہ تقصیر ہوتا ہے، اس لئے میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی نہادت ہے اور ان کے چہرے سیاہ ہیں، اور ان پر خاک اڑ رہی ہے۔ میں نے ان دونوں گروہوں کو آپس میں بحث کرتے پایا۔ ذکر واذکارے کے رہے رہے تھے کہ کیا تم ان اذار اور اس حسن و تازگی کو نہیں دیکھتے جن سے ہم بہرہ یاب ہیں۔ اور کیا یہ اس بات کا ثبوت ہنیں کہ ہمارا طریقہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ ان کے خلاف عقیدہ وحدت الوجود کے قائل کہہ رہے رہے تھے کہ کیا ذات حق میں مل موجودات کا سما جانا یا گم ہو جانا امر واقعہ نہیں؟ اب صورت یہ ہے کہ ہم نے اس راز کو پالیا، جس سے تم بے خبر رہے، ظاہر ہے کہ اس معاملے میں تم پر ہمیں فضیلت حاصل ہے۔

ان دونوں گروہوں میں اس بحث نے جب ایک طویل نزاع کی شکل اختیار کر لی تو انہوں نے مجھے اپنا حکم بنایا، اور اس مسئلہ کو فیصلے کے لئے میرے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ میں نے ان کا حکم بننا منتظر کیا، اور اس ضمن میں میں نے یوں گفتگو کی:-

بات یہ ہے کہ علومِ حق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علوم جن سے

نفوس کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے، اور دوسرے دھنلوپمن جن سے نفوس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفوس انسانی میں الگ الگ استعدادیں دیتے فرمائی ہیں۔ اور ان نفوس میں سے ہر ہر نفس اپنی اپنی استعداد کے مطابق علوم حقہ کا ذوق رکھتا ہے چنانچہ جب کوئی نفس علوم حقہ میں سے آن علوم میں جو خاص اُس کے ذوق کے مطابق ہوتے ہیں اور ان سے اُس کی طبیعت کو مناسبت ہوتی ہے، پوری طرح مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اُس نفس کی تہذیب و اصلاح ہو جاتی ہے۔ بے شک وحدت الوجود کا یہ مسئلہ جو اس وقت مابہ النزاع ہے۔ داقعہ یہ ہے کہ علوم حقہ میں سے ہے، لیکن بات درصل یہ ہے کہ تم دونوں کے دونوں گروہ مذہ تو اس کے اہل نہ ہے، اور نہ یہ چیز تمہارے ذوق اور مشرب کے مطابق نہ ہے۔ اس نے تمہارا مسلک یہ ہونا چاہیئے کہ جس طرح ملائِر اعلیٰ کے فرشتے بارگاہِ حق میں تصریح دنیا زمndی کرتے ہیں۔ تم بھی اُن کی طرح وجود باری کی اُس حقیقت کی طرف جو سب کو جامیں ہے، یکسر متوجہ ہو جاتے۔

اب رہا ذکر و اذکار و اے صحابِ الزار کا معاملہ، سوبات یہ ہے کہ گودہ مسئلہ وحدت الوجود سے تو بخیر ہے، لیکن علوم حقہ میں سے وہ علوم جو خود اُن کے ذوق اور مشرب کے مطابق نہ ہے، وہ انہیں حاصل نہ ہے اور ان کی وجہ سے، ہی اُن کے نفوس کی تہذیب و اصلاح ہو گئی چنانچہ جس درجہ کمال تک پہنچنے کی استعداد لیکروہ پیدا ہوئے نہ ہے، اس طرح وہ

اُس درجہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی رام وحدت الوجود پر اعتماد رکھنے والوں کا معاملہ، تو گواں مسئلہ میں اصل حقیقت تک تو ان کی سماں ہو گئی۔ لیکن علومِ حق میں سے وہ علم جن سے ان کی طبیعت کو قادر تی مناسبت ہتھی، وہ انہیں نصیر بیٹھ ہوتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپنے خیالات کو فکر کی اس دادی میں جہاں کہ یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ موجودات عالم میں وجودِ حق کس طرح جاری و ساری ہے۔ بے عنان چھوڑا تو ان کے ہاتھ سے ذاتِ حق کی تنظیم، اُس سے محبت، اور موجودات سے اُس کے ماوراء اور منزہ ہونے کا سرنشستہ چھوٹ گیا۔ اور دراصل یہی وہ سرنشستہ ہے جس کے ذریعے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے اپنے زرب کو پہچانا، اور ان سے افلاک کی قوتیں نے اپنی فطری استعداد کی بنا پر عرفانِ الہی کے اس سرنشستہ کی دراثت پائی، اور پھر آگے چل کر اس عالم کی یہ ساری فضائیں ان کی معرفت سے بھر گئی۔ اب جو نفعوں سے ذاتِ حق کی تنظیم، اُس کے ساتھ محبت، اور موجودات سے اُسے منزہ ماننے کی اس معرفت کے وارث نہ ہوتے تو اس کی وجہ سے نہ تو انکی تہذیب و اصلاح ہو سکی، اور نہ وہ اپنے مقصدِ حیات ہی کو پاس کے۔

الفرض اے وحدت الوجود کو ماننے والو اور وجودِ حق کو موجودات عالم میں جاری و ساری جاننے والو! تم میں سے اُس گروہ نے اس لئے یونانی فلسفہ میں افلاک کو اس دُنیا میں موثر بنا جاتا تھا، انہیں سے یہ خیال سماں میں بھی پھیلا۔ (متترجم)

راز کو زبان سے نکالا جو اس کا اہل نہ تھا۔ اور وہ گروہ جس کے مشرب اور ذوق کے مطابق یہ علم تھا، وہ خاموش رہا۔ اب تم میں بعض یا یے سخ شدہ لوگ ہیں، جو اس راز سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور اس ضمن میں حصولِ کمال کے لئے عقل و خرد کی جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اور وہ نتیجہ ہوتی ہیں فلکی عناصر کی تاثیرات کا، وہ تم میں سے سے غائب ہیں۔ ان حالات میں قدرتی بات تھی کہ وحدت الوجود کے اس مسئلے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ندرامت اور تمہارے چہروں پر سیاہی ہوتی۔ حقیقت میں اس راز کا اہل تو وہ شخص ہے جس میں عقل و خرد کی یہ صلاحیتیں برومند اور ترو تازہ ہوں، اور اس عالم میں مظاہر و اشکال کے جو تہبہ تہ جیبات ہیں، انہوں نے اس کی ان صلاحیتوں کو لے اثر نہ کر دیا ہو۔

پس نے اتنا کہا تھا کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ گئے۔ اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ پھر پس نے اُن کو بتایا کہ یہ وہ اسرار ہیں جو خاص طور پر مجھے ربت کی طرف سے عطا فرمائے گئے تھا کہ میں اس مسئلے میں تمہارے ان اختلافات کو حل کر سکوں۔ باقی تعریف تو ساری کی ساری اشکال کے لئے ہے جو سب جہاں کا پروردگار ہے۔
میں یہ کہہ چکا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اور میں بیدار ہو گیا۔

لہ قدیر حکمت میں انسانوں کی بعض خصوصیات اور استعدادات کو فلکی عناصر یعنی بنیوم و کواکب کی تاثیرات کا نتیجہ مانا جاتا ہے۔ (مترجم)

صافی الحسنی ۲۴-۱-۲۰۱۲ می گیردی

دوسرا مشاہدہ

میں نے اپنی روح کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی تندیلی کو دیکھا۔ اور وہ مجھے یوں نظر آئی کہ ایک شے وحد ہے کہ اپنی ذات میں باہم القبال رکھتی ہے اور سارے عالم میں جازی و ساری ہے۔ گویا کہ یہ عالم اُس کے اوپر ایک پر دہ ہے اور وہ تندیلی اُس کے اندر ہے۔ اُس وقت میں سمجھتا کہ یہی وہ تندیلی ہے کہ جب عارف اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی چشم رُوحانی سے لے دیکھتا اور اس کے اندر گم ہو جاتا ہے تو عارف کی تاثیر اور اُس کی رشد و ہدایت کی قوت ملہ سُورۃ وَلْجُم میں ہے۔ ثم دنا فتدلی فیکان قاب قوسین آؤ ادنی تصرف کی اصطلاح "تندیلی" اسی فتدلی سے لی گئی ہے۔ کمالات الہی اس دُنیا میں تجلیات الہی کے ذریعہ طور پر ہوتے ہیں۔ تجلیات جس تصرف الہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اُسے اللہ تعالیٰ کی تندیلی کہتے ہیں۔ مترجم

بہت بڑھ جاتی ہے اور راہِ حق میں حق کی خاطر اُس کا تصرف کرنا
جاائز ہوتا ہے۔

اس تدریٰ کے دو رُنخ ہیں۔ اس کا ایک رُنخ تو وجودِ خارجی کے
 مقابل ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ گویا ایک زنگ ہے جو الواقع
نفس کے اندر جماعت ہوا ہے اس کا نام نور ہے۔ اور اس تدریٰ کا
دوسرਾ رُنخ وجودِ ذہنی کے مقابل ہے۔ اور یہ صادق آتا ہے ذات
حق پر، اور اس کو "اَنْهُمْ" یا تدریٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی بناء پر نقشبندیہ
کے ہاں "اندر راج النهاية في البدایه" ہے۔ جو عارف اس تدریٰ کے ذریعہ
ذات حق سے وصل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اختیار
کے سوا اور کسی چیز کو نہیں جانتا۔ اور وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا
ایک دریائے ناپیدا کنار ہے جس میں وہ دُو پا ہوا ہے۔

معرفتِ عظیمہ: ذات حق جب بندوں کی طرف اپنی عظیم ترین
تدریٰ کرتی ہے تو اس کا مشاہدہ اگر روح کی آنکھ سے ہو تو یہ فراد کا ملین
لہ ساک جب حقیقت کی تلاش ہیں نکلتا ہے تو وجود کے ان گوناگون تبعینات اور مختلف
منظہر کے پردوں کو چاک کرتا ہوا آخر پیش وہ جس مقام پر ہنچتا ہے، وہ خود اُسی کا وہ
 نقطہ ہوتا ہے جو اُس کے اپنے وجود کا چین ہے۔ چنانچہ اس بناء پر نقشبندی بزرگوں نے
فرمایا ہے کہ آخری نقطہ تک پہنچنے کے بعد پھر پہلے نقطے کی طرف جو عن کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اندراج
النهاية في البدایه۔ از مرجم

کا مقام ہوتا ہے۔ اور اگر اس تدبی کا ادراک صرف رُوح کے علم سے ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ خواہم بھی شرک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس تدبی کی بات اگر رُوح کے کاون سے سُنی جائے تو یہ کامیں کا مقام ہے۔ لیکن اگر رُوح شخص اپنے علم کے ذریعہ تدبی کے کام کو نہ تو اس چیز میں خواہم بھی شرک ہو سکتے ہیں۔

تحقیق شریف: — معلوم ہونا چاہیئے کہ جس طرح ہمارے بدن کے لئے ظاہر میں آنکھیں، کان اور زبان ہے، اسی طرح ہمارے نفس ناطقہ کی بھی باطن میں آنکھیں، کان اور زبان ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے انسان کے اندر دو لطیفے رکھے گئے ہیں۔ ایک لطیفہ "قیومیت اللہیہ" کا ہے اجو بدن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ وہ بدن کے اندر حصول کئے ہوتے ہے۔ لیکن اس لطیفہ کو "فسمه" یعنی روح ہوائی سے الگ چیز سمجھنا چاہیئے۔ معرفت اشیاء کے سلسلے میں انسان کے اس لطیفے کے درجخ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک درج تو یہ ہے کہ اشتیاد کی تمام صور کا جو اصل مبدأ ہے وہاں سے لہ ہر شے عبارت ہے دو اجزاء سے، ایک جسم اور دوسرا صورت، تمام اجسام کو ایک جسم میں سے صادر ہانا جاتا ہے، اور اسی طرح تمام صور توں کا بھی ایک ہی اصل سے صدر نامانگیا ہے۔ اور یہ ہے مبدأ صور۔ (مترجم)

اس لطیفہ پر ایک مجرد صورت کا فیضان ہوتا ہے۔ اس طرح کسی شے کی معرفت کا نام علم ہے۔ اس سمن میں اس لطیفے کا دوسرا رُخ یہ ہے کہ انسان کا یہ لطیفہ ایک شے کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے اتصال پیدا کر لیتا ہے۔ اس لطیفے کا کسی شے سے یہ اتصال اگر کشف بصری کے اعتبار سے ہو تو اُس کو نفس ناطقہ کے اس لطیفے کی بصارت کہیں گے۔ اور اگر یہ اتصال کشف سماں کے اعتبار سے ہو تو اُسے اس لطیفے کی سماحت کہا جائے گا۔ اور اگر یہ اتصال کشف علمی یعنی کسی کو سمجھانے یا کسی سے سمجھنے کے اعتبار سے ہو تو اُسے نفس ناطقہ کے اس لطیفے کا کلام کہا جائے گا۔

معرفت اشیاء کے سلسلہ میں نفس ناطقہ کے اس لطیفہ کا یہی رُخ ہے جس کی پناپر بندہ اپنے رُپ عز و جل کو دیکھتا ہے۔ اور اسی پناپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ سے اذاع سے املا پر اعلیٰ کے فرشتوں سے اور جو نیک لوگ پہلے گزر چکے ہیں، ان کی ارادوں سے باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ پسا اوقات ایسا ہونا ہے کہ انسان کی روح اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہے، اور روح کی اس روشنی حق کا ایک رنگ شے یعنی انسان کی روح ہوائی میں آ جاتا ہے۔ اور شے سے یہ رنگ انسان کی آنکھ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ رنگ ایک شکل اعتیار کر لیتا ہے۔ اور اُس وقت آدمی کہہ اُعتبا ہے کہ میں نے رُپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ چوں کچھ وہ کہتا ہے،

اس میں یہ شک وہ سچا ہوتا ہے: چنانچہ این عیاض رضی اللہ عنہما سے جو مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو یات یہ ہے کہ آپ کارب کو دیکھنا اسی قبیل سے تھا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا بھی اسی ضمن میں آ جاتا ہے۔

میرا خود اپنا واقعہ ہے کہ ایک دن میں نے آفتاب کی روح
کے اصال پیدا کیا۔ میں نے اسے دیکھا، اور اُس کی باتیں سنبھلیں۔
لہ روح آفتاب — مولانا محمد قاسم "تفتریروں پریز میں لکھتے ہیں" باقی رہ
عالم کے لئے روح کا ہونا ہر چند نظر مسری میں ایک نامعلوم بات معلوم ہوتی ہے،
مگر میں جانتا ہوں کہ وجہ اسکی بجز اس کے ادھر پھونٹنیں کہ زندگی سانش کے لیئے اور اپنے ارادے
سے حرکتوں کے کرنے کا نام رکھ چکر ہے۔ اور اگر ہم تمہی بات جانتے کہ زندگی اسے نہیں کہتے، بلکہ
زندگی حقیقت میں نہیں..... لئے کہتے ہیں کہ جس سے جاننا پہچاننا
سوچنا سمجھنا ثائق رکھتا ہے تو ما سوا انسان اور حیوانات کے زمین آسمان درخت پہاڑ بکر
مجموعہ عالم کے حق ہیں جسی روح کے ہونے کا انکار نہ کرتے..... مجھے بڑی قومی دلیل سے یہ بات
معلوم ہوتی ہے کہ ما سوا انسان اشباح کے جن توہم جاندار کہتے ہیں؟ اور وہیں بھی بلکہ ہر شے میں جان ہے
اور ہر ذرۂ اور ہر چیز کے لئے ہر کس روح ہے تعلیل اس احوال کی یہ ہے کہ پہلے اس سے واضح ہو چکا ک
ہے علم کی ہر حیز کا چھوٹی سے لیکر بڑی تکڑ جو ناذر ہے اور ذات اور ہے لبیں دود و جد ہیں ظاہری اور باطنی
سر بالطی رجوع ذات خداوندی سے کچھ اس ستم کی نسبت ہے، جیسے شاعر اکو افتاب سے، اور دخون لکھ کر
کوئی نزلہ دھولیوں کے جو شعاعوں ہو پیدا ہوتی ہیں اور ہر سحر اور ہر مرید ان میں مدد اور نظر ہیں۔ مترجم

چنانچہ میں نے اُس سے کہا کہ اے رووح آفتاب! لوگ بجھ سے روشنی
حاصل کرتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ہر رنگ اور ہر طور پر تیرا غلیہ
اور ظہور دیکھنے کے باوجود وہ تیرا انکار کرتے اور تیرے خلاف جھوٹ
باندھتے ہیں۔ لیکن تیری حالت یہ ہے کہ نہ تو اُن سے انتقام لیتی ہے
اور نہ اُن پر خفا ہوتی ہے۔ یہ سن کر رووح آفتاب بولی کہ کیا یہ واقعہ
نہیں کہ ان لوگوں کا غرور اور تکبیر اور نیز اُن کا اپنے آپ میں پھولانہ
سماناً خود میری اپنی ذاتی مسترت کا ایک منظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ
میری نظر ان لوگوں کے غرور و تکبیر کی طرف نہیں جاتی، بلکہ میں تو
ان لوگوں کی خوشی و شادمانی کو دیکھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ یہ سب
میری اپنی خوشی و شادمانی کا ایک پرتو ہے۔ اس پات کو جانتے ہوئے
کیا یہ جائز ہے کہ کوئی خود اپنے ذاتی کمال پر بگڑے۔ یا کوئی خود اپنی
ذات سے انتقام لے۔ یہ گفتگو ہو چکی تو رووح آفتاب سے میرا اتصال
اُور بڑھا۔ چنانچہ میں نے اُسے اپنی طبیعت اور جملت میں بڑا فیاض پایا
اسی طرح میں نے اُرا فلاک سے بھی اتصال پیدا کیا اور رووح آفتاب
کی طرح میں نے افلاک کی ازدواج کو بھی اپنے علوم اور اپنی ہستوں
میں ہا ہم متفاہق اور ہم آہنگ پایا۔

ایضابح مزید:- اگر تم اس وجہ ای مسئلہ کی حقیقت دریافت

گرنا چاہئے ہو تو جو کچھ میں کہتا ہوں سنو! تمیں معلوم ہونا چاہئے کہ نفس ناطقہ کا علم اس سے میری مراد نورِ بیطہ سے ہے، یہ ہے کہ انسان کے اندر جو "قیومیت النبی" کا لطیفہ ہے اور جس کا ذکر اور پر ہو چکا ہے، وہ ایک جسم سے مخصوص و مقتיד ہو جائے اور طبیعت کلی "جو خارج میں ایک قعال نقطے کی چیزیت رکھتی ہے، وہ شے معلوم کی مخصوص صورت میں ظہور پذیر ہو۔ اور ہمارے نزدیک یہ اُسی وقت ہی ہوتا ہے، جب ادراک کرنے والے اور جس چیز کا کہ ادراک کیا جاتا ہے، دونوں میں اتحاد ہو جائے۔

اب اس ادراک کی یا تو شکل ہے کہ یہ ادراک کلی منظر کا ہو اولہ پر شامل ہو اس کلی منظر کے نفس پر یا جسم پر، جیسے صورۃ السالیہ یا حرمہ یا زمین یا نور اور باقی عناصر یعنی خاک آگ اور ہوا اور نیرہ افتاب اور ماہتاب کی قوت کا ادراک ہے۔ یعنی ادراک کی ایک صورت یہ ہوئی کہ وہ کلی منظر کا ادراک ہو۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ادراک کسی خاص قسم کا ہو۔ افرادہ شے ادراک کرنے والے نفس کی قسم میں سے ہو۔ جیسے زیدِ نفس عورت کے خدا اور ادراک کی بھلی صورت میں یعنی جب کلی منظر کا ادراک کیا جاتا ہے یہ کیفیت تھی کہ کل عرصہ مطہر میں یادراک اس کلی منظر کے مقابلہ میں ایک مجرد نقطے کی صورت

لندہ بہزاد کا اس دنبا کے علاوہ دوسرے موطن میں ایک کلی وجود مانا جاتا ہے۔ یہ بھی وجودِ عمن ایک قیاس نہیں، بلکہ خارج میں اس کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو طبیعت ہے، اس کا بھی ایک کلی وجود ہے اور اسے طبیعت کلی "کہا گیا ہے۔ مترجم

اختیار کر لیتا ہے، چنانچہ جب تک اُس کی منظر کی حقیقت نفس میں باقی رہتی ہے اُس وقت تک اور اک کا یہ نقطہ مجرد بھی باقی رہتا ہے اور جب وہ قضا ہو جاتی ہے تو یہ نقطہ بھی باقی نہیں رہتا۔ نفس ناطقہ میں جب یہ نقطہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی منظر کلی کی جو حقیقت نفس میں موجود ہوتی ہے، اُس کے آثار و احکام بھی خودار ہو جاتے ہیں ذوقی اور حصیقی دونوں لحاظ سے۔ اور یہ مُراد اور مطلب ہے ہمارے اس قول کا کہ اور اک کی اس صورت میں اور اک کرنے والے نفس اور جس چیز کا کہ اور اک کیا جاتا ہے دونوں متحدد ہو جاتے ہیں۔

اب جب کسی ایسی شے کا اور اک کیا جائے کہ وہ اور اک کرنے والے نفس کی قسم میں سے ہو تو اُس اور اک کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اور اک کرنے والا نفس اُس نفس کے ساتھ جس کا کہ وہ اور اک کر رہا ہے۔ اُن دونوں کی جو طبیعت تھی ہے اُس کی ایک بارگاہ میں جمع ہوتا ہے اور وہاں یہ صورت پیش آتی ہے کہ ایک نفس دوسرے نفس پر غالب آ جاتا ہے کہ خود اُس لئے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اگ ایک حقیقت ہے، جس کا کہ تصور ذہن میں ہے اب نفس ناطقہ اس آگ کا اور اک کرتا ہے۔ اور یہ اور اک ایک مجرد نقطے کی صورت میں نفس ناطقہ میں تقریباً پہنچتا ہے۔ یہ اور اک صرف اسی طرح ہی ممکن ہے کہ خارج میں جو آگ ہے اور جس کا کہ اور اک کیا جا رہا ہے، اُس کا اور نفس ناطقہ میں جو آگ کا پہنچ سے تصور ہے، اُن دونوں کا اتحاد ہو جاتے۔ اور یہ مطلب ہے مدرگ اور مدرگ کے اتحاد کا۔

مترجم

کے اندر غالب آنے کا جزو ہوتا ہے، یادہ دوسرے سے قوت حاصل کر لیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نفس کے مقابلے میں اس میں زیادہ قوت ہوتی ہیں۔ اور ان کی وجہ سے وہ اُس پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ قوت ختم ہونے والی نہ ہو۔

بات در حاصل یہ ہے کہ نفس کی ایک دوسرے پر تمام تاثیر یا تو غلبہ و قدر سے ہوتی ہے اور یا محبت کے ذریعہ، اور ان ہر دو طریقوں میں تاثیر ڈالنے کی صورت یہ ہے کہ ایک نفس کے اندر قدرت کی طرف سے جو قوت و دلیلت کی گئی ہے، اب وہ قوت خواہ دوسرے پر غالب آنے کی ہو یا دوسرے سے متاثر اور مغلوب ہونے کی، یعنی سب سے کنارہ کش ہو کر صرف اُسی قوت کا ہو جائے۔ پھر اپنے یہ وصف افراد کا ملین کا ہے۔ اور اگر ایک نفس میں صرف غالب آنے والی ہی قوت ہو تو یہ غیر کاملین کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ نفس کی ایک اور قسم ہے۔ جس میں غلبہ و محبت کی یہ قوت تو موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات و احکام پر نفس کے مقابلے میں بہت کم اور ضعیف ہوتے ہیں، اس کے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ تاثیر کرنے والا نفس اُس نفس کا جس پر کہ تاثیر ڈالی جائی ہے۔ اور اسی طرح وہ نفس جس پر کہ تاثیر ڈالی جا رہی ہے، دوسرے نفس کا جو موثر ہے، اس قوت کے ذریعہ ادا کرتا ہے۔ اور یہ دونوں نفس باہم متصل ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں نفسوں کے اس طرح ایک دوسرے سے متاثر ہونے اور باہم ملنے سے نفس کی اس قوت سے لیے

ایسے احکام و آثار ظاہر ہوتے ہیں، جو پہلے نہیں تھے۔
 اس میں میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نفس میں یہ قوت
 موجود ہے، لیکن وہ اپنی دوسری قوت کے اس طرح تابع ہے کہ وہ ان
 میں فنا ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ اپنی خصوصیات اور احکام و آثار
 بھی کھو بیٹھی ہے۔ چنانچہ اس عالت میں اس نفس کی یہ قوت بے اثر ہو جاتی
 ہے۔ اب جب دوسرا کوئی نفس اس نفس پر اپنا اثر ڈالتا ہے تو اس میں
 وہ قوت اُبھر آتی ہے۔ اور ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ فلاں نفس نے
 اس نفس پر اپنی تاثیر ڈالی۔ اور اس میں یہ کیفیت پیدا کی۔ حالانکہ
 حقیقت یہ ہوتی ہے کہ متاثر ہونے والا نفس موثر کرنے والے نفس سے جو
 کچھ بھی حاصل کرتا ہے، وہ اُس کے اندر کیمیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ یہ تو
 یہ ہے کہ متاثر ہونے والا نفس اپنی عنانِ توجہ کو خود اپنی باطنی استعداد
 یا اُس قوت کی طرف جو پہلے سے اس میں موجود ہوتی ہے، اس طرح
 پھر دیتا ہے کہ اس استعداد یا قوت کے مقابلے میں اُس نفس کے اندر
 اُس کی جو دوسری قوتیں اُس قوت کو دبائے ہوتے ہوتی ہیں، موثر کرنے
 والے نفس کی تاثیر سے بے اثر ہو جاتی ہیں اور اس کی وہ استعداد یا قوت
 اُبھر آتی ہے۔

الغرض ایک نفس کی تاثیر دوسرے نفس پر خواہ غلبہ کے ذریعہ ہو یا
 غلبہ کے قبیل کی جو اور چیزیں ہیں، اُن کے ذریعے ہے، یا یہ تاثیر محبت
 کے ذریعے ہو یا جو محبت سے متعلق اور چیزیں ہیں، اُن کے ذریعہ ہے،

پر حال ان دو میں سے کسی ذریعہ سے بھی تاثیر ہو، اس تاثیر کے لئے دونوں میں اتحاد کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن اس اتحاد کے لئے ضروری نہیں کہ دونوں شخصوں کا ہر لحاظ سے مطابقاً اتحاد ہو۔ بلکہ اس کے لئے ایک قوت یا ایک جزو کا اتحاد ہی کافی ہے۔ اور نیز اس اتحاد کے لئے ضروری نہیں کہ ان دونوں شخصوں کی طبیعت کلی کے جو مواطن ہیں، ان سب میں ان کا اتحاد ہو، بلکہ اس کے لئے طبیعت کلی کے جملہ مواطن میں سے ایک آدھ موطن ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس قول ہیں کہ ادراک کی اس صورت میں ادراک کرنے والے اور جس شے کا کہ ادراک کیا جا رہا ہے دونوں کا اتحاد ہو جاتا ہے، اتحاد سے اسی قسم کا اتحاد مقصود ہے۔

اپ جب یہ بات واضح ہو گئی تو تمہیں جانتا چاہئے کہ ایک نفس کی دوسرے نفس کے ساتھ تعلق کی کئی صورتیں اور حالتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اتحاد، دوسرے نفس میں گرم ہو جاتے، اور اس نفس کے علاوہ سہرثے کو بھول جانے کی صورت ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک نفس دوسرے نفس سے الگ ہونے کے باوجود وہ کسکے رہ گئیں جگہ جائیں گے اس ساتھ ساتھ اسے یہ بھی محسوس ہو گا کہ وہ ہر لحاظ اور سہر جہت سے تو دوسرے نفس کی طرح نہیں، البتہ ایک نہ ایک لحاظ اور جہت سے وہ دوسرے نفس کا سا ضرور ہے۔ اس صورت کا نام ”رمیت“ ہے۔

ایک نفس کی دوسرے نفس کے ساتھ تعلق کی تیسرا صورت یہ ہے
کہ ایک پر دوسرے کے جملہ احکام اس طرح غالب آ جائیں کہ اُس کے
اندر جو قوت ہے، وہ بے اثر ہو جائے۔ گویا کہ وہ کہیں جھپٹپٹ گئی۔
اس حالت میں یہ احکام "اتحاد" اور "روتی" کی دو سابقہ صورتوں کے
 مقابلے میں بہت کمزور شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نفس کی
یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ اثر تو وہ "طرف غالب" سے لیتا ہے، اور
کھوڑا بہت اثر نفس کی جنت مغلوب سے آتا ہے۔ دونوں کے تعلق
کی اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ زید کے نفس نے عمر و کے نفس سے
بات کی اور اُس نے اس نفس کی بات سنی۔

دونوں کے تعلق کی چوتھی صورت یہ ہے کہ نفس میں غلبہ و محبت
کی جو قوت ہے اُس کا اثر و نفوذ سرے سے غالب ہو جائے اور اُس
کی بجائے اُس کا ایک ہلکا ساختاں رہ جائے۔ لیکن یہ خیال ایسا ہو کہ
اس سے جوازات مترب ہوں، وہ اُس قوت کے اصلی احکام کے خلاف
اوہ ان سے الگ ہوں۔ اس صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ذہن میں
ایک صورت آئی اور آئینے کی طرح اُس میں نقش ہو گئی۔

الغرض ایک نفس کی دوسرے نفس کے ساتھ تعلق کی یہ چار صورتیں
ہیں جن کا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور ہر صورت کے اپنے اپنے احکام ہیں۔
تمیں چاہئے کہ ان معاملات میں خور و تدبر سے کام لو۔
اس سے پہلے ہم بتا آئئے ہیں کہ انسان کے اندر دو لطیفے ہیں۔

ایک لطیفہ "قیومیت اللہی" کا ہے، جو بدن سے متعلق ہے، اور اس کے اندر حلول کئے ہوئے ہے۔ معرفت اشیاء کے ذیل میں یہ لطیفہ جس طرح موثر ہوتا ہے، ہم ابھی اس کے ذکر سے فارغ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک اور لطیفہ "لنسمہ" بھی ہے۔ سنئے میں ایک اجمالی جس ہوتی ہے اور اس جس کا جسم کے جوارح سے اتصال ہوتا ہے۔ اگر کان کے فعل سے لنسمہ کی یہ اجمالی جس متعلق ہو تو وہ سُننا ہے۔ اور اگر آنکھ سے اس کا اتصال ہو تو وہ دیکھنا ہے اور اگر زبان سے ہو تو وہ چکھنا ہے۔ اور اگر جسم کے کسی حصے سے چھوٹے سے لنسمے کی اس اجمالی جس کا تعلق ہو تو وہ لمس ہے۔ لنسمے کی اسی اجمالی جس کو "حس مشترک" کا نام دیا گیا ہے۔

لنسمے کی اس اجمالی جس ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان کے پانچ حواس میں سے ہر ایک جس چھوٹے، چکھنے، سو مگھنے، دیکھنے اور سشنے سے پہلے ہی ان چیزوں کا خیال کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نقطہ ہے جو بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے۔ اب آنکھ اُسے دیکھتی ہے اور اُسے دائرہ سمجھتی ہے، حالانکہ دہان دائرہ کا کہیں وجود نہیں ہوتا۔ اس گھونٹے والے نقطے کو دائرے کی صورت دینے والی چیز آنکھ نہیں بلکہ لنسمے کی یہی جس اجمالی یا حس مشترک ہے۔ یہ تو ہم اسے دیکھنے کی حس کا معاملہ، ان پانچ حواس میں سے چکھنے کی جس کی قوت خیال یہ ہے کہ مثلاً انسان کھانے کی ایک مرتبے دار چیز دیکھتا ہے، اور چکھنے سے پہلے محض دیکھنے ہی سے

اُس کے مُنہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کو گدگدی کرنے کے لئے قریب ہوتا ہے، لیکن قبل اس کے کہ وہ اُس کے بدن کو ہاتھ لگائے، دوسرا آدمی محض خیال سے گدگدی محسوس کرتے لگتا ہے۔ یہ چھوٹے کی حس کا خیال ہے۔ اور حس سماught کی خیالی قوت یہ ہے کہ وہ نغمات اور اشعار کو سُننے ساختہ ہی اُن کے افراد کا پستہ لگا لیتی ہے۔ الغرض انسان کے کان، اُس کا جسم اور زبان وغیرہ تو شن کر، چھوکر اور چکھ کر ایک چیز کو معلوم کرتے ہیں، لیکن لشکے کی حس مشترک محض خیال سے اس چیز کو معلوم کر لیتی ہے۔

بعض لشکے جن کی حس مشترک بڑی قوی ہوتی ہے وہ بدن کے ظاہری جوارح کی طرف ملتفت ہیں ہوتے بلکہ وہ ان کے بغیر ہی بصارتِ عہد ذوق اور اس کی حسون سے لذت یا بہو سکتے ہیں۔ اور اگر تم اس مسئلے میں حصلِ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ لشکے کی بھی وہ حس اجمالی ہے جس کے ذریعہ ظاہری جوارح کی حسیں چیزوں کا ادراک کرتی ہیں۔ اور ایک مر نے پر جب رُوحیں اپنے بدلوں سے الگ ہو جاتی ہیں تو شاید لشکے کی بھی وہ حس اجمالی ہے جو خود اپنی جگہ مستقل ہو جاتی ہے۔ اور اپنے خیال سے جیسے جیسے اُس کے لئے ممکن ہوتا ہے، مثالی شکلیں پیدا کر لیتی ہے پاکل اسی طرح جیسے اس دُنیا میں جن اور فرشتے مختلف نسلوں میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

تیسرا مشاہدہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لئے جو شعائر مقرر کئے گئے ہیں،
میں نے دیکھا کہ ان سے نور کی پیش نکل رہی ہیں۔ اس سے میں ان
شعائر کی حقیقت کو سمجھ دیا۔ بات درجیں یہ ہے کہ رُوحانی امور کو سب
سے زیادہ مناسبت الگہ کسی پیر ہے تو وہ نور ہے۔ چنانچہ اسی روحانیت
ہی کا اثر ہے کہ ان شعائر میں نور کی ہمتیت واضح ہو گئی ہے۔ انسان ان
شعائر کے نور کا اپنے روحانی حواس سے اور اک بھی کر سکتا ہے۔ اور اس
اور اک کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اور اک روح کے اندر نقش ہو جاتا
ہے۔ اور اس سے انسان کے اندر الشراب پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل
میں وصفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور روحانیات سے اس کی مناسبت اور

لئے خاصہ کمیہ، نماز، رج، روزہ دعیرہ پر سب اللہ کے شعائر ہیں۔

بترجم

بڑھ جاتی ہے۔

نیز شعائر اللہ کی طرف جب لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو اس سلسلہ میں ان کے یہ یہ گردہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ شعائر اللہ کے حقوق ادا کرنے میں صرف اپنی نیت کا اجر پاتا ہے اور وہ اس طرح کہ یہ گردہ سمجھا ہے کہ یہ شعائر اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس کا حکم ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ وہ اُس کا حکم سمجھ کر ان شعائر کے حقوق بجا لاتے ہیں، دوسرا گردہ اُن لوگوں کا ہوتا ہے جن کی روح کی آنکھیں کُصل جاتی ہیں۔ اور وہ اپنے روحانی حالت سے شعائر اللہ کا نور حسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اُن کی بہی قوتیں پر ملکی قوتیں غالب آ جاتی ہیں۔ اور تیسرا گردہ اُن لوگوں کا ہے جو شعائر اللہ کے نور میں بالکل ڈوب جاتے ہیں۔ اور اس حالت میں جب وہ عز و خوشن کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس تدبی کا جوان شعائر کی اصل ہے ادراک کر لیتے ہیں اور اس سے وہ حیرت زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔

چوتھا مشاہدہ

یہ مشاہدہ مشاہدہ عظیم اور تحقیق تحقیق عالی ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اُس عظیم الشان اور جلیل القدر تدریٰ کی حقیقت سے مطلع فرمایا جو تمام بینی نوع بشر کی طرف متوجہ ہے۔ اس تدریٰ سے اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے تک پہنچنے کی راہ کو لوگوں کے لئے آسان بنائے۔ اس تدریٰ کا عالمِ مثال میں ایک مثالی پیکر ہے۔ اور وہاں سے یہ عالمِ اجساد میں کبھی انبیاء کی صورت میں بالعموم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بالخصوص اور کبھی کتب الہی کی شکل میں بالعموم اور قرآن کی شکل میں بالخصوص اور کبھی نماز کی صورت میں اور کبھی حجج کی شکل میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ میں نے اس تدریٰ کو جو اپنی ذات میں ایک ہے دیکھا اور یہ پایا کہ جیسے جیسے خارجی حالات

داسیب ہوتے ہیں، اُسی مناسبت سے وہ طرح طرح کے مظاہر تھیں صورت پذیر ہوتی ہے۔ خارجی حالات داسیب سے بیرونی مراد لوگوں کی عادات و اطوار اور ان کے ذہنوں میں جو علوم مرکوز ہوتے ہیں، ان سے ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی جب یہ لوگ عالم بزرخ میں پہنچتے ہیں تو ان کی یہ عادات و اطوار اور یہ علوم ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ اور ان کی یہ عادتیں اور ان کے یہ اطوار اور ان کے یہ مرکزی علوم ذریعہ بنتے ہیں حظیرۃ القدس میں اس عظیم الشان تدبی کے خاص مثالی پیکر میں بروتے کار آئے کا۔ الغرض اس طرح ایک خاص زمانے میں اس تدبی کا ایک مثالی پیکر حظیرۃ القدس میں بنتا ہے اور وہاں سے جب کہ ارادۃ الٰہی اس کا مقاضی ہوتا ہے اور جس وقت کہ دُنیا کے علوی اور سفلی حالات اس کے لئے سازگار ہوتے ہیں، یہ مثالی پیکر عالم جسمانی میں نازل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تدبی کے مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونے کی حکمت، اور پھر اس تدبی کی ایک صورت کا دوسری صورت سے جو وجہ امتیاز ہے، اور جو دراصل نتیجہ ہوتا ہے، ان خارجی حالات داسیب کا جو اس تدبی کا باعث بنتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکمت اور اس وجہ امتیاز سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ اب ہم انشاء اللہ اس تدبی کی جو خدا پنی ذات میں ایک ہے حقیقت اور مختلف زمانوں میں اس کی مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونے کی

کیفیت پیان کریں گے۔

اس شخص میں تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ خارج میں جب شخص اکبر کا وجود بنتا تو سب سے پہلا کام جو اُس نے کیا، وہ یہ تھا کہ اُس نے اپنے رُخت کو پہچانا اور اُس کی جانب میں عجز و نیاز مندی کی۔ اور یہ عجز و نیاز مندی شخص اکبر کے ادراف میں ایک علمی صورت کی طرح نقش ہو گئی، اب اس علمی صورت کے درُخ ہیں۔ اس کا ایک درُخ تو شخص اکبر کا وہ حصہ جو جسم اور جماعت اور روح اور روحمات سے متعلق ہے اس کے مقابل ہے، اور دوسرا درُخ اُس کے وجود و نیاز کے مقابل ہے۔ اور اس طرح یہ دوسرا درُخ علم کا مقصود یعنی خود "معلوم" بن گیا۔ چنانچہ تدبیات الٰہی میں یہ تدبیتی جو وصال الٰہی کا ذریعہ ہے اسی درُخ سے متعلق ہے اور یہ شخص اکبر کے حصہ میں آئی ہے، اور اسی سے اُسے اللہ تعالیٰ کی معرفت لفیض ہوتی۔ اب اس تدبیت کا ایک اپنا مخصوص

لئے یہ سب کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کا صدور ایک بھی وجود سے ہوا ہے اور یہ موجود کے دو مرتبے ہیں، ایک مرتبہ غیر ہے جس کے تین درجے ہیں۔ درجہ اول حدید دوسرا درجہ حدیث (تہذیب و احذیث) وجود کا دوسرا مرتبہ خارج میں ظہور کا ہے جس کے تینی میازل ہیں، الواقع، ومثال اور جام۔ خارج ہے یہاں مراد وجود کا یہ مرتبہ ظہور ہے۔ میازم تھے ایک شخص داحد عیارات ہوتا ہے جسم اور نفس دلوں کے مجموعے سے۔ اسی طرح گل کائنات کا بھی ایک کلی جسم اور کلی نفس مانا گیا ہے۔ اور ان دلوں کے مجموعے کو شخص اکبر کا نام دیا جاتا ہے۔

مترجم

مقام ہے جس سے دہ بجادو زنیں کرتی، چنانچہ جو شخص اُس کے دائرہ اثر میں آتا ہے، اُس کو اس معرفت میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ الغرض اس تدلی کے تسلیمات میں سے جب کسی تنزل کا ایک محدود مقام میں قتل ہوتا ہے تو چیزیں بھی اُس مقام کے حالات و مقتضیات ہوتے ہیں اُسیں کے مطابق یہ تدلی صورت پذیر ہوتی ہے، اور اس تنزل میں دونوں جانبوں کے احکام کی رعایت کی جاتی ہے۔ یعنی ایک یہ کہ جو تدلی اصل مقصود ہے، وہ محفوظ رہے اور دوسرے اُس زمانے اور مقام کے جو حالات و مقتضیات ہوں ان کو محفوظ رکھا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ معرفت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تمہیں چاہئے کہ اسے خوب مصبوطی سے پکڑو، مجیے کہ کوئی کسی چیز کو دانتوں سے پکڑتا ہے۔

شخص اکبر کے ظہور پذیر ہونے کے بعد جب افلک میں سے ایک ایک فلک اور عناصر میں سے ایک ایک عنصر اپنی ظاہری اور مخفی روح کے ساتھ معرض وجود میں آیا، تو ہر فلک اور ہر عنصر سے جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی، وہ یہ لھتی کہ اُس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور اس کی جانب میں جزو و نیاز مندی کی، اور اس ضمن میں ان میں سے ہر ایک نے خود اپنے فطری تفاصیل سے شخص اکبر سے مددی۔ اور یہ افلک اور عناصر کوں شخص اکبر سے مدد نہ لیتے آخراں کی اصل اور ان کے وجود کا مندرا تو شخص اکبر ہی ہے۔ چنانچہ یہ فلک اور یہ عناصر اپنی طرح ذات حق کی طرف متوجہ ہوئے جس طرح کہ خود شخص اکبر اُس ذات حق کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن اس

سلسلہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ شخص اکبر اور اُس کے اندر اشہر تعالیٰ کی جو تدبیٰ تھی، وہ بیب بنی ایک فیضان کا جو ایک ایک فلک اور ایک ایک عنصر کے ادراک میں ایک خاص صورت میں رومنا ہوا۔ یہ اس باب میں معرفت کا دوسرا نکتہ ہے۔

شخص اکبر، افلک اور عناصر کی تخلیق کے بعد "اعیان" کا ظہور ہوا۔ ان اعیان کو ارباب الواقع بھی کہا گیا ہے۔ الغرض جب یہ اعیان معرفتی وجود میں آئے تو ان میں سے ہر ہر نوع کے الگ الگ احکام کا تعین ہوا۔ لیکن یہ اس دُنیا کا نہیں بلکہ عالم مثال کا ذکر ہے۔ اب ان الواقع میں سے ایک نوع انسان کی ہے۔ اور یہ نوع اس لحاظ سے کہ اس میں مفتر الہی کی استعداد بھی گئی ہے۔ اور یہ پہنچے احوال کی جواب دہ بھی ہے اور نیز اسے بیکاراً ہمیں چھوڑا گیا، اور بھر اس بنا پر کہ اُس کو خدا کی امانت کا حامل بنایا گیا ہے وسری الواقع سے مستائز ہے۔ جب عالم مثال میں نوع انسان کا یہ مثالی پیکر بناتا تو اس سے تقسیم اختصاری کے قاعدہ پر افراد انسانی ظاہر ہو ہو کہ عالم اجسام میں لہ: اعیان جمع میں کی۔ افلاطون کے نزدیک ہر چیز جو اس دُنیا میں پائی جاتی ہے اس دُنیا کے مدار ایک دُنیا ہے اجس میں اس چیز کی حیثیت موجود ہے۔ اس ہل چیز کو عین کہتے ہیں۔ ان اعیان کو مثل افلاطون کا نام بھی دیا گیا ہے۔ مترجم

لہ یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف ۳۱۷۴
الله تَعَالَى تَعْصِيمَ الْخَصَارِيَّةِ مَثَلَ الْأَنْجَارِ مَثَلَ الْأَنْجَارِ تَرْكِيمَ
مَثَلَ تَعْصِيمَ الْخَصَارِيَّةِ مَثَلَ الْأَنْجَارِ کے طور پر کہ کو ہم صرف اکھم خل اور حرف پر اسی تقسیم کر سکتے ہیں اور ان کے سوا کلمہ سے کچھ اور نہیں بدل سکتا۔ تقسیم، تقسیم، اختصاری کہلاتی ہے۔ مترجم

ہے نے لگے۔ ان افراد کے ظاہر ہونے کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کہ کوئی موسیقار ہوا درودہ اپنے ساز کی تاروں کو جانچنے کے بعد یہ معلوم کر لے کہ ان تاروں میں یہ راگ ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ اس کے بعد وہ سوچے کہ اگر میں اس راگ کو فلاں راگ سے ملا دوں تو ان دونوں کے ملنے سے یہی اور راگنیاں پیدا ہو جائیں گی، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم، جیسے کہ حصر کرنے والی عقلی تفہیم کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان راگنیوں کو ایک دوسرے سے ملائے اور اس طرح وہ برابر کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ راؤں اور راگنیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو بہر حال محدود ہی ہو گی، معلوم کر لے۔ اب وہ اپنے راؤں اور راگنیوں کو یاد کر لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر راگ کے کیا اصول و احکام ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی کیا خاصیت ہے۔ اور نیز ایک راگ کو دن کے کس حصے میں اور کس محلہ میں کیا جائے اور دوسرے کو دن کے کس حصے میں اور محلہ میں۔ العرض ہر طرح راؤں اور راگنیوں کا یہ سلسلہ نہایت حد تک چلا جاتا ہے اب ذریں کیا اگر اس موسیقار کی عمر اپنی تک متبرہو جائے تو ظاہر ہے اس شخص کی آگوں کے عالم میں یہ اعجوبہ کاری کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔

قصہ مختصر، نوع انسانی کے اُس مثالی پرکر سے جو عالم مثالی میں قائم ہے، اس طرح افراد انسانی ظاہر ہوتے اور اس طرح وہ الگ الگ استعدادوں اور قوتوں کے مالک ہئے۔ چنانچہ ان افراد انسانی

میں سے بعض ذہین ہیں اور بعض گندہ ہیں، اور بعض ان میں سے پاک نفوس رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حظیرہ القدس میں ان افراد کی تہییں، ان کے نفوس اور ان کی الشانیت کا جوہر اشد تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ چنانچہ دلائل یہ سب کے سب افراد اس طرح ہو گئے جیسے کہ یہ ایک چیز ہیں۔ اور ان پر ایک ہی نام صادق آتا ہے، اور ان تمام کے تمام کا ایک ہی طرف انتساب ہے۔ حظیرہ القدس میں ان سب کے ایک ہونے کا "النَّاسُ إِلَيْ" نام رکھا گیا ہے۔ اور حظیرہ القدس میں ان کے اس طرح ایک ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم مختلف افراد انسانی کو با وجود ان کے باہمی اختلافات کے ان معاملوں اور ادراکات میں ایک دوسرے سے قریب پاتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ مقام ہے جہاں اشد تعالیٰ کی تدبی غظم کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہی حیز ہے جو عالم مثال میں ان کے لئے "قدم صدق" اور ان کے پروگار لہ حظیرہ القدس۔ تہیں کیسی یگان نہ گزرے کہ جس مقام کو ہم حظیرہ القدس کہہ سکتے ہیں، شاید وہ بینی آدم سے کئی مسافت دور ہوگا، یا وہ اس دُنیا سے کیسی بلندی پر یا کسی اوز طرف واقع ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے۔ بلکہ درصلح حقیقت یہ ہے کہ حظیرہ القدس اور ہمیں آدمیمیں اگر فرق دلقاوت ہے تو صرف مرتبہ کا ہے، بُعد مسافت کا ہیں۔ اور حظیرہ القدس کو ہم سے دہی نسبت ہے جو درج کو جسم سے ہوتی ہے۔

چو جاں اندر جن دتن جاں ندیوہ ॥ ہمیں کا اردو ترجمہ (متترجم)

لہ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف: "أَنَّ نَفْسَنَا قَدَمَ عِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ"۔

سدہ یونس۔ ۲۔ (مسنون)

کی طرف سے "مقام معلوم" کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔

اب ہوتا یہ ہے کہ نقویں انسانی جیب کبھی اپنی حیوانی عادات کی آلوگیوں اور جسم کی شہوانی کیفیات سے تحریداً اختیار کرتے ہیں تو وہ فوراً ہی حظیرۃ القدس کی طرف چھپک لئے جاتے ہیں۔ اور وہاں خدا تعالیٰ کے جلال کی بھلی چمکتی ہے، جس سے ان لوگوں کے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انہیں اس بات کی سُدھہ بُدھہ نہیں رہتی کہ وہ کہاں سے آتے، اور کہاں جائیں گے۔ اور جہاں سے وہ آتے لئے، ان کے داپس کوئی دلیل کوئی تدبیر الی بھی ہے یا نہیں۔ اس مقام پر ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر تدبیر الی اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تدلی جو بندوں کو اس تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے ان کی طرف حرکت کرے۔ چنانچہ یہ تدلی نیچے اُترتی ہے۔ اور شخص اور تعین ہوتی ہے، اور اس شخص اور تعین کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے اس تدلی کا قرب اور اس کے رنگ میں رنگا جانا ممکن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس تدلی کا مختلف صورتیں اختیار کرنا ان خارجی حالات و مقتضیات کا نتیجہ ہوتا ہے، جن میں یہ تدلی شخص اور تعین ہوتی ہے۔ تدلی کی ان صورتوں میں سے ایک نبوت ہے۔

نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جب لوگ آپس میں مل کر

لہ اشارہ ہے سورہ "الصافات" کی آیت ۱۶۳ کی طرف۔ "وَمَا مِنْ أَلَّهُ مَقَامٌ
مَعْلُومٌ وَإِنَّمَا لَكَحْنَنَ الصَّافَوْنَ" (مترجم)

رہتے ہیں، تو ان میں جو کامل تر، عاقل تر اور قابلِ تربوتا ہے اور وہ ان لوگوں پر جو اُس سے تدبیر شرکت اور سیاستِ اجتماعی میں کم درجے کے ہوتے ہیں، حکومت کرتا ہے، یہ رجحان انسانوں کی طبیعت میں داخل ہے۔ اور یہ گویا ان کی عادت سی بین گئی ہے۔ چنانچہ جس طرح لوگوں کو کھانے، پینے، اور جنے پہنچنے، گھر بنانے اور مل جمل کر رہتے کی اجتماعی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح وہ اس فطری رجحان کو بھی اپنے دلوں میں بغیر کسی تکلف کے موجود پاتے ہیں۔ اور یہ چیزِ مرلنے کے بعد بزرخ اور معاد میں بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ چنانچہ انسانوں کی یہی وہ فطری خصوصیت ہے، جو تدبی اللہ کو ایک جسمانی صورت دینے کا باعث بنتی ہے اور وہ اس طرح کہ لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ ان کا پیشوایشا ہے۔ اور سب اُس کی رائے پر چلتے ہیں۔ اور یہ جو تدبی کی جسمانی صورت ہوتی ہے، اس میں روح اللہ پھونکی جاتی ہے، اور اُس سے خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ الغرض یہ ہے شکل بیوت اور رسالت کی۔ بیوت سے یہاں میری مُراد اُس بیوت سے ہے اب لوگوں کی قیادت ان کی رہنمائی، ان سے بحث و جدل اور ان کو سخر کرنے کے متعلق ہے، نہ کہ وہ بیوت جس سے فقط علوم کا فیضان ہوتا ہو۔ اور گو بالو سلطنه اُس سے لوگ یقین بھی ہو جاتے ہوں۔ اور اس بیوت سے میری مُراد یہاں وہ بیوت بھی نہیں جو سب پر جامع اور سب لوگوں کیلئے بطور شاہزادے ملدا اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف۔ وَيَوْمَ يُبَعْثَرُ فِي الْأَرْضِ أَمْفَأِ شَهِيدًا
عَلَيْهِمْ عَذَابٌ لِّنَفْسِهِمْ وَعِنْ أَبْشِرٍ شَهِيدًا

(متراجم)

ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت لختی۔ تدلی اللئی کی ایک صورت نماز ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق و اطوار کی جو نفسی کیفیات پریدا ہوتی ہیں۔ اُن میں سے ہر نفسی کیفیت کا خارج میں کوئی نہ کوئی عملی مظہر ہوتا ہے۔ اور یہ عملی مظہر، یہ اس عالم محسوس میں اُس خلق کی نفسی کیفیت کا مادی قائم مقام بن جاتا ہے۔ اب اخلاق انسانی کے یہ عملی مظاہر ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نفس میں ان اخلاق کی باطنی کیفیات کی تربیت کا۔ چنانچہ اگر تعریف ہوتی ہے تو ان عملی مظاہر کی، اور مذمت کی جاتی ہے تو ان کی۔ اور ذکر ہوتا ہے تو ان عملی مظاہر کا، اگرچہ اصل مقصود یہ عملی مظاہر نہیں، بلکہ وہ نفسی کیفیات ہوتی ہیں۔ سب لے یہ اعمال خارج میں مظہر ہستے ہیں۔ الغرض نفس کے ان باطنی اخلاق کی بجائے خارج میں اُن کے قائم مقام ظاہری اعمال کا ذکر کرنا انسانوں کی طبیعت میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ گویا اب ان کی ایک عادت سی بن گئی ہے۔ اور ان کے ذہنوں میں اچھی طرح سے رائٹنگ ہو گئی ہے۔

انسانی زندگی کی اس حقیقتِ واقعی کو محو نہ رکھتے ہونے اشد تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسانوں کے اخلاق میں سے ایک خلق، اُن کی نفسی کیفیات میں سے لئے مثال کے طور پر نماز کو بیجئے۔ قیام، رکوع، تشهد اور سجود سے اصل مقصود نفس کے اندر خدا تعالیٰ کے لئے عجز و نیاز کی کیفیت کا پریدا کرنا ہے لیکن یہ اعمال اس نفسی کیفیت کے قائم مقام بن گئے ہیں۔ اسی طرح روزے، روز کا قلادیج کو بیجئے، ان کے ظاہری اعمال بھی فی الواقع اسی کیفیات کے لئے بطور ایک ذریعہ کے ہیں۔ (مترجم)

ایک کیفیت اور ان کی روحوں کے رنگوں میں سے ایک رنگ، اور خاص طور پر وہ جو خطیرہ القدس کے "مقام معلوم" میں انسانوں کے رنگے جانیکارنگ ہے، انتخاب فرمایا۔ اس خلق، اس باطنی کیفیت اور اس روحانی رنگ سے نیزی مراد "احسان" کی صفت یعنی خدا تعالیٰ کی جانب میں خشوع و خضوع اور انسان کی طبیعت کا نفس کی تاریک اور فاسد کیفیات سے پاک ہونا ہے اس خلق "احسان" کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان میں اُس وقت بھی موجود رہتا ہے، جب کہ اُس کا نفس حیوانیت سے استراحت رکھتا ہو۔ اور گواہیں یہ خلق خطیرہ القدس کے بلند مرتبہ "مقام معلوم" سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو یہ خلق گویا خود خطیرہ القدس کا "مقام معلوم" بن جاتا ہے، پاکل اُسی طرح جس طرح کہ انسان کا بدن کمیٹی اُس کے نفس کا مراد فیں جاتا ہے۔ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اخلاق میں سے اُس کے اس خلق "احسان" کو انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد اس نے وہ اقوال اور افعال منتخب فرمائے جو اس خلق کی ترجمانی کرتے اور اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان اقوال اور اعمال پر اس خلق کا پوری طرح انطباق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان اقوال اور افعال کو مراد فیں اور قائم مقام قرار دیا اُس خلق کا۔ گویا یہ اقوال و اعمال بعضی ہے یہ خلق بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے افعال اور اقوال ترجمان اور قائم مقام ہیں۔ نفس انسانی کے لئے اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ دیکھئے صفحہ ۸۲

اُس باطنی خلق کے جسے "احسان" کہتے ہیں۔ اور یہ خلق احسان نمودہ ہے خلیلہ القدس کے "مقام معلوم" کا جس کا ذکر پسلے گز رچکا ہے۔ اور خلیلہ القدس کا یہ "مقام معلوم" ایک صورت ہے ائمۃ تعالیٰ کی تدلی کی آسمانی لگائیں تدلی الہی کی ایک صورت آسمانی کتابیں ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسانوں کو پہلے پہل جب یہ ضرورت پیش آئی کہ ان کے ہاں جو علوم و اخبار مروج ہیں، وہ زمانہ دراز تک محفوظ رہ سکیں، اور دُور دُور ملکوں والے بھی ان سے استفادہ کر سکیں تو انہاں کے ذریعہ انہیں کتابوں کو لکھنے اور رسالوں کو مدون کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اس میں مصلحت یہ بھی تھی کہ مصنعت کی اصل سحریہ بجنہسہ محفوظ رہ سکے، اور اس میں نہ تو کوئی بھجوں واقع ہو، اور نہ اُس کے معانی کی فلط روایت ہو سکے۔ الغرض ہے کہ چل کر کتابوں کو لکھنے اور رسالوں کو جمع کرنے کا رداج لوگوں میں خوب پھیل گیا، اور ان حالات میں جب اللہ کی تدلی حرکت میں آئی تو لامحالہ اُس وقت لوگوں کا جو دستور بن چکا تھا، اُسی کے مطابق اس تدلی نے صورت اختیار کی۔ چنانچہ ہٹوایہ کہ ائمۃ تعالیٰ کا ارادہ اس امر کا مقصضی ہٹوا کہ رسول ایسی تحلیلات سے بہرہ یاب ہو جو اُسے عالمہ بشریت سے اچک کر خلیلہ القدس میں پہنچا دیں۔ اور اس طرح ملائے اعلیٰ کے علوم، ملائے اعلیٰ کی طرف سے انسانوں کو اُن کے نایاک شہادت کے جوابات، رحمت الہی کے ارادے، اور وہ اہمادت خیر جو لوگوں کے دلوں میں ہیں، یہ سب رسول کے ادراک میں تلاوت کی جانے والی وحی کی شکل میں قرار پذیر ہو جائیں۔

الغرض یہ ہے شان نزول الہامی کتابوں کے وجود میں آنے کا۔ اس سلسلہ کی پہلی کتاب تورات ہے، تورات سے پہلے جو صحف تھے اُوہ آن علوم پر مشتمل تھے جن کا بنی کے قلب پر فیضان ہوا تھا، اور بنی کے بعد اُس کی امت میں سے کسی فرد نے جس کے کہ جی میں آیا، ان علوم کو صحیفوں میں مدد کر دیا۔

تدلی اللہ کی صورتوں میں سے ایک صورت "ملت" کی ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسانوں کو فطرت کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ وہ اپنے کے تعلقات کو استوار رکھنے کے لئے دستور اور قواعد بنائیں۔ اس الہام کی بنیا پر اُنہوں نے شہری زندگی کے قاعدے بنائے، خانہ داری کے طریقے وضع کئے، معاشی اور کاروباری دستور مرتب کئے۔ چنانچہ اجتماعی زندگی کے لئے قواعد اور دستور بنانے کی یہ عادت اُن کی فطرت کا اصل الاصول بن گئی۔ اور اس کا شمار اُن کے بڑی ضروری علوم میں سے ہونے لگا جب یہ چیزوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی کے قلب کو یہ قابلیت سمجھی کہ اُس میں اللہ تعالیٰ کا تعلیم کر دو و دستور جگہ پکڑ سکے۔ اس دستور میں اللہ تعالیٰ کی روح ہوتی ہے اور اس میں برکت اور نور ہے۔ یہ ہے اللہ کی شریعت، اور اس کا نام "ملت" ہے۔

تدلی اللہ کی ایک صورت "بیت اللہ" ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم عليه الصلوٰۃ والسلام سے پہلے لوگ عبادت گاہیں اور معبد بناتے تھے۔ انہوں نے اُس زمانے میں جب کہ آنکتاب کی روحاںیت کا غالباً

مکتا، آفتاب کے نام پر عبادت گاہیں بنائیں۔ اور اسی طرح اور اسی خیال کے ماتحت ماہتاب اور دوسرے ستاروں کے نام سے معابد بنائے گئے۔

اُس زمانے میں ان لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ جو شخص ان معابد میں داخل ہوتا ہے، وہ ان کو اکب کا جن کے نام پر یہ معابد ہیں، مقرب بن جاتا ہے۔ الغرض اس طرح کے معابد اور کئے بنانا اُن کے ہاں ضروری امور میں سے قرار پایا۔ چنانچہ اس کے پیش نظر وہ اس بات کو ایک امر محال سمجھنے لگے کہ کسی مجرد شے کی طرف جب تک کہ اُس کے لئے کوئی خاص وجہت اور موضع د محل معین نہ کر دیا جائے، توجہ کی جاسکتی ہے۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم مبعوث ہوتے ہیں۔ اور اُن کے زمانے کا جو دستور اور طریقہ تھا، اُس کے مطابق اُن کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے لئے معبد بنانے کا القاء ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مخصوص جگہ جو اُنہوں نے اس معبد کے لئے مناسب سمجھی، اُس کا انتخاب کیا۔ اس جگہ کی خصوصیت یہ تھی کہ افلاؤ اور غناصر کی قوتوں کا تقاضہ تھا کہ اس جگہ کو بقاء ملے دوام حاصل ہو۔ اور لوگوں کے دل اس طرف خود بخود کھنچے چلے آئیں۔ اب اس معبد کی تنظیم و احترام کے سلسلہ میں قاعدے اور دستور مقرر ملے گوئی شدتہ زمانوں میں جب کسی نئے شہر کی بنیاد رکھی جاتی تھی تو بخوبی سے اُس کے محلِ دفع کے متعلق اور جس مبارک ساعت میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اُس کے بارے میں انتخاب کر لیا جاتا تھا۔ تاریخوں میں بغداد اور قاہرہ کی تاسیس کے صحن میں اس قسم کی روایات بڑی تفصیل سے ملتی ہیں۔

مترجم

ہوتے۔ اور تدلیٰ الی کے ذریعہ ان قاعدوں کو مناسک حجج کی صورت میں لوگوں کے لئے واجب کر دیا گیا۔

اُس صحن میں تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ شریعتوں کے حکام دُقَوَادَ کے تشکیل لوگوں کی عادات کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شریعت کی تشکیل ہونے لگتی ہے تو اُس وقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عادات پر نظر ڈالتا ہے۔ اب جو عادتیں بُری ہوتی ہیں، اُن کو تحریک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو عادتیں اچھی ہوتی ہیں، اُن کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا ہے۔ یہی کیفیت "وَحْيٌ مُّتَلَوٌ" یعنی وہ وحی جس کے الفاظ کی تلاوت کی جاتی ہے، کی ہے۔ یہ وحی اُن الفاظ، کلمات، اور اسالیب میں جو خود صاحب وحی کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، صورت پذیر ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عربوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں وحی کی۔ اور سریانی بولنے والوں کے لئے سریانی میں۔ اور اسی قبل سے رویائے صالحہ اور پچھے خواب ہیں۔

رویائے صالحہ اور پچھے خوابوں کی کیفیت یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ذہن میں جو جو صورتیں اور خیالات پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ انہیں کے لباس میں خوابیں دیکھتا ہے چنانچہ اسی بناء پر حب مادرزادانہ خواب دیکھتا ہے تو اُس کو خواب میں رنگ اور سکلیں دکھانی شیں وہیں، بلکہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہے۔ یا اُن کی آوازیں مُن رہا ہے۔

یادہ خواب میں چیزوں کو چکھتا اور سونگھتا ہے۔ اور یادہ اُن کے متعلق خیال آرائی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص پیدائشی بہرہ ہے، وہ خواب میں کبھی آواز نہیں نہ تنا، بلکہ اُس کا خواب صرف دیکھنے، چھوٹنے اور اس طرح کے دوسرا سے ذرائع علم تک محدود رہتا ہے۔ اور اگر اس معاملے میں ہر چیز حقیقی چاہتے ہو تو سنو! عالمِ عین سے جب کوئی فیضان ہوتا ہے، خواہ فیضان روزمرہ کا سامنہ فیضان ہو یا یہ فیضان احجاز اور خارق عارثت کی نوعیت کا ہو، بہر حال یہ فیضان محل فیضان کی جو ضروری خصوصیات ہوتی ہیں، انہیں کے لباس ہی میں صورت پذیر ہوتا ہے۔ اور یہی خصوصیات ہی ایک فیضان کو دوسرا سے فیضان سے جدا کرنی ہیں۔

مثال کے طور پر گھوڑے کو دیکھئے۔ گھوڑے کی جو بھی ذاتی خصوصیات ہیں، وہ سب کی سب گھوڑے کی جنس میں موجود ہیں۔ اب گھوڑا چار ہاتھ لمبا ہو سکتا ہے، اور اس سے قدر سے زیادہ بھی اور کچھ کم بھی۔ غرضیک گھوڑے کا کم و بیش چار ہاتھ لمبا ہونا خود اُس کی اصل جنس میں داخل ہے۔ اسی طرح اب ایک نوع کی خصوصیات کو لو، جو ایک نوع کو دوسری نوع سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ نوعی خصوصیات بھی خود اس نوع کی اصل جنس میں داخل ہوتی ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہر فیضان عینی کی جو بھی اپنی مخصوص صورت اور وضع ہوتی ہے۔ اگر اس مخصوص صورت اور وضع کا سبب ڈھونڈنا پڑھ تو وہ تمہیں اُس محل کی خصوصیات میں ملے گا۔ جہاں کہ یہ فیضان اقع ہو۔

اس بحث میں اب ایک سئلہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ
فیضانِ غیر کی مختلف نویتوں کے الگ الگ صورت پذیر ہونے کا تو نہ سما
اس پر ہے کہ محل فیضان میں کون سی خصوصیات ممکن اور مقدار ہیں۔ لیکن
جہاں تک تدلی اور شاعر کے ظہور کا تعلق ہے تو لوگوں کے جو مسلمات
ہوتے ہیں۔ اور جو چیزوں ان کے ہاں مشہور ہوتی ہیں اور لوگوں کے
دل ان سے مطمئن ہوتے ہیں، تدلی اور شاعر ان چیزوں کی صورت ہی میں
ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تدلی کا ظہور
ہوتا ہے، لوگوں کے مسلمات ہی اُس کے نزول کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور
ایسا کیوں نہ ہو۔ آخر تدلی سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہی ہے کہ لوگ
زیادہ سے زیادہ جہاں تک کہ ان سے ہو سکے، اُسی کی اطاعت کیں اور
اپنے اعضا و جوارح کو اعمال اطاعت کا عادی بنائیں۔ اور اس لئے
ضروری ہے کہ تدلی لوگوں کے لئے جو مانوس صورتیں ہیں میں ظاہر ہو۔
ہاں اس ضمن میں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں حالات و اسباب اس امر کے
متقادی ہوں کہ ایک دس ہاتھ کا انسان ظاہر ہو، وہاں ایک دس ہاتھ کا
انسان وجود میں آجائے۔ بے شک یہ چیز ممکن ہے، لیکن ایسا ہونا ماف
اور معروف نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے
کہ تدلیاتِ الٰی اور شریعتیں ہمیشہ لوگوں کے مسلمات اور جو چیزوں کہ ان
کے ہاں مشہور ہوتی ہیں، ان کے متوافق ہی صورت پذیر ہوتی ہیں۔ بیشک
اس سلسلہ میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس تدلی کی وجہ سے ان چیزوں میں پہلے

کے مقابلہ میں مزید خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی سبج کو جو بُٹ
سے اور حق کو باطل سے تبیز کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

ممکن ہے تمہارے دل میں یہ خیال گزد ہے کہ ہر تدبیت کا خارق عادت
اور اعجاز ہوتا ضروری ہے، اس لئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تدبیتی لوگوں کے
مسلمانات کے مطابق ہو۔ اس معاملے میں ہماری راستے یہ ہے کہ اس اس
محمل اور ہمچیرہ بات پر رُک کر نہ رہ جاؤ بلکہ اس منسلک کی پوری تحقیق کرو۔
واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز کا صدور اپنی اصل عادت ہی کے مطابق ہوتا ہے
چنانچہ وہ کبھی رہنی عادات سے سجاوڑہ نہیں کرتی۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے قریش کا مطالبہ تھا کہ رسول پیشہ ہو بلکہ فرشتہ ہو۔ لیکن
رسول فرشتہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی طرح نہ قرآن مجید: عجمی زبان میں اور نہ
بیت اللہ نور کا ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایسا ہونا ان چیزوں کی
عادت کے خلاف تھا۔ ہاں اس سلسلے میں یہ ضرور ہوا کہ ان چیزوں کا خارق
عادت ہونا درِ اصل اس غیر معمولی خیر و برکت کے لحاظ سے تھا، تھا کہ اس وجہ
سے کہ ان چیزوں میں خلاف عادت کوئی تبدیلی ہو گئی ہو۔ اور اس معاملے
میں قریش نکہ کا تصور یہ تھا کہ وہ ان دو چیزوں میں یعنی ایک چیز کا اعجاز اور
اُس کا خارق عادت ہوتا لحاظ خیر و برکت کے اور اس کا اعجاز خرق عادت
اس جذبیت سے کہ یہ چیز خلاف عادت ظاہر ہوتی ہے ان میں جو فرق ہے
اُس کی حکمت کو وہ نہ سمجھ سکے۔ اور اسی ناجھی کی بنی پراؤں کی یہ خواہش
تھی کہ رسول النان کی بجائے فرشتہ ہو۔ اور نیز انہیں اس بات پر تعجب ہوتا

تحاکہ یہ کیسا رسول ہے، جو عامر آدمیوں کی طرح کھاتا پیتا اور بھیوں بانٹا نہ میں چلتا پھرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی راں پا توڑ لی اور اس معاملہ میں ان کے جو فاسد خوالد تھے، ان کی تردید فرمائی۔

واقعہ یہ ہے کہ رسول کے غالب آنے کی یہ صورت نہیں ہوتی کہ اُس کے ساتھ فرشتہ ہو جو اس امر کی شہادت دے کہ یہ رسول سچا ہے۔ نہ رسول کے بحق ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اُس کے لئے آسمان سے کوئی کتاب اُترے، اور لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو اُترنا و بھیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے سورہ "الفرقان" میں اور دوسری جگہ اس کی صراحت فرمائی ہے۔ بلکہ جس طرح بادشاہ چہار اور جنگ کے ذریعہ اپنے مخالفوں پر غالب آتے ہیں۔ یہی صورت رسول کے غلے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اور خود ہمارا وجدان بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔ اور ہم نے خود کتاب و مستقیت کو اس امر کی اور نیز اس امر سے جو اور شاخیں پھوٹی ہیں اور پھر نہ صرف اس مسئلے میں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل میں وضاحت کرنے والا پایا ہے۔ بس اللہ ہی کے لئے تعریف ہے اول میں بھی اور آخر میں بھی۔

لَهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّا لَا نَزِيلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً فَإِذَا هُدِّدُوا

پاکجواں مشاہدہ

ملائے اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں بڑے بڑے اسرار القا کئے گئے
چنانچہ ان اسرار سے میرا نفس اور نسمہ بھر پیدا ہو گیا۔ اب میں بیان ان اسرار کو
تمہارے لئے بیان کرتا ہوں۔ تمہیں چاہئے کہ ان اسرار کو خوب مضبوط پکڑو
جیسے کہ کوئی چیز واقعتوں سے پکڑی جاتی ہے۔

اگر تمہاری خواہش ہو کہ تمہیں ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کا جو آپس میں بحث
مباہضہ کرتے ہیں، کمال حاصل ہو تو اس کے لئے سوائے اس کے کہم دھما
لہ اشارہ ہے ترمذی اور دارمی کی اُس حدیث کی طرف جس کا تزویہ یہ ہے: میں نے
اپنے زب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ میرے رہبنتے کہا کہ اے محمد! ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس
بات میں بھگڑتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ بہتر ہانتے ہیں۔ پس اُس نے اپنا ہاتھ ببرے
کافدیوں کے درمیان رکھا۔ اور اُس کی وجہ سے میں نے اپنے شیخہ (باقی ماشر صحیحہ بہ پر)

کرو، اور کثرت سے اپنے رتب کی جانب میں حاجزی کرو۔ اور اُس سے اپنے پورے اپارادے اور پوری دلی ہمت سے سوال کرو، اور کوئی تدبیریں اور اس ضمن میں ^{بھی} اور بھی بہتر ہے کہ تمہارا یہ سوال کسی ایسی چیز کےتعلق ہو جس کو تھا حصل ہونے کے لئے تمہارے اندر عطا اور طبعاً دونوں الحاظ سے پڑا شناخت پایا جاتا ہو۔ اور پھر یہ چیز جس کا تم سوال کر رہے ہو، خود تمہارے لئے اور نیز دوسرا سے لوگوں کے لئے ترقی و مکمل ذات کا باعث ہو۔ اور اس سے عالمِ خلق اللہ کو بھی آرام و آسائش پہنچ سکتا ہو۔ الغرض اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کے سوال کے لئے جب تمہارے اندر دعا کا ملکہ راسخ ہو جائے اور تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لئے کس طرح خلوص ہمت سے دعا کی جاتی ہے، تو اُس وقت تم سمجھو لو کہ تم ملاد اعلیٰ کے زمرة میں منسلک ہو گئے چنانچہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں کہ ”جس کے لئے دُعا کا دروازہ کھلا، گویا اُس کے لئے جنت اور حست کا دروازہ کھل گیا“ یا اس ارشاد سے ملتا جاتا کہیں اور جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، تو گویا اس میں آپ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

یہ تو ملاد اعلیٰ کے کمال کے حصول کا طریقہ ہوا۔ اب اگر کوئی شخص ملاد

(بیتیہ حاشیہ و مکمل) میں ٹھنڈک پائی۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے یہی نے اُن سب راسرار و خعلان کو جان لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے : كَذَّالِكَ نُرِيَ رَبِّرَا حَيْمَ مَدْكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِلَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۔ آیت تلاوت فرمائی۔ مترجم

سافل کے فرشتوں کا کمال حاصل کرنا چاہے تو اس کی یہ صورت
ہے کہ وہ سختی سے طہارت کی پابندی کرے۔ اور وہ ان قدیم
مسجدوں میں چائے، جہاں کہ اولیاء کی جماعتوں نے نمازیں
پڑھی ہوں۔ اور وہ کثرت سے نمازوں پڑھے۔ کتاب اللہ تعالیٰ
تمادت کرے۔ اور اللہ کے گل اسمائے حنفی کا یا ان میں سے جو
چالیں اسماء مشہور ہیں، ان کا ذکر کرے۔ یہ سب چیزوں جو
اوپر بیان ہوئیں، اس مقصد کے لئے جس کے حصول میں وہ
کوشش ہے، ایک رُکن کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اس سلسلہ کا
دوسرارُکن یہ ہے کہ وہ اہم معاملات کے لئے کثرت سے استحکام
کرے۔ اور استحکام کے دوران میں وہ اپنے نفس کو اس دُھب
پور رکھے کہ گویا اُس کے لئے اس کام کا کرنا یا اُسے ترک کر دینا
برابر ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جو کام کہ اُس کے
پیش نظر ہے، اُس کی وضاحت چاہے کہ آیا مصلحت کام کرنے
میں ہے یا اُس کو ترک کرنے میں، چنانچہ اس غرض کے لئے
وہ پاک اور ظاہر ہو کر بیٹھے اور اُسے پوری دل جمعی لذیب ہو۔
اور اس حالت میں وہ اس بات کا برابر منتظر رہے کہ کام کرنے
یا اُسے ترک کرنے کے بارے میں اُس کے دل کو ان دونوں میں
سے کس جانب الشرح ہوتا ہے۔ الغرض جس شخص کو اللہ تعالیٰ
نے طار سافل کے فرشتوں کا یہ کمال عطا فرمادیا، تو اس نے گویا نماز

اور طہارت کے نور کی حقیقت کو پال لیا۔ چنانچہ اس شخص کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی اُسے نماز میں دیر ہو جاتی ہے یا اُس پر ناپاکی اور کثافتوں کا جھوم ہوتا ہے تو اُس کے حواس میں طرح طرح کے رنگ اور آوازیں بھر جاتی ہیں۔ اور اس سے اُس کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے۔ جس کو وہ سمجھتا اور جانتا ہے اور اس حالت سے اُس کو اذیت ہوتی ہے، اور اس کی طبیعت اس سے متنفر رہتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ خوب پاک صاف ہوتا ہے، کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے۔ اور اپنے جملہ حواس کو ذکر میں لگا دیتا ہے، تو ان اعمال سے اُس کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کیفیت کو جانتا اور پہچانتا ہے اور اس کے اچھا ہونے کو محسوس کرتا ہے اور اس کیفیت سے اُسکے دل میں کشائش پیدا ہوتی ہے۔ +

ابغرض جو شخص ناپاکی اور کثافتوں کے رد عمل سے نفس میں چوکتا آمیز حالت پیدا ہوتی ہے اور نیز پاکیزگی اور نماز د ذکر سے نفس میں مرت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان ہر دو کو جان جاتا، اور ان میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے تیز کر سکتا ہے، تو وہ شخص صحیح معنوں میں مومن ہے اور اس مونی کی صفت ایمان کو "احسان" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ جس شخص نے دعا ذکر کے ضمن میں کیفیت حضوری کو جان لیا۔ خواہ وہ اس کیفیت حضوری کو الگ حروف اور خیالات سے بچیر مجدد کر کے نہ دیکھ سکے، تو اس نے باب احسان کا جو اہم جزو لھا، اُس کو پورا کر دیا۔ +

چھٹا مشاہدہ

۱۴۲۷ ماد صفر کی دسویں تاریخ نو کو مکہ معظمہ میں میں نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا کہ وہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اور حضرت حسنؑ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے، جس کی کہ نوک ٹوپی ہوئی ہے۔ آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ مجھے یہ قلم عطا فرمائیں۔ اور فرمایا کہ یہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے۔ اس کے بعد آپ نے قدر سے توقیت کیا اور فرنلنے لگئے کہ ذرا ہٹیر جاؤ تاکہ حسینؑ اس قلم کو ٹھیک کر دیں۔ کیونکہ اب یہ قلم دیساہیں ہے جیسا کہ پہلے بتا جب کہ حسین رضا نے اس کو ٹھیک کیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسین رضا نے اُن سے یہ قلم لیا، اور اُسے ٹھیک کر کے مجھے عطا فرمایا۔ مجھے اس سے بیدنخشی ہوئی۔ اس کے بعد

ایک چادر لائی گئی، جس میں سبز اور سفید رنگ کی دھاریاں تھیں۔ یہ چادر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے سامنے رکھی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہم یہ چادر اٹھانی اور فرمایا کہ یہ چادر میرے نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چادر مجھے اُرٹھا۔ اور میں نے تنظیم و احترام کے خیال سے اُرٹھنے کے بجائے اُسے اپنے سر پر رکھ لیا۔ اور اس نعمت کے شکرانے میں خدا تعالیٰ کی حمد و شناکرنے لگا۔ اس کے بعد یہ بارگی میری آنکھ کھل گئی ۔

ساتواں مشاہدہ

یہ مشاہدہ مشاہدہ عظیم اور تحقیق، تحقیق عالی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پنجہ آنارا ہے، اُس پر ایمان لانے کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی ایک قسم تو یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اور روشن دلیل دیکھ کر ایمان لائے۔ اور اس ایمان کی دوسری قسم ایمان بالغیر ہے۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اور روشن دلیل دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اُس کی مثال تو یوں سمجھتے کہ ایک شخص حاکم کو دیکھتا ہے کہ اُس نے اپنے وزیر کو غلطیت وزارت پہنائی۔ اور سلطنت کا انتظام اُس کے پر وکیا۔ اور اس سے لوگوں کی طرف اپنا ماسٹ بنا کر بھیجا۔ اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ یہیں فساد

آدمی کو اس منصب پر مقرر کر رہا ہوں۔ الفرض وزیر کو خلعت
وزارت پہنائگر اور اُسے اس طرح لوگوں کی طرف بیچھے کر حاکم نے اس
سلسلہ میں کوئی ڈھنکی چھپی بات نہ رہنے دی۔ چنانچہ اُس کی طرف سے
لوگوں کو اس امر کا مکلفت بنادیا گیا کہ وہ وزیر کی بات مانیں۔

یہ جو کچھ ہٹوا، اس شخص کے رو برو ہٹوا۔ اور اس نے اپنی آنکھوں
سے حاکم کو وزارت کی خلعت پہناتے دیکھا۔ اور اس نے اپنے کانوں سے
سے وزیر کی اطاعت کے بارے میں حاکم کو فرمان دیتے ہٹنا۔ اب جب
کہ اُس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے
ہٹن لیا تو اس کے بعد جا کر اُس شخص کے دل تے وزیر کو مامأبے شنگ
یہ شخص جب حاکم کی طرف سے وزیر کو وزارت کا منصب دیا جا رہا تھا،
اُس موقع پر وہاں موجود تھا۔ لیکن وہاں شخص موجود ہونے کی وجہ
سے ظاہر ہے یہ شخص وزیر تو نہیں بن گیا۔ اور اس بناؤ پر یہ شخص اس
کا اہل ہو سکتا تھا کہ وہ حاکم کے نام سے لوگوں پر حکومت کرے لیکن
اس سے یہ ضرور ہٹوا کہ حاکم نے اس کے سامنے جس وزیر کو مقرر کیا
تھا، اُس وزیر کو ماننے کے لئے اس شخص کے پاس ایک روشن اور
 واضح ثبوت فراہم ہو گیا۔ اور وزیر کے احکام کو تسلیم کرنے کے لئے
اس شخص کو حاکم کی طرف سے بالشافہ حکم بھی مل گیا۔

اس کے بر عکس ایک اور شخص ہے جو ایمان بالغیب لاتا ہے۔
اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک شخص ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

جو خود تو اندر ہا ہے، لیکن ایک آنکھوں والے نے اُس کو سورج کے طلوع ہونے کی خبر دی اور وہ اس پر یقین لے آیا۔ چنانچہ وہ اپنے دل میں اس خبر کے خلاف کوئی دوسرا خیال نہیں پاتا۔ اور نہ اُسے اس خبر کے بارے میں کوئی ادنے سا احتمال باقی رہا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ اس اندر ہے آدمی کا یہ یقین کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، محض اس بنا پر ہے کہ ایک آنکھوں والے نے اُسے بتایا ہے۔ ان حالات میں اس آدمی کا یقین ظاہر ہے آنکھوں والے کے اعتقاد پر مخصوص ہو گا۔

افراد انسانی میں فردِ کامل وہ ہے جو ایمان کی ان دو قسموں کو اپنے اندر جمع کر لے۔ فردِ کامل کا ذاتِ حق کے ساتھ ایک قوہ ربط ہوتا ہے، جس میں کہ وہ کسی توسط کو قبول نہیں کرتا۔ اس نوع کے ربط سے فردِ کامل کو وہ تمام علوم حاصل ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر آتا رہے گئے۔ فردِ کامل ان علوم پر یقین رکھتا ہے اور صرف یقین نہیں، بلکہ فردِ کامل کو ان علوم پر پورا اطمینان بھی ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں اُس کے پاس پروردگار کی طرف سے روشن اور واضح دلیل بھی ہوتی ہے۔ ذاتِ حق کے ساتھ فردِ کامل کے اس ربطِ خاص کے یہ معنی نہیں کہ اُس کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اور اُس کو پہنچانے والوں میں لئے پھرے۔ بلکہ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فردِ

کامل کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور وہ اُس کو ہر ایک سے بچاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اُس کی اس طرح مگر انی اور حفاظت کرتا ہے کہ خود فرد کامل اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت اور نگہداشت سے محروم ہو گیا، تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الفرض فرد کامل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ربط خاص کی بنی پر علوم النبیہ کا محقق بن جاتا ہے ۔

فرد کامل کے ایمان کی یہ پہلی خصوصیت ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کے ایمان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اُس تدلی کا بھی حال ہوتا ہے۔ جو کہ عوام کے لئے ہوتی ہے۔ اور جس کا نقطہ کمال عبارت ہے "ایمان ہالغیب" سے اور نیز شریعت کے قواعد و قوانین کی پابندی سے کہ بھی کے محض بتانے سے وہ ان کی بات پر یقین کر لیتا اور مخبر صادق کی پوری پوری فرمابرداری اور اُس سے پر خلوص محبت کرنے لگتا ہے۔ الفرض فرد کامل کی ذات میں پُون تو ایمان کی یہ دو قسمیں جمع ہوتی ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں پُون یہ ہے کہ جب دل پر ایمان کی پہلی قسم کے انوار کی بارش ہوتی ہے تو اُس وقت ایمان کی دوسری قسم کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے ۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں خانہ کعبہ میں تجدید کی نماز پڑھ رہا تھا کہ پہلی قسم کے انوار میرے باطن میں چمک رہے۔ اور میں ان کی تائیر سے اپنے آپ سے بے قابو ہو گیا اور مجھ پر ایک حیرت سی چھا گئی۔

ہس وقت میں نے اپنے دل کو ٹھوڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اُس سے ایمان بالغیب مفقود ہے۔ میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی اور اُس میں دوبارہ ایمان بالغیب کو تلاش کیا، لیکن اب بھی میں نے اُس سے دل نہ پایا۔ اس سے مجھے بڑی حسرت ہوتی اور میں ایمان بالغیب کے جانے پر افسوس کرنے لگا۔ لیکن ذرا سی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ”ایمان بالغیب“ میرے دل میں موجود ہے۔ چنانچہ اس سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ الغرض یہ واقعہ خود مجھ پر گزرا ہے۔ اب تم اس میں غور و خوض کر کے ایمان بالغیب کی اس حیثیت کو سمجھو لو۔

تحقیق عالی

جماعت اولیاء میں سے ایک بڑی تعداد ایسے اولیاء کی بھی ہوتی ہے جن کو الہام کے ذریعے یہ القادر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے شرع کی قید اٹھادی ہے، اور تمہیں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو تو عبادات اور طافات بچا لاو اور چاہو تو بچا نہ لاو۔ اس سلسلہ میں والد بزرگوار رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق یہ فرمایا کہ خود مجھے ایک دفعہ یہ الہام ہوا کہ تم سے شرع کی قید اٹھائی جاتی ہے۔ اور تمہیں اب اختیار ہے کہ چاہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادات کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ لیکن والد

بزرگوار فرماتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس کی وہ مجھ سے شریعت کی قیود کو نہ اٹھائے۔ چنانچہ آپ نے اس معاملہ میں کہ ان کا جی چاہے تو عبادت کریں۔ اور جی نہ چاہے تو نہ کرے، اول الذکر چیز کو اپنے لئے پسند فرمایا۔ اور اس صحن میں والد بزرگوار کا مسلک یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی شخص سے بھی اگر وہ عاقل و باشعہ ہے، شرع کی قیود نہیں اٹھ سکتیں۔ اور اس معاملہ میں میں نے اُنہیں دیکھا کہ اس الہام کو بھی کہ "تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو عبادت کرو اور چاہو تو نہ کرو۔" اور اپنے اس مسلک کو بھی کہ کسی بشر سے کسی حال میں اگر وہ عاقل و باشعہ ہے، شرع کی قیود اٹھ نہیں سکتیں، برحق ملتے ہتے اور راوہ حیران لختے کہ ان دو متصفاً و باتوں کو باہم کیسے تطبیق دیں؟

والد بزرگوار کی طرح عتم بزرگوار کے متعلق بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ فرماتے لختے کہ اُنہیں بھی اپنے آپ سے شرع کی قید کو اٹھا دینے کا الہام ہوا تھا۔ اور ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہو تو جاؤ ہم نے تمہیں دوزخ سے امان دی۔ اور اگر تمہاری یہ عبادت جنت کو حاصل کرنے کے لئے ہے تو ہم وحدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اگر اس عبادت سے تمہیں ہماری خوشودی مطلوب ہے تو جاؤ ہم تم سے ایسے راضی ہوئے کہ اس کے بعد کبھی ناراضی کی نوبت نہ آئے گی۔

اس کے جواب میں عتم بذرگوار قدس سرہ کا بھی اس معاملہ میں یہی میلان تھا کہ کاملوں سے شریعت کی قیود اُنھوں تو جاتی ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کاملوں کو خود اپنی طرف سے شرع کا مکلف بنادیتا ہے۔ اور اس صورت میں ان قیود کے متعلق اُن کے اختیار یا عدم اختیار کا کوئی سوال نہیں رہتا۔

اس طرح کے الہام کا یہ واقعہ بہت سے اور اولیاء کے بالے میں بیان کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس الہام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ قوانین شریعت کو مانے کے ضمن میں خب کوئی شخص "ایمان بالغیب" سے اُس قسم میں آتا ہے، جہاں کہ روشن اور واضح دلیل کے ذریعہ ان چیزوں کا ایمان حاصل ہوتا ہے تو اُس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شرعی قیود کو کہیں باہر سے اپنے اور عالم کی ہوئی نہیں جانتا، بلکہ وہ اپنے اندر شریعت کی مقرر کی ہوئی طاعات و عبادات کی ضرورت کو اس طرح محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کو محسوس کرے۔ اور اس نہیں ان طاعات و عبادات کو ترک کرنے کی استطاعت نہیں رہتی۔ چنانچہ اس حالت میں اُس شخص کے لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ طاعات و عبادات اُس پر شریعت کی طرف سے عالم کی گئی ہیں یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں خود اُس شخص کی حل جبت میں اس طرح داخل ہو جاتی ہیں کہ گویا وہ ان چیزوں کو اپنی جبت میں صاحہ ہے مگر پیدا ہوا تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ

یہ حقیقت اس شخص پر کھلے طور پر منکشت ہو جاتے یا اُس کے دل میں اشد تعالیٰ کی طرف سے اجمالی طور پر یہ خیال ڈال دیا جاتے ۔ بہر حال اُس شخص پر اس حقیقت کے انکشاف کا کوئی بھی ذریعہ ہو، اصل مقصود تو صرف اتنا ہے کہ اُس شخص کے اندر اجمالی طور پر یا تفصیل سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اشد تعالیٰ نے اُس سے شرعاً کی قید اٹھادی ہے۔ اور اس کے بعد خود اُس نے اپنی مرضی اور خستیار سے شرعاً کے قواعد کو اپنے اوپر عائد کر لیا ہے ۔

میرے نزدیک اس طرح کے الہامات میں ضرورت ہوتی ہے کہ خوابوں کی طرح اُن کی تعبیر کی جائے۔ اور ان کی تعبیر کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اس مقام کو حاصل کرے، جس کا اقتصادیہ الہامات ہیں۔ اور اس مسئلہ میں اگر تم مجھ سے اصل حقیقت پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی الہامات ہوتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ صحیح اور برحق ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک قسم تو اُن الہامات کی ہوتی ہے، جن کا خاص زبان اور خاص مقام سے فریضان ہوتا ہے۔ اور بعض الہامات نیچہ ہوتے ہیں اُسی قضاۓ قدر کا جو ہر زمانے پر نافذ ہے۔ جہاں تک پہلی قسم کے الہامات کا تعلق ہے اُنکا دائرہ اثر محدود ہوتا ہے کہ ایک مقام پر انکی اطاعت ضروری ہے اور انہیں لیکن ان قبیل کے الہاماں کی جو دوسری قسم ہے، انکی بہر حال ہیں اطاعت ضروری ہے۔ اور دیگر اس قسم کے بعض الہامات میں تعبیر کی ضرورت

پڑھی ہے، اور بعض میں نہیں۔ اور ان الہامات کی تعبیر وہ آدمی
کرے جو تمام المعرفت ہو۔ ان معاملات میں اب تم خوب غور و
تدبر کرو ۴

اکھوں مشاہدہ

تحقیق عالی اور متعدد مشاہدے ہے — تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ انسانوں کی رو جیس جب اپنے بدلوں سے جُدرا ہوتی ہیں، تو ان سے ایک تو آن کی بہی قوت میں قدر ہے کی ہو جاتی ہے اور دوسرے آن کی ملکی قوت۔ اُور ترقی کر جاتی ہے۔ اور نیز ان روحوں نے اس دُنیا کی زندگی میں جو کمالات حاصل کئے تھے، وہ کمالات ان روحوں کے ساتھ بدن چھوڑنے کے بعد مستقل طور پر ملحق ہو جائے ہیں۔ ان کمالات کی کمی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو ”نورِ حمال“ کا کمال ہے۔ اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ انسان کی ملکی قوت جب اُس کی بہی قوت کو مجبور کرتی ہے کہ وہ نیک کام کرے تو بہی قوت اس کا حکم مانتی ہے۔ اور اپنے آپ کو وہ بالکلیہ اُس کے

تصرف میں دے دیتی ہے۔ اس سے ایک توقت ملکیہ میں ایک قسم کا بسط اور انتشار ح پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے اس کی وجہ سے خود قوت بھی بھی ملکی قوت کے مناسبت کوئی ہبہت اختیار کر لیتی ہے۔ قوت بھی کا ملکی قوت کے رنگ میں اس طرح رنگا جانا دراصل نقطہ کمال ہوتا ہے اس قوت بھی کا، الغرض اس طرح جب بار بار ہوتا ہے اور بھی قوت پہم ملکی قوت کے رنگ میں رنگی جاتی ہے تو اس سے انسان کی ملکی قوت اور بھی قوت کے اصل جوهر میں "لوز اعمال" کا یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آگے چل کر یہ کمال نفس کے لئے بہزدہ ایک عادت اور جلبت کے بن جاتا ہے، جو کسی حال میں بھی اس سے الگ نہیں ہوتا +

اُن کمالات کی دوسری قسم "لوز رحمت" ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب کوئی ایسا کام کرتا ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اُس شخص پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ اس کام سے یا تو تمام انسانوں کی تکلیف دور ہوئی، یا وہ کام سبب بنا اشد تعالیٰ کے کسی ارادہ کی تکمیل کا مثلاً اشد تعالیٰ وہنیا میں ہدایت و نور کی اشاعت کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص نے جو کام کیا، تو اسکا یہ کام برائیت و نور کی اس تدبیٰ کی کے ظہور کا ذریعہ بن گیا یا دیسا ہٹا کر اس شخص کا خواہیں تھیں لی کے ضمن میں شمار ہونے لگا اور وہ اس طرح کہ شخص ہنسنے کی طرف سوچہ ہو اور اس نے پی ساری ہمت اور رنگا دی۔ یہاں تک کہ خود اس تدبیٰ

کا ایک حصہ بن گیا۔ الغرض نیک کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت نازل ہوتی ہے، اس سلسلہ میں اوپر جو تمیں صورتیں بیان ہوتیں، ان سب کے یکجا ہونے یا ان میں سے کسی ایک کے ذمہ دفع پذیر ہونے سے نیک کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ اور اس سے اُس شخص کے نفس کو ملکی سرور و انبساط حاصل ہوتا ہے۔ ”نور رحمت“ کے فیضان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص جب اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ ذکر الفاظ سے ہو یا شخص خیال سے جیسے کہ قلب کے اشغال ہوتے ہیں، یا یہ شخص ہالم جبروت کو اپنے خیال میں منگل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے زمانے کے اکثر لوگ اس کو ”یادداشت“ کا نام دیتے ہیں۔ قصہ مختصر، اس ذکر سے نفس کے اندر ایک بسیط ملکہ اور جبروتی رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو ”نور یادداشت“ کہتے ہیں۔

ان کمالات میں سے ایک کمال ”نور احوال“ کا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص کے نفس پر جب خوف، امید، بیقراری، شوق، انس، ہمیت، تعظیم و احترام اور اس طرح کی کیفیات برائے دار ہوتی رہتی ہیں، تو ان سے اُس شخص کے نفس میں صفائی اور رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص پر موت آتی ہے اور اُس کا نفس جسم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس

حالت میں یہ نفس تغیر پذیر ارادوں میں گھرنے جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اہمائے حسنہ کے رنگ اور آن کے لواز سرایت کر جائے ہیں۔ اور اس سے اُس نفس میں بڑی لطافیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور آن میں سے ہر ہر لطافت اُس نفس کے لئے مسترت و انساط کا باعث بنتی ہے۔ غرضیکہ اکثر ارواح کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان اواز سے نفس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک آئینہ ہے، جو دھوپ میں کھاہو ہے اور اُس پر سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں، جن کی وجہ سے وہ سرتا پا نور بن گیا ہے۔ یا جیسے کوئی حوض ہو جو پانی سے لبالب بھرا ہو ہے۔ اور دو پر کا دقت ہو۔ اور اُس حوض پر سورج اپنی پوری تابانی سے چمک رہا ہو۔ اور اس طرح پانی نے سورج کو پانے والے میں لے لیا ہو۔ اب اگر تم یہ بات جو ہم ابھی بتا رہے ہیں، سمجھ گئے ہو، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اُس کی حقیقت کو جان گئے ہو تو پھر اس صحن میں میں تم سے ایک اُفر بات کہتا ہوں، مہماں کے جب میں نے غزوہ بدرا کے شہزاد کی زیارت کی اور آن کی قبروں پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ آن کی قبروں سے یکبارگی ایک نور روشن ٹھوٹا اور وہ ہماری طرف بڑھا۔ شروع میں تو میں یہ سمجھا کہ یہ نور آن الوار میں سے ہے، جن کو صرف ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں اس نور کے معاملے میں کچھ تردود میں پڑ گیا۔ انہیں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ آیا میں اس نور کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا لے سے

رُوح کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ پھر میں نے اس پر خور گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس نور کی نوعیت کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ نور "النوار رحمت" میں سے ہے۔ بعد ازاں جب میں نے مقام صغراء میں اس قبر کی زیارت کی جو حضرت ابوذر غفاریؓ کی بتائی جاتی ہے (اس کی حصل حقیقت اللہ ہی بہتر جاتا ہے) الغرض جب میں اس قبر کے پاس بیٹھا۔ اور میں نے حضرت ابوذر غفاریؓ کی رُوح کی طرف توجہ کی تو ان کی رُوح میرے سامنے تیسری رات کے چاند کی طرح ظاہر ہوئی۔ میں نے جب اس میں مزید غور کیا تو مجھ پر ریکھا کہ حضرت ابوذرؓ کی رُوح کا یہ نور، "نور اعمال" اور "نور رحمت" دونوں پر جامع ہے۔ البتہ اس میں "نور رحمت" "نور اعمال" پر غالب ہے پر

اس سے پہلے میں کہ معرفت میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و لادت پر حاضر ہوا تھا۔ یہ دن آپکی ولادت مبارک کا دن تھا، اور لوگ وہاں جمع لئے اور آپ پر درود وسلام پھیج رہے تھے اور آپ کی ولادت پر آپ کی بخش سے پہلے جو صحیحات خوارق ظاہر ہوئے تھے ان کا ذکر گردئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس موقع پر یک بارگاہی اذار روش ہوتے ہیں کہ نہیں بلکہ ان انوار کو میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھایا ان کا روح کی آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ بس یہاں اس سعادت کو صرف اشداہی چانتا ہے کہ جسم کی آنکھ اور روح کی آنکھ کے بین میں کون سی جس تھی جس سے میں نے ان انوار کو دیکھا۔ پھر میں نے ان انوار پر مزید توجہ کی تو مجھے ان فرشتوں کا فیض اثر نظر آیا، جو اس قسم کے مقامات اور اس نوع کی مجالس پر مؤکل ہوتے ہیں۔ الغرض اس مقام پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے انوار بھی انوار رحمت سے خلط مددظ ہیں۔

توال مشاہدہ

میں مدینۃ منورہ میں داخل ہوا۔ اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی، تو میں نے آپ کی روح اقدس کو ظاہر اور عیال دیکھا۔ اور عالم ارواح میں ہیں، بلکہ عالم محسوسات سے قریب ہو عالم مثال ہے، میں نے اس میں آپ کی روح کو دیکھا۔ چنانچہ اس وقت میں سمجھا کہ عوام مسلمانوں کا یہ جو کہنا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تشریف لاتے ہیں، اور نمازوں کے امام بنتے ہیں۔ اور اسی قبیل کی جو وہ اور یا تیں کہتے ہیں، وہ سب اسی نازک مشتعلہ کے متعلق ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عامۃ الناس کی زبانوں سے جو کچھ نسلکتا ہے، وہ درصلی نتیجہ ہوتا ہے، اسی علم کا جوان کی روحوں پر اتفاق ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان

کے اس علم کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں۔ یا تو وہ اس علم کی جوان
کی روحیں پر القاء کیا جاتا ہے، اصل حقیقت کو پالیتے ہیں۔ یا وہ
محض اُس کی ظاہری شکل ہی پر استھان کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے
ایک اس کی دوسرے کو خیر دیتا ہے، اور دوسرا اجمالی طور پر اس
بات کو سمجھتا ہے اور اُس کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہ اپنی اس سمجھی
ہوئی بات کو تیسرا کو بتاتا ہے۔ تیسرا اس کو مُنتا ہے اور وہ کسی
اور نقطہ خیال سے اس کو مان لیتا ہے۔ پھر یہ چوتھے آدمی کو بتاتا
ہے۔ اور چوتھا آدمی یہ بات سن کر اُس کو اپنے خیال پر ڈھالتا ہے
اور پانچھویں کو بتاتا ہے۔ اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ یہاں
تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ اس
بات پر متفق ہو جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ضمن میں لوگوں کا
ایک بات پر متفق ہو جانا یہ کار محض نہیں ہوتا۔ اور نیز خواہم میں جو
بائیں زبان زد اور مشہور ہو جائیں، ان کی تحریر نہیں کرنی چاہتے بلکہ
اس سلسلہ میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جو کچھ عوام کی زبانوں
پر ہو، تم اُس کی جو اصل حقیقت ہو، اُس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔
بعد ازاں میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مرتبہ اور مقدس فیر
کی طرف بار بار توجہ کی تو آپ میرے سامنے لطیف در لطیف صورت
میں ظہور فرماؤٹے۔ چنانچہ کبھی آپ مجر و غنائم و جلال کی صورت
میں ظہور فرماتے اور کبھی جذب و شوق اور اُن و انشراح کی

صورت میں نظر آتے۔ اور کبھی اس طرح کی جاری و ساری صورت میں ظاہر ہوتے کہ مجھے خیال ہوتا کہ تمام کی تمام فضائیں آپ کی روح سے بھری ہوئی ہے۔ اور آپ کی روح اس فضا میں نیز ہوا کی طرح یوں حرکت کر رہی ہے کہ دیکھنے والا اس میں اتنا محظوظ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی موجودگی میں دوسری طائفتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نیز میں نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے اپنی وہ صورت مبارک دکھلتے ہیں، جو آپ کی اس دنیا کی زندگی میں تھی۔ اور آپ مجھے اپنی یہ صورت اس حالت میں دکھارتے ہے تھے جب کہ میری تمام توجہ آپ کی روحانیت کی طرف تھی، نہ کہ آپ کی جسمانیت کی طرف۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی روح جسمانی شکل میں صورت پذیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف آپ نے اپنے اس ارشاد میں شارہ فرمایا ہے: بے شک انبیاء کو اور دن کی طرح موت نہیں آتی۔ وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے اور رجح کرتے ہیں۔ اور انہیں دنیا زندگی لفیب ہوتی ہے۔ الخ۔ ۴ الغرض اس حالت میں میں نے آپ پر درود پھیجا تو آپ نے مستر کا انہمار فرمایا۔ اور مجھے سے خوش ہوئے اور میرے سامنے ظہور فرمایا۔ اور آپ کا اس طرح لوگوں کے سامنے آنا۔ اور آپ کی روح کا فضا میں جاری و ساری ہونا بیشکن تجھے ہے آپ کی اس خصوصیت کا کہ آپ رب جہاں کے لئے باعثِ رحمت بن کر بیوٹ ہوتے تھے۔

لہ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف، وہا ارسالنک الاَرْجَمَدُ لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ الانبیاء ۲۱:۶۰

دسوال مشاہدہ

مدینہ منورہ میں پہنچنے کے تیسراے دن بعد پھر میں روضہ اتنی پر حاضر ہوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں سماںگھٹوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو سلام کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو فیضان فرمایا تھا، اُس سے مجھے بھی مستقید فرمائیے۔ میں خروج برکت کی اُمید لے کر آپ کے حضور میں آیا ہوں۔ اور آپ کی ذات رحمت اللہ تعالیٰ میں ہے۔ میں نے اتنا عرض کیا تھا کہ آپ حالتِ انبساط میں میری طرف اس طرح ملتخت ہوئے کہ میں یوں سمجھا کہ گویا آپ نے اپنی چادر میں مجھے لے لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اپنے ساتھ لے کر خوب بھیجنچا۔ اور آپ میرے سامنے رونما ہوئے۔ اور مجھے اسرارِ درموز

سے آگاہ فرمایا۔ اور نیز خود اپنی ذات اقدس کی حقیقت مجھے بتائی۔ اور اس صحن میں آپ نے اجمالی طور پر مجھے بہت بڑی مدد دی۔ چنانچہ آپ نے مجھے بتایا کہ میں کس طرح اپنی ضرورتوں میں آپ کی ذات سے استفادہ کروں۔ اور آپ نے مجھے اُس کیفیت سے بھی آگاہ فرمایا کہ آپ کس طرح ان لوگوں کو جو آپ پر درود بھیجتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کی مدح و شناکرتے اور آپ کی جناب میں عجز و نیاز مندی کرتے ہیں، ان سے آپ کس طرح خوش ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں میں نے بنی علیہ الصلوٰۃ والتسیلیات کو دیکھا کہ آپ اپنے جو ہر روح، اپنی طبیعت، اپنی فطرت اور جہالت میں سرتاسر نظر بن گئے ہیں اُس عظیم انسان تدلی کا، جو کہ تمام بئی نوع بشر پر حادی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس حالت میں یہ پہچانتا مشکل ہو گیا ہے کہ ظاہراً اور مُنظہر لعنی ظاہر ہونے والی چیز اور جس چیز میں کہ اُس کا اظہار ہو رہا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ چنانچہ یہی وہ تدلی ہے، جسے صوفیاء نے "حقیقت محمدیہ" کا نام دیا ہے۔ اور اس کو وہ "قطیع الاقطاء" اور "بنی الانبیاء" کا بھی نام دیتے ہیں۔ اغرضیکہ یہ "حقیقت محمدیہ" عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی اس تدلی کے مظہر شیری میں ظہور سے۔ چنانچہ جب کبھی عالم مثال میں اس تدلی کی حقیقت متمثلاً ہوتی ہے تاکہ وہ عالم مثال سے بنی نوع انسان کے لئے عالم اجسام میں ظاہر ہو تو "حقیقت محمدیہ" کے اس بروز کو قطب یا بنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس صحن میں ہوتا ہے

کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی شخص لوگوں کی ہدایت کے لئے
بھروسہ ہوتا ہے تو حقیقتِ محمدیہ کا اُس شخص کی ذات کے ساتھ تعالیٰ
ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اس زندگی میں اپنا فرض پورا کر لیتا ہے اور
لوگوں سے مُنْهَنَہ موڑ کر اس دُنیا سے اپنے رُب کی رحمت کی طرف لوٹتا
ہے تو یہ حقیقتِ محمدیہ اُس کی ذات سے الگ ہو جاتی ہے۔ بلکہ
ان سب کے برعکس جہاں تک ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تعلق
ہے، یہ حقیقتِ محمدیہ اُن کی اصل بعثت میں داخل ہے۔ اور یہ اس
لئے تاکہ آپ قیامت کے دن تمام بُنی نوع انسان کے لئے شاہد
ہوں۔ اور نیز اس لئے کہ آپ ذریعہ بنیں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم
کا اُس کے فرمانبردار بندوں کی طرف۔ اور وہ اس طرح کہ آپ قیامت
کے دن اُن سب کی شفاعت کریں۔ الغرض یہ ہیں وہ وجہ جن کی بینا
پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عظیم الشان ہمت کا
ظہور عمل میں آیا۔ چنانچہ آپ کی اس ہمت کا تقاضہ یہ ہوا کہ تمام کے
تمام انسانوں کو آپ کی رحمت اپنے دامن میں لے لے۔ اور ان سب
کی محلی قوتوں کو ہمیشی قوتوں سے امان دلا دے۔ اور اس طرح آپ کا
وجود تمام اقوام کے لئے اللہ کی رحمت کا واسطہ بن جائے۔ اس کی
مثال یوں بسجھئے کہ قدرت کو نسلوں کی بقا اور تسلسل منظور تھا تو اس کے
لئے یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف: «وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ
إِمَّةً شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَاكُمْ شَهِيدًا»۔ علی ہو لا ع۔

لئے اُس نے انسانوں میں قوتِ تناسل پیدا کر دی۔ یا جیسے ہر نوع کو اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی ضرورت تھی تو اُس کے لئے قدرت کی طرف سے ہر نوع میں مدافعت کی کوئی نہ کوئی چیز پیدا کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتِ عالمہ کو بھی ایک واسطہ کی ضرورت تھی جس کے ذریعہ وہ تمام افراد انسانی کو مستفید کر سکتی، چنانچہ ہمارے بھی ہندیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس یہ داسطہ بنتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ موت کے بعد بھی ہمیشہ خلقت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور سب کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی بنا پر آپ ہی کی ذات تمام انہیاں سے زیادہ اس امر کی صحیح تھی کہ وہ اس تدبیٰ اللہ کا جو کہ تمام نوع بشر پر حاوی ہے، اور جسے صوفیاء نے "حقیقتِ محمدیہ" کا نام دیا ہے، مستقر بنی۔ اور اس تدبیٰ اللہ کی مثالی شکل جو عالمِ مثال میں قائم ہے، آپ کی ذات سے اس طرح متصل ہوتی کہ ظاہر اور مُنظَر میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا، گویا کہ ظاہر، ہی مُنظَر ہے۔ اور دونوں طرح مل جاتے کہ ان کو کسی طرح جُدانہ کیا جاسکتا۔ چنانچہ اس شہرِ شر کے ایک معنی یہی ہیں:-

أَفْلَتْ نَمُوسُ الْأَقْلَيْنَ وَ شَهْدُونَ

أَبْدًا عَلَى أُفْقِ الْعُلَى لَا تَغْرِبُ

رپلوں کے سورج کبھی کے غردب ہو گئے۔ یعنی ہمارا سورج ایسا

ہے کہ وہ ہمیشہ اُفقِ عظمت پر تاباں ہے گا اور کبھی نہیں ڈوبے گا)

الغرض "حقیقت محدثہ" کے ساتھ بھی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس کا اتحاد و اتصال میں نے اپنی روح کی آنکھ سے دیکھا۔ اور اس کی کیفیت کو بھی سمجھ گیا۔

علاوہ ازیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اُسی ایک ہی حالت پر قائم ہیں۔ اور آپ کی اُس حالت میں نہ تو کوئی نیا ارادہ محل ہوتا ہے۔ اور نہ کوئی اس میں رخنہ ڈالتا ہے۔ مگر اس صحن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ خلقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ ان سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان اپنی پوری ہمت سے آپ کی طرف متوجہ کرے تو آپ اس کی مصیبت میں مدد کرنے ہیں۔ اور اس پر اپنی طرف سے خیر و برکت کا فیضان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس حالت میں آپ کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کی ذات اقدس نے نئے ارادوں کا مورد بن رہی ہے۔ بالکل اُسی طرح جیسے کہ ایک شخص ہے جو دادخواہوں اور محتاجوں کی مدد میں کوشش ہے، ظاہر ہے ان کی مدد کرتے وقت اُس شخص کے دل میں ضرور نئے نئے ارادے و قرع پذیر ہوں گے۔

اس حالت میں میں نے اس بارے میں سوچ بچارگی اور یہ معلوم کرنا چاہا کہ آپ نداہب فقہ میں سے کسی خاص نداہب کی طرف رجحان رکھتے ہیں تاکہ میں فقہ کے اُس نداہب کی اطاعت کر دوں۔ اور اس کو مفہومی سے پکڑوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے نزدیک فقہ کے یہ

سارے کے سارے مذاہب یکساں ہیں۔ اور اس حالت میں جس میں کہ آپ اس وقت ہیں، آپ کی روح کے لئے یہ مناسب ہی میں ہے کہ وہ مذاہب فقر کے بارے میں ان فروعات میں پڑے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی روح کے خوبصورت تو ان تمام فقہی فروعات کا جو بنیادی علم ہے، وہ موجود ہے۔ اور اس بنیادی علم سے مراد یہ ہے کہ نقوشِ انسانی کے متعلق اللہ تعالیٰ اسی اُس عنایت اور اہتمام کو جان لیا جائے۔ جس کے پیشی نظر انسالوں کے اخلاق و اعمال اور ان کی اصلاح ہے۔ الغرض فقه کے تمام قوانین کی اصل بنیاد تو یہ عنایت الہی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، اُسی کے مطابق اس اصل سے نئی نئی شاخیں اور الگ الگ صورتیں پتی چلی جاتی ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے اصل جوہر میں فقه کا یہ بنیادی علم موجود ہے، اس لئے ضروری ہے کہ آپ کے نزدیک فقه کے سارے مذاہب برابر ہوں۔ اور آپ کی نظر میں ان میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی امتیاز نہ ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ فقه کے مذاہب گو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن جہاں تک فقہ میں دین اسلام کے ضروری اصول و مبادی کا تعلق ہے، مذاہب فقہ میں سے ہر مذہب میں وہ موجود ہیں۔ مزید برآں اگر کوئی شخص فقہ کے ان مذاہب میں سے کسی مذہب کا بھی تازیج نہ ہو تو اس کو دوچھے لئے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اُس شخص سے ناراض ہوں۔ مگر اس

سلسلہ میں اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے مکت میں اختلاف ہو یا اس بنیا پر لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے لگیں۔ اور انہیں ناچاقی پیدا ہو جاتے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر آپ کی ناراضگی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

مذہب فقر کی طرح تصرف کے تمام طریقوں کو بھی میں نے بنی ہلیہ الصدّۃ والسلام کے نزدیک یکساں پایا۔ لیکن اس مقام پر ایک نکتے کے باسے میں تندیہ کر دینا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بعض رفعہ ایک آدمی کو یہ خیال گزرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مذہب فقر کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ وہی مذہب فقر بحق و مطلوب من اللہ ہے۔ اب اگر اس شخص سے فقر کے اس مذہب کے متعلق کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اُس کے دل میں یہ لفظ بیٹھ جاتا ہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کے حق میں تقصیر کی ہے۔ اس کے بعد جب یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے تو ویکھتا ہے کہ اُس کے اور آپ کے درمیان ایک بندروازہ حال ہے چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کا یہ عتاب نتیجہ ہے میری اس کوتاہی کا جو فلاں مذہب فقر کے متعلق فوجھ سے ہوئی۔ لیکن واقعہ یوں نہیں ہے۔ اس معاملہ میں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس حالت میں آتا ہے کہ اس کا دل مخالفت و مشرشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور چونکہ خود

اُس کے اندر قبولیت کی استعداد نہیں ہوتی، اس لئے یہ اپنے سامنے فیض کا دروازہ بند پاتا ہے ۔

اسی طرح بعض دفعہ ایک آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فقہ کے سے جو مذکون اور مردوج مذاہب ہیں، ان سے خروج کے معنی یہ ہیں کہ گویا آدمی شریعت کی حدود سے خارج ہو گیا۔ اور اُس نے احکام الٰہی کی اطاعت چھوڑ دی۔ چنانچہ اس ضمن میں وہ سمجھتے لگتا ہے کہ فقر کے ان مذاہب کے علاوہ شریعت کا اور کوئی قابلِ اعتماد مسک ہی نہیں ہے۔ اسی لئے اُس کے نزدیک ان مذاہب فقہ سے خروج اطاعت خداوندی سے مسترتاپی کے مراد یا اُس کے لوازم میں سے بن جاتا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عناب کا مستوجب ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ اور اسی طرح کے اور بہت سے شبے ہیں، جو اس سلسلہ میں طالبِ کوپیش آتے ہیں۔

پہلے ایک اور مسئلے کے متعلق بھی تنبیہ کر دینا ضروری ہے جس بات یہ ہے کہ لوگ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ مدینہ والوں کو ایسے اعمال کرتے دیجھتے ہیں، جو ان کے نزدیک یا تو وہ فی نفسہ اچھے نہیں ہوتے یا وہ اُنہیں اچھتے نہیں لگتے، تو اس بنا پر یہ لوگ مدینہ منورہ کے پاٹندوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور ان کی طرف سے ان لوگوں کے دلوں میں کیسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ روضہ مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اُدھر توجہ

کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کی صفائی و ظہارت کا وقت آتا ہے تو اُس کیسے کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں پہنچے سے راسخ ہو چکا ہوتا ہے، ان کے اندر تمحی پیدا ہو جاتی ہے اور بجاتے اس کے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان کے دل صاف و ظاہر ہوں، اُٹا ان میں کہ درست پیدا ہو جاتی ہے اس لئے عز دری اور اشد ضروری ہے کہ تم اس طرح کی باتوں سے بچو۔ اور بار بار بچو تاکہ کہیں یہ بھی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور کامل سے استفادہ کرنے کی راہ میں تمہارے لئے روک نہ بن جائیں۔

علاوہ ایسیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ "عکسوت" کا باس پہنچنے ہوئے ہیں۔ اور "بجروت" سے مشابہ ہیں۔ اور آپ کی ذات اقدس حامل ہے بہت سی رطافتوں کی۔ اور یہ رطافتوں ایک تو خود آپ کے ذاتی کمالات میں سے ہیں۔ اور دوسرے جو مختلف استعدادوں کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کوئی کی ان استعدادوں کے اعتبار سے بھی آپ میں یہ رطافتوں موجود ہیں۔ چنانچہ اس مجلس میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اپنی اجمالی مدد سے سرفراز فرمایا اور یہ اجمالی مدد عبارت تھی مقامِ مجددیت، وصایت اور قطبیت ارشادیہ سے، یعنی آپ نے مجھے ان مناصب سے نوازا۔ اور نیز مجھے شرف قبولیت عطا فرمایا اور امامت بخشی۔ اور تصوف میں میرا جو مسلک ہے، اور فقہ میں میرا جو مذہب ہے، ہر دو کو حاصل اور فرع دلوں اعتمدار سے لئے دوسرے صفحہ پر

راہ رات سب پر بتایا۔ لیکن تسب کے لئے نہیں بلکہ صرف مخصوص لوگوں کے لئے جن کی فطرت میں حقیقت کا مادہ ہے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ رکھی کہ اس مسلمان تصور اور مذہب فقیہ کا اتباع ہائی اختلاف اور اپنے کی لڑائی جھگڑے کا پابند نہ ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی فقہ میں اصل اور فرع کے لحاظ سے اور تصور میں سلوک کے اختیار سے ہمارے مذہب فقیہ اور مسلمان تصور کو اختیار کرے، اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں مندرجہ بالا نکتہ پر اپنی نگاہ رکھے۔

اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ آپ سے مبادیٰ وجود کے مسائل، وجود کے مرتب اور فنا و لقا کے مقامات کے بارے میں سوال کر دیں۔ لیکن اُس وقت میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی اُس تدبیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، جس تدبیٰ کا ذکر اور پر ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب بھی میں آپ سے ان مسائل کے متعلق پوچھنے کا ارادہ کرتا تو میں خود بھی تدبیٰ مذکور کی طرف آپ کی توجہ کی اسی کیفیت میں کھو جاتا۔ اور یہ چیز آپ سے سوال کرنے میں مانع آتی۔

اس ضمن میں آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں اور لپٹنے رہت سے ان مسائل کے بارے میں اپنی اُس زبان میں سوال

لہ ذات حق کا پلا مرتبہ ذات بحث کا ہے۔ اسی مرتبے میں فاتح حق ہر اسم درسم و لغت و صفت سے منزہ ہے۔ اس کا نام عالم لاہوت ہے۔ جب اُس ذات نے اسم درسم و لغت و صفت و صوف پایا تو اس کا نام وحدت ہوا۔ اسکو عالم جبروت کہتے ہیں۔ اور صوفیا نے اسی عالم کو حقیقت محمدیہ نام دیا۔

کر دل جو زبان کہ طاری اعلیٰ کے مقابل میں ہوگی ہے۔ میں اس حالت میں
نکھا کہ آپ کے نور نے مجھے پوری طرح سے گھیر لیا۔ پھر میں نے سوال
کرنا چاہا تو آپ کے نور نے پھر مجھے گھیر لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے
سوال کرنا چاہا تو پھر آپ کے نور نے مجھے حلقة میں لے لیا۔ الغرض یہ
سلسلہ اسی طرح چلتا رہا میاں تک کہ میرا مسوال اور آپ کی ہمت عالی
دنوں میں گئے۔ اور اس طرح تیرشانے پر جا کر لگا۔ چنانچہ میں نے آپ
کو دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تدبی مذکور کے محل اور ظرف بھی ہیں۔ اور
اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مبارک صورت کو محفوظ رکھے ہوئے ایک
ہی حالت پر قائم بھی ہیں اور خلقت کی طرف متوجہ بھی ہیں۔ اور آپ
”عظوت“ کا باس بھی چھٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ کی ذات اقدس میں
میں قبولیت، اور حذر و اکفت کی اتنی فراوانی ہے کہ نہ اُس کا
حساب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اُس کی آخری حد کا اور اک کر سکتا ہے۔
میں نے دیکھا کہ جب کوئی شخص اپنی پوری ہمت کے ساتھ آپ کی
ذات اقدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ شخص
عالیٰ ہمت ہی ہو۔ برعکس کوئی شخص ہو، جس کے سینے میں دل ہے،
اور وہ کسی چیز کا اس طرح شوق رکھ سکے کہ وہ اُس کی طرف پورے
عزم دار اداہ اور شوق درغبت سے متوجہ ہو جائے۔ الغرض یہ شخص
جب اپنی پوری ہمت سے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ بھی
اُس کی طرف تدبی فرماتے ہیں۔ اور آپ کی تدبی یہ ہے کہ آپ اس کے

سلام اور اُس کے درودوں کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی یہ شخص جب اس طرح آپ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اُس کی اس توجہ سے آپ میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو مشابہ ہوتی ہے تجدید پذیر ارادے کے۔ یہاں میں تمہیں ایک بہت بڑے راز سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نعمہ مبارک کو اپنی اس تدبی کا محل اور طرف بنایا، تو اُس میں حکمت یہ تھی کہ اس طرح ذات حق دُنیا والوں سے اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو پستی میں ہیں، بہت زیادہ قریب ہو جائے۔ اور یہ اُس وقت تک ممکن نہ تھا۔ جب تک کہ عنایتِ الہی کسی انسانی نئے کو اپنا واسطہ نہ بناتی۔ چنانچہ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمہ مبارک تدبیِ الہی کا محل و طرف بنالہ اس فتنہ میں میں نے دیکھا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے یا آپ کی مدح و شنا کرتا ہے تو آپ اس بات سے بہت مسرور ہوتے ہیں۔ اور نیز جس طرح شاikh صوفیا کے فیض صحبت کا اہل مجلس پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح میں نے آپ کی ذاتِ تقدس کو بھی ظاہر و عیاں دیکھا۔ اور آپ کو توجہ کرنے والوں پر فیضان فرماتے پایا۔ میں اس وقت آپ کے روپ و حاضر تھا۔ اور جو کچھ میں تمہیں بتا رہے ہوں، یہ میرے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ ہے + میرا بھائی محمد عاشق جو اس سفر میں میرا رفیق ہے، وہ اس عجیب راز کو خوب سمجھ گیا ہے۔ اور مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ

اُس کا اس عجیب راز سے واقع ہونا محض فیضانِ الٰی کا عطا یہ ہے۔ اور عجیب راز یہ ہے کہ جملہ کمالات میں سے حج ایک بہت بڑا کمال ہے۔ چنانچہ حج کے بہت بڑا کمال ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ حج پس حاجوں کے دلِ مسترست د سر در سے بھر جاتے ہیں۔ اس امر کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب بنزلہ ایک کمال کے ہے۔ اب یوں ہٹوا کہ جب ذاتِ حق نے خلقت کی طرف تدبی فرمائی۔ اور خانہِ کعبہ کو اُس نے اپنی اس تدبی کے شعائر میں سے ایک شعائر بنایا، تو اس طرح بہت سافت کے خانہ کعبہ کا قربِ اللہ تعالیٰ کا قرب قرار دیا گیا۔ باتِ دراصل یہ ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تک سافت طے کر کے پہنچنے کا جو راستہ ہے، اُس کی آخری منزل حج ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بصر جانا ہے۔

گیارہوں مشاہدہ

میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اس قول کے کہ ”ابھی آدم کا خیر پانی اور مٹی میں تیار ہو رہا تھا کہ یہیں بنی تھا۔“ معنی دریافت کئے۔ لیکن میرایہ سوال زبان مقال سے نہ تھا۔ اور نہ یہ سوال خیال کی صورت میں میرے دماغ میں آیا تھا۔ بلکہ ہوا یہ کہ میری روح اس راز کو جانشی کے شوق اور اُس کی محبت میں سرشار ہو گئی۔ اس حالت میں یہی نے اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی مجہ سے ممکن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قریب کر دیا۔ اس کی وجہ سے میری روح آپ کی ذات اقدس کی جو مثالی صورت ہے، اُس سے بھر گئی۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اپنی وہ مثالی صورت دکھائی، جو اس عالم اجسام میں تشریف فراہم ہے۔ پہنچنے والی مثالی یہیں آپ کی

بھی۔ پھر آپ نے مجھے عالم مثال سے اس عالم اجسام میں اپنے منتقل ہونے کی کیفیت بتائی۔ اور اس طرح مجھے دوسرے انہیاں کی بھی مثالی صورتیں دکھاتی گئیں۔ اور خداوند کار ساز کی جانب سے ان انہیلہ پر جیسے جیسے بہوت کافیضان ہوا۔ اور نیز جس طرح آپ پر عالم مثال میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس لفڑت کا فیضان ہوا تھا، اُس کی کیفیت دیکھنے میں آتی۔ بعد ازاں مجھے اولیاء کی مثالی صورتیں، اور ان پر جس طرح علوم و معاف کافیضان ہوتا ہے، یہ چیزوں دکھاتی گئیں۔ اور اس طرح میرے لئے یہ حقائق خوب واضح ہو گئے۔ الغرض جو کچھ اُس مثالی صورت سے مجھ پر فیضان ہوا، میں نے اُسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اور اس فیضان سے جو مقصود و مطلوب تھا، وہ میں اپنی طرح سمجھ گیا۔ پھر اس صورت میں جو کچھ میں سمجھا گوں، اب تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔

تمہیں جانتا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم اشان تدلی ہے، جو خلق کی طرف متوجہ ہے۔ لوگ اسی تدلی کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں اور اسی کی پناہ ڈھوندتے ہیں۔ اس تدلی کی ہر زمانے میں ایک نئی شان ہوتی ہے۔ پھر اسی دوسرے ایک زمانے میں ایک مظہر میں ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے زمانے میں دوسرے مظہر میں۔ اور جب کبھی یہ تدلی سے صرف مظہر ہوتی ہے تو دنیا میں اس مظہر کا ایک عنوان بنتا ہے، اور یہ عنوان عبارت ہوتا ہے رسول سے، جو لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دینے اہمیں بُرے کاموں سے روکنے، اور ان کو فرازش دو اچبات بتانے کیلئے

میوثر کیا جاتا ہے۔ الغرض یہ رسول اور جو کچھ کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے لے گر آتا ہے، وہ اس تدبیٰ کے مظہر کا عنوان بنتے ہیں۔ اور یہ مظہر فی نفعہ اصل حقیقت کی جیشیت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب کبھی تدبیٰ کے مظاہر میں سے کوئی مظہر بروئے کار آتا ہے تو اسی مظہر کی مناسبت سے لوگوں میں علوم و معارف کا ظہور ہوتا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں کو اس کا سرے سے علم ہی نہ ہو کہ یہ علوم و معارف تدبیٰ الہی کے اسی مظہر کا فیضان اور اُسی کے مناسب اور مطابق ہیں۔ وہ لوگ جن پر ان علوم و معارف کا ظہور ہوتا ہے اگر وہ اُس گروہ میں سے ہوں جن کا کام کسی رسول کے کلام سے مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے تو یہ اخبار اور رہیان کی جماعت ہوگی۔ اور اگر وہ اُس گروہ میں سے ہوں جن کی اس طرح ان مسائل کے استنباط کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ پرست راست اللہ تعالیٰ سے اخذ علم کی ہمت رکھتے ہیں، تو یہ براہ حکماء اور محدثین یعنی حکمت ربیانی کے حاملوں کی جماعت ہے۔ غرض کے حکماء اور محدثین اور حکماء اور محدثین، یہ دونوں کے دونوں گروہ تدبیٰ الہی کے اسی مظہر سے علم حاصل کرتے ہیں، خواہ وہ اس حقیقت سے باخبر ہوں یا نہ ہوں۔ تدبیٰ الہی کی اس طرح ظہور فرمائی ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ درستہ چنان تک رسول کی تبلیغ و ارشادت کا تعلق ہے، اُس کا تو حلقة ظاہر سے بڑا محدود ہوتا ہے یعنی اُس کی آدازہ ایک قوم سنی ہے، اور دوسری قوم تک اُس کی آفاز نہیں

پہنچتی، اور وہ اُس سے محروم رہتی ہے۔ لیکن اس تدبی کا فیض عام
ہے۔ اور اس سے احیار اور رہنمائی اور حکماء اور محدثین برابر اندر علم
کرتے ہیں +

قصہ مختصر، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ آدم علیہ السلام
کو پیدا کرے، تاکہ وہ تمام بُنی نوع انسان کے لئے بمنزلہ بآپ کے ہوں
تو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کا دراصل مقصد یہ تھا کہ وہ آدم کے ساتھ
سامنہ تمام بُنی نوع انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس
سلسلہ میں ہوا یہ کہ تخلیق آدم کے وقت تمام بُنی نوع انسان کی ارادا
نے عالمِ مثالی میں اُن کے اجسام کی جو مثالی صورتیں ہیں اُن کی طرف حرکت کی۔ اس عنین
میں عالمِ مثالی بُنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مثالی پیکر بھی مشکل ہو گیا اور اس مثالی پیکر کے
مناسب تدبیٰ الہی کا جو مظہر رہتا، وہ اس میں بھی ہو گیا۔ آپ کے مثالی پیکر پر تدبیٰ الہی
کے مظہر کا انطباق ایسا تھا جیسے کہ ایک گل پر اُس کے جزو کا انطباق ہو جائے۔
اور ایسا اس لئے ہوا کہ اول تو عنایت الہی میں آپ کی ذات اقدی
کے لئے یہ خصوصیت مقدر ہو چکی تھی۔ اور دوسرے ایک ایسے فرد کا
وجود میں آنا ایک ظہر شدہ امر تھا، جو حشر کے دن تمام بُنی نوع انسان
کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ ہے۔ اور اُس کے ذریعے اُن کے
لئے شریعت کی تکوین ہو۔ اور نیز جب لوگوں کو ضرورت پڑے تو وہ
اُن کی بیماریوں کو بھی دور کر سکے، الغرض آدم کی تخلیق سے پہلے آپ
کے بُنی ہونے سے یہ مراد ہے۔

بہر حال جب افراد انسانی وجود میں آگئے۔ اور انہوں نے اپنی اپنی راہ میں اختیار کر لیں، تو ان میں سے بعض افراد طے کے مرتکب ہوئے۔ اور ان میں سے بعض تفریطیہ میں پڑ گئے۔ چنانچہ راس وقت تدبیر الہی اس امر کی مقاضی ہوتی کہ وہ سب کو ایک ہی راہ پر لے آئے، اس کے لئے ان افراد میں سے ایک فرد یہ تدبیر الہی منطبق ہوئی، اور اس فرد کو دھی کے ذریعہ بتایا گیا کہ کس سبکی چیزیں اس کی قوم کے لئے فلاح ہے۔ غرضیکہ اس طرح اس فرد کے اس منصب پر مہمودت ہونے سے تدبیر الہی کے مطابق ہر میں سے ایک مظہر ظاہر ہوا۔ اور عامہ طور پر اس صحن میں ہوتا یہ ہے کہ تدبیر الہی کے اس مظہر کا المطابق اس بُنی کے وجود لشکری پر ہوتا ہے۔ باقی رہا عالم مثال میں اس کا مثالی وجود، وہ تو اس سلسلے میں محض اس بات کی حکایت کرنے کے لئے ہے کہ اس فرد میں یہ یہ استعداد ہے، اور اس لئے اس استعداد کے مطابق اس پر فیضان ہونا چاہئے۔

لیکن اس کے بر کس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خارج میں ظور پذیر ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تدبیر الہی کا بھی ایک مظہر ظاہر ہوا۔ اور چونکہ یہ مظہر قوتِ مثالی پر مشتمل تھا۔ اس لئے اس نے پوری طرح مثالی بآس اختیار کر لیا۔ اور اس حالت میں تمام آفاق اس سے بھر گئے۔ اور یہ اس لئے کہ اس سے پہلے کوئی تدبیر مثالی بآس میں ظور پذیر نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس کے میعنی

ہیں کہ عالم مثال فی نفہ اُس وقت تک موجود ہیں تھا۔ یعنی عالم مثال تو موجود تھا، لیکن کسی تدلی نے اُس وقت تک مثالی ہستیت اختیار نہیں کی تھی۔ غرضیکہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تدلی اللہ کے اس منظر کی کوئی مثالی صورت نہیں تھی۔ لیکن آپ کے بعد تدلی اللہ کی اس مثالی صورت سے پہ ساری کی ساری فضنا اور یہ کل زمینیں اور آسمان بھر گئے۔ چنانچہ اب حالت یہ ہے کہ جو شخص بھی علم و معرفت، روحانی کیفیت یا اس قبل کا کوئی اور کمال اخذ کرتا ہے، تو اس کے لئے سب سے قریبی ماذر تدلی اللہ کا۔ یہی مثالی منظر ہوتا ہے۔ اب یہ اور پات ہے کہ وہ اس حقیقت کو جانتا ہے، یا وہ اس سے بے خبر ہے۔ الفرض یہ ہیں وہ دجوہ، جن کی بنابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ کے بعد بیوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ آپ کی ذات اقدس کی اصل حقیقت جس کے لئے آپ کا لوگوں کے لئے بنی میوث ہونا محض ایک خواں بھتا، تدلی اللہ کا یہی مثالی منظر ہے۔ اور یہی وہ مثالی منظر ہے۔ جس سے یہ فضنا اور زمین اور آسمان بھر گئے ہیں۔

اب اگر تم یہ بات سمجھ گئے تو یہ شک تم اس حقیقت کو بھی پاؤ گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تمام جہاں کے لئے رحمت اور خاتم النبیین ہے۔ اور یہ کہ انہیاں علیہم السلام اس عالم

اجسام میں اللہ تعالیٰ کی اسی تدبیت سے فیض حاصل کرتے تھے لیکن جہاں تک اولیاء کا تعلق ہے، ان کی گیفتیت یہ ہے کہ وہ اس تدبیت کے مثالی مظہر سے اخذ معرفت کرتے ہیں۔ اور اس مثالی مظہر کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بعثت ہے۔ گردوہ انہیاء میں یہ میں نے اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مستائز پایا ہے کہ بے شک ان کی بُوت بھی عالم ارواح میں یعنی جب تخلیق آدم کے ساتھہ تمام بُنی نوع انسان کی ارواح اپنے مثالی پیکر دل میں ظاہر ہوئی تھیں، متشکل ہوئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بُوت کی مثالی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بُوت کی مثالی صورت سے قدر سے کمزور رہتی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے تدبیت الہی کا ایک روحانی مظہر ظاہر ہوا۔ لیکن یہ بھی اس روحانی مظہر سے صنعتیت تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ظہور پذیر ہوا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد ان کی تدبیت کے سوا اور کہیں کامل نبی اور مختار پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بُوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ پر جب ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ظاہر ہوئے تو تدبیت الہی کا مثالی مظہر خوب نتایاں طور پر ظاہر ہو گیا۔ اور اسی بناء پر آپؐ کی بُوت کے بعد کسی اذر نبی کی ضرورت نہ رہی۔ اور بُوت کا سلسلہ سزے سے ختم ہو گیا۔ اور علوم دعارت کا فیضان موسلا دھار پارش کی طرح ہونے لگا، کیونکہ

چنان تک ان فلوم و معارف کا تعلق ہے، اُن کا مستقر تو زیادہ تر
عالیم مثال ہی ہوتا ہے +

تحقیق عالی — اب اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ آخر اس
میں کیا عکست ہے کہ زمانہ قدیم میں آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں
کا رجحان ذہن کے جمود اور طبیعت کی صفتی کی طرف زیادہ رہا۔
اور وہ حیوانی خواہشات میں بیشتر اُبھے رہے۔ اور اُس زمانے میں
معدودے چند کے سوا کہیں اجتماعی ادارے وجود میں نہ آئے۔ اور
شاذ و نادر ہی خطابت، طبیعات اور الہیات کے علوم میں سے کوئی
علم ایجاد نہوا۔ باوجود اس کے کہ اُس زمانے میں لوگوں کی بڑی لمبی
حکمت ہوتی تھیں۔ اور وہ ان علوم میں بہت خور و خوض بھی کرتے
لکھتے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم مبعوث ہوتے ہیں تو ان کے بعد
یونان، روم، فارس، ہنی اسرائیل، مغرب اور عرب میں ان
فلوم میں قدرے ترقی ہوتی ہے پھر جنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت ہوتی ہے، ان علوم کا بڑے زور سور سے فیضان ہوتا ہے۔
اور علوم حکمت، فنون ادب و خطابت اور علوم شرعیہ اس طرح
پھوٹ پڑتے ہیں کہ اُن کی کوئی اور چھوٹ نہیں رہتی +
اس کے جواب میں میں عرض کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی ایک بہت بڑی تدریٰ ہوئی، جس سے کہ زمینوں اور آسمانوں کی کل فضایا بھر گئی۔ اس تدریٰ کی حقیقت عبارت ہے اُس معرفت سے جو شخص اکبر کو اپنے رب کے پارے میں حاصل ہوئی۔ اس اجمالی کی تفصیل یہ ہے کہ شخص اکبر نے جب اپنے رب کو اس طرح جان لیا جیسا کہ اُس کے جانے کا حق تھا۔ اور اس نے اپنے رب کا اُسی طرح تصور کر لیا، جس طرح کہ اُس کا تصور کرنا چاہیے تھا، تو رب کو اس طرح جانے اور اُس کا اس طرح تصور کرنے سے شخص اکبر کے ادراک میں اللہ تعالیٰ کی ایک باعظت صورت نقش ہو گئی، جو تمہارے بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور اُس کی عزت و رفعت کی پہنچ جب تک شخص اکبر کا وجود قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صورت بھی اُس کے اندر موجود رہے گی۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اُس کا کلیت اللہ پر انطباً ہوتا ہے۔ اور وجود پاری تعالیٰ جو فی نفس الامر ہے، یہ صورت اُس وجود کی بہت اچھی طرح اور بہت صحیح ترجمائی کرتی ہے ۔

بعد اذال جب طبیعت کلیہ کے اندر عناد و افلاک کا ظہور ہوا تو یہ طبیعت کلیہ ان عناد و افلاک میں اسی طرح محفوظ ہو گئی، جس طرح کہ طبیعت ارضی معدنیات، نباتات، حیوانات، اور نوع انسانی میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور نیز اس طبیعت کلیہ کے خواص اُسکے لئے جس طبع ہر حیز کا ایک کلی دلیل موجود ہے۔ اسی طرح طبیعت جو کل کائنات کی ہے، اُس کا بھی ایک کلی دلیل موجود ہے ظہور میں آیا تھا۔ اسلام طبیعت کلیہ کے میتوں

تعاضہ اور اُس کی قویں بھی ان عناصر و افلاک میں داخل ہو گئیں۔ اب ان عناصر و افلاک کے بعد جب معدنیات، نباتات، حیوانات، اور بھی نوع انسان معرض وجود میں آئے۔ تو عناصر و افلاک کے طبائع ان میں منتقل ہو سکتے۔ اور اس ضمن میں معدنیات، نباتات، حیوانات اور بھی نوع انسان کی جیشیت آئیں گی سمجھتے کہ یہ چیزیں افلاک کے خواص، اور ان کی حرکات، اور عناصر اور ان کے طبائع کے اظہار کا ذریعہ بن گئیں۔ باقی رہا طبیعت کی، وہ تو پہلے، ہی پہنچی تمام قوتوں کے ساتھ افلاک و عناصر میں محفوظ ہو چکی تھی۔

الغرض اس طرح بھی نوع انسان کے ہر فرد کے دل کی گمراہی میں، اُس کے جو ہر فس میں، اور اس کی اصل بنادوٹ میں اشد تعلق کو جانتے کی استعداد رکھی گئی ہے۔ لیکن اس استعداد پر بہت سے پردوے پڑتے ہوئے ہیں۔ یہ پردوے انسان کی اس استعداد پر کیسے پڑتے؟ بات یہ ہے کہ انسان کے نفس کی خاصیت کچھ ایسی ہے کہ اُس پر ہر طبیعت کا خواہ وہ عناصر و افلاک کی اساسی طبائع میں سے کوئی طبیعت ہو، یا معدنیات، نباتات اور حیوانات کی طبائع میں سے، ان میں سے ہر ایک کا انسان پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ نفس انسانی ان طبائع سے جس قدر متاثر ہوتا ہے، اُسی قدر اس کی فطری چلائیں کی آجائی ہے اور نفس کے اندر جو نقطہ مدلیٰ موجود ہوتا ہے، اور جس کی کوئی حیثیت ایک مضبوط رسمی کی ہے کہ جس سے اسے پکڑ لیا، اُس نے

گویا اپنے رہت کی معرفت کی رسمی کو پکڑ لیا، بیان کے ان اثرات کی وجہ سے چھپ جاتا ہے۔ الغرض یہ پر دے جو انسان کی اس استعداد پر پڑ جاتے ہیں، یہ تہ بہتہ اور ایک دوسرے کے اوپر بھے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے، جس کو کہ "حقیقت الحقائق" کی طرف منتظر نصیب ہوا۔ اور اُس نے یہ بھی جان لیا کہ اسی حقیقت الحقائق سے طبیعت کلیہ اور اس کے اجزاء اور انواع کا ظہور ہوا ہے۔ اس شخص کے لئے اللہ کے نور کی مثال قرآن مجید کی اس آیت کی ہے۔ "ایک طاق ہے، جس میں کہ چراغ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ چراغ شیش کے اندر ہے۔ اس نور سے اس شخص کے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ حجابات خود اس نور کی روشنی سے جگکرنا اٹھتے ہیں۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ یہ حجابات جو پہلے معرفت الٰہی میں حاجج تھے، اس نور کی وجہ سے اب بجا ہے اس کے کہ یہ پہلے کی طرح معرفت الٰہی میں سدراہ ہوں، یہ حجابات اُس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پہچانتے میں مدد دیتے ہیں۔ اب ایک اور شخص ہے جس کو حقیقت الحقائق کی طرف یہ تنپہ نصیب نہیں ہوا۔ اور نہ وہ حقیقت الحقائق سے طبیعت کلیہ اور اُس کے اجزاء کا ظہور کر سکا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے اس شخص کے نفس پر جو پر دے پڑ جائتے ہیں، اُن کی مثال قرآن مجید کی اس آیت کی ہے کہ "ایک عین سمندر ہے جس پر تاریکیوں کی گماشیں چھائی ہوئی ہیں۔ اور سمندر میں موجود اُنہر رہی ہیں اور اوپر سے باول

گھر گھر کر کر رہے ہیں۔"

الغرض یہ تو اس بحث کی تمهید ہوتی۔ اس کے بعد تمہیں جاننا چاہئے کہ نفس انسانی کے جس نقطہ تدلی کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اُس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اسیاب و حالات ہوتے ہیں، اُنہی کے مطابق یہ نقطہ تدلی اور اُس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب اسیاب و حالات وافر اور درجہ کمال کے ہوں تو اُسی قدر یہ نقطہ تدلی واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس نقطہ تدلی کو بر سر ظہور لائے دالے اسیاب میں سے ایک سبب ماءِ اعلیٰ ہے۔ اور ماءِ اعلیٰ سے میری مُراد یہاں صرف ذرتوں سے نہیں۔ بلکہ ماءِ اعلیٰ میں اُن کاملوں کے نقوص کا بھی شمار ہوتا ہے، جب کہ وہ موت کے بعد اپنے آپ سے اپنے پدنوں کے لفیل حجایات اُتار دیتے ہیں، جو اس دُنیا کی زندگی میں اُن کے نقوص کو گھیرے رہتے ہیں۔ اور اس طرح وہ ماءِ اعلیٰ سے بہت زیادہ مشابہ اور اُن میں بہت بڑا درجہ رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ جب کوئی کامل اس دُنیا سے گزر جاتا ہے تو حرم پس سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ دُنیا سے نابود ہو گئے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے پر عکس موت پر کے بعد اس کامل کا وجود عرض دجوہر کے مرکب سے مکلن کر سرتاپا جوہر ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح وہ اپنے کمال میں اور توی تر ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ ماءِ اعلیٰ کے

جو اکابر ہیں، ان میں سے ہر بڑے فرد کو اس امر کی توفیق نصیب ہوتی ہے کیونکہ نفس سے وہ تہ بہتہ حجابت جو اُس کے اوپر پڑتے ہوتے ہیں، ہٹا کر نقطہ تدبی تک پہنچ جاتے۔ اس کے بعد اُس کامل کے نقطہ تدبی سے ایک موج املاحتی ہے جو اُس کامل کے نفس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اور اُس سے یہ نفس معرفت الٰہی سے بھر جاتا ہے۔ پھر یہ موج اُسی تدبی کی طرف لوٹتی ہے، چنانچہ اب یہ تدبی ایک اور تدبی کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دوسرا تدبی ان انسانی نفوس سے جو اجسام میں محبوس ہیں، زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسانی نفوس پر اس زندگی میں معرفت الٰہی کا فیضان ہوتا ہے۔ الغرض اس طرح جوں جوں زمانہ گزرتا ہے، اور طاوہ اعلیٰ کے انوار بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ان افراد کا ملین میں سے بعض افراد تو درجہ اعلیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور بعض ان سے بیچے، اور بعض انہا دو درجوں کے بینج میں۔ بغرضیکہ ان انوار سے نفوس انسانی کی زمین سے لے کر معرفت الٰہی کے آسان تک جو بھی فضایا ہے، وہ پوری بھر جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بعد کے زمانے میں نفوس انسانی کی معرفت زیادہ تیز اور زیادہ واضح اور نایاں ہوتی گئی۔ چنانچہ اسی حکمت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے

مجب قیامت کا زمانہ فریب آئے گا تو مون جو بھی خواب دیکھے گا،
اس میں شاذ نادر ہی علظی ہوا کرے گی۔

القصة جس طرح عناصر و افلاک میں طبیعت کلبیہ محفوظ ہے مادر معدنیات، نباتات، حیوانات اور بینی نوع انسان میں طبیعت ارضی موجود ہے، اسی طرح ایک طبیعت عرشی ہے، جس میں انسانی زندگی کے اجتماعی تفاضول کے علوم جمع ہیں، اور نہ صرف یہ علوم بلکہ ان طبیعت عرشی میں ہر نوع کے اجتماعی تفاصل، نیز تمام کے تمام نعمتوں اور اذاع کے سب کے سب احکام و معاملات کے علوم جمع ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شخص زندگی کے ان اجتماعی علوم کو استنباط کرنے میں کمال حاصل کرتا ہے، تو وہ در حاصل اسی طبیعت عرشی سے کب فیض کرتا ہے۔ اور جب یہ فیض اس شخص کے قلب میں اچھی طرح سے راسخ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فیض اپنے اصلی مقاصد یعنی طبیعت عرشی کی طرف نوٹتا ہے، اور اس موقع پر اس شخص کے کمال کے مطابق طبیعت عرشی سے دوسرا بے انسانی نعمتوں کے لئے ایک اور تدبی کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ اجتماعی علوم عامہ ذہنوں میں آسانی سے اپنی جگہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ کامل اس دُنیا سے وفات پاتا ہے، تو وہ خود بالکل ناہود ہوتا ہے، اور نہ اس کا یہ کمال اور نہ اس کے نفس کا وہ طرف جو طبیعت عرشی کی تدبی کا مرکز بتا تھا، فنا ہوتا ہے۔ بلکہ ان میں سے ہر چیز اپنی اصلی حالت پر رہتی ہے۔ چنانچہ اس طرح کے جو

صاحب کمال نفوس ہوتے ہیں، اُن میں سے ہر ایک دوسرے کے لئے تقویت کا سبب بنتا ہے۔ ان نفوس کی نسبت "طبعیت انسانیہ" سے جو عالم مثال میں ایک شخص واحد کی طرح موجود ہے، ایسی ہی ہے، جیسے کہ انسان کی قول اور اُس کے فہمی صوراً کی نسبت خود اُس سے ہوتی ہے۔ غرضیکہ جس طرح منطقی استدلال میں مقدمات ذریعہ بنتے ہیں نتیجہ اخذ کرنے کا، اسی طرح پاکیزہ نفوس بھی واسطہ ہوتے ہیں دوسرے نفوس کے لئے حصول پاکیزگی کا۔ اور یہی وہ معرفت ہے جس کی طرف میں نے اپنے قصیدہ "لامیہ" کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے:-

شَهِدَتْ تَلْدَأْ وَيْرَ الْجُوْدِ جَمِيعُهَا
تَلْدُورَ كَمَادَارَ الرَّحْمَى الْمَنَابِيلَ

وجود کے جتنے بھی چکر ہیں، میں نے اُن سب کا مشاہدہ کیا۔ اور وجود اس طرح چکر کاٹ رہا تھا جیسے کہ چکر ایک طرف جھکی ہوئی چکر لگاتی ہے۔

بازصوالي مشاپرہ

مدینہ منورہ میں قیام کے دوران میں بالجملہ میرے ساتھیہ اکثر ہوا کہ جب بھی میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر کی طرف متوجہ ہوا میں نے آپ کو حاضر و ظاہر پایا۔ اور وہ اس طرح کہ یا تو میری روح کی آنکھ کھل گئی۔ اور میں نے آپ کو جس حالت میں کہ آپ تھے دیکھا اور یا میرا نفس آپ سے بے حد متأثر ہوا۔ اور میرا یہ تاثر ہی ذات اقدس کا ترجمان بن گیا۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور اس وقت میرے اندر یہ شوق بھرا ہوا تھا کہ انسانی نفوس کے حالات و کوائف کے مطابق مجھے جو شرعی احکام دقواعد کے معارف کو استنباط کرنے، اور جو دہلی کے جو مختلف مراتب ہیں، ان کے علوم سے بہرہ ور ہونے کی خصوصیت دی گئی ہے، خدا

کرے میرے سلسلے اس خصوصیت کی جو اصل حقیقت ہے، وہ عیاں ہو جائے۔ الغرض میں اس فکر میں تھا کہ میرا نفس ذات اقدس ہنسے بحق ہو گیا۔ اور اس کی وجہ سے میرے اندر ان علوم و معارف کی خوشی اور دُنہنڈ کی پکسر سماگئی ہے ۔

خلافہ ازیں ایک دن مجھ پر ذات حق کی نظر کا فیضان ہوا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انہیاں میں سے صرف ہمارے ہی بنی عالمہ الصلوٰۃ والسلام کو لفظیب ہوئی ہے، جیسا کہ تدبی کے سلسلہ میں ہم ابھی بیان کرچکے ہیں کہ ذات حق کی نظر کا یہ فیضان آپ کی ذات کے لئے خاص تھا۔ اور جب آپ عالم ناسوت میں تشریف لائے تو وہ فیضان بھی عالم ناسوت میں آپ کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ الغرض جب مجھ پر ذات حق کی نظر کا یہ فیضان ہوا تو میں بھی پوری توجہ سے اُدھر منتقل ہوا۔ اس سے اس فیضان کا ایک زنگ نیرے اندر جا گزیں ہو گیا۔ اور اس وقت میں نے اپنے آپ کو یوں محسوس کیا جیسے کہ اسٹریپارک و تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ ذات حق کی یہ جو نظر ہے اور جس کا مطیع میں ہنا ہوں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس شخص پر ذات حق کی اس نظر کا فیضان ہوتا ہے، وہ شخص جب کسی جگہ بیٹھ کر اپنے رہ کا ذکر کرتا ہے، تو تمام کی تمام زمینیں اور سارے کے سارے آسمان اُسکی پیر دی کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر زمین کے وہ اجزاء جو پاتال تک پہنچے چلے گئے ہیں، اور فضا کے وہ حصے جو ساتھیں آسمان بلکہ عرش تک

پھیلے ہوئے ہیں۔ اور نیز جب یہ نظر حق کسی شخص میں جاگزیں ہو جائے تو وہ قطب بن جاتا ہے۔ مزید برآں میں اس نظر کے بیضان کے وقت اس حقیقت کو بھی جان گیا کہ یہ نظر اور نقش کی طرح جل کے اندر نقش نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ انسان کی روح کے اصل جوهر اور اُس کے نفس کی گہرائی میں اپنی جگہ بناتی ہے ۔

نیز ایک دن کا واقعہ ہے کہ میرے سامنے ٹاء سافل کے زنگ میں ایک نور ظاہر ہوا۔ اور میں نے دیکھا کہ یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے پشتے کی طرح پوری قوت سے پھوٹ رہا ہے ۔

تبریض وال مشاہدہ

ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلحت پر جو
مسجد نبوی کے منبر اور آپ کی قبر کے درمیان ہے، چاشت کی نماز
پڑھ رہا تھا کہ مجھ پر دہ راز ظاہر ہوا، جس راز کی اصل کا میں نے
حقیقت کی یہ سے استفادہ کیا تھا، اور وہ راز ہے ملاعِ اعلیٰ کا قرب
اور عبادت کا جو پر اصلی۔ چنانچہ اُس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس اشارہ کا کہ "مسجدوں میں خوب دعائیں کرو" اور
نیز آپ کے ایک صحابی کو یہ کہنے کا کہ "کثرت بحود سے اپنے نفس
کی مدد کرو" مطلب سمجھا۔ بات یہ ہے کہ ملاعِ اعلیٰ کا قرب صرف
اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ بڑی عاجزی اور پوری توجیہ
سے دعا کی جائے۔ اور آدمی اپنے آپ کو اللہ کے روپ روڈال دے۔

اور اُس کی بارگاہ میں عجز و زاری کرے۔ اور اُس کے استانے کو پہنچنے لئے پناہ گاہ بنائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سجدہ سے میں پڑ کر خدا سے پوری توجہ اور سہبتوں سے دعا کرے۔ کیونکہ سجدہ ہی در حصلِ ملائعاً علَّت کے قرب کا قالب ہے۔ اور ایک چیز کے قالب کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہی قالب راستہ اور ذریعہ بنتا ہے اُس چیز کے اصل جوہر تک پہنچنے کا۔

الغرض اللہ تعالیٰ کی رحمت عامّہ جب نوع بشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور اُس نے السالوں کو اس رحمت سے مستفیض فرمانے کا ارادہ کیا تو اس رحمت عامّہ کی معطر پیٹوں سے متغلق ہونا، اُس کے نزول کو مکن بنانا، اور اُس کے لئے وجود میں آنے کا سامان کرنا، ظاہر ہے یہ سب چیزوں اس رحمت کے لئے بطور مدد اور اعانت کے ہوں گی۔ اور ان سے رحمت کا جو حصل مقصد ہے، وہ تکمیل پذیر ہو گا۔ اور چونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامّہ سے تعلق کی قریب ترین صورت ہے، اس لئے بنی صہل اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کثرت سجدہ کا حکم دیا۔ اس صورت میں مجہد پر آپ کے اس ارشاد کی بھی حقیقت ظاہر ہوئی، جس میں کہ آپ حوالہ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ "کیا تمہاری آنکھوں کو چودھویں رات میں ماہ کامل کو دیکھنے سے اذیت ہوتی ہے؟" اس پر صحابہ نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ اس پر آپ

لئے ارشاد فرمایا۔ کہ ”تم بعینہ اسی طرح قیامت میں اپنے رپ کو دیکھو گے۔ تمہیں چاہئے کہ طلویع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی جو نمازیں ہیں، ان کو کبھی ترک نہ کرو۔ اور اس معاملہ میں کسی چیز سے مغلوب نہ ہو۔“ یعنی مطلوب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہوگی، وہ وہی تجلی ہے جو نمازی کے سلسلے میں جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور یہی وہ تجلی ہے جو اس حدیث کے مطابق جس میں کہا گئے ہے فرمایا کہ ”بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو خدا اُس میں برابر کاشريك ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کرتا ہے۔“ اللہ عزوجلہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی..... الخ لغرض اللہ تعالیٰ کی یہی وہ تجلی ہے جو نماز میں بندے کے سامنہ شریک ہوتی ہے اور اس کی دعاوں کا جواب دیتی ہے۔ لیکن اس ضمن میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو اس زندگی میں ان کے حجابات بدن روخ کی آنکھ سے بھی اس تجلی کو دیکھنے نہیں دیتے۔ اگرچہ روح کی آنکھ جسم کی آنکھ پر غالب ہوتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا۔ اور بدن کے یہ حجابات چھٹ جائیں گے تو اس دن روح کی آنکھ بذابت خود مستقل حیثیت اختیار کرے گی۔ اور جسم کی آنکھ وہ روح کی آنکھ کے تالیع ہوگی۔ بات یہ ہے کہ آخرت میں زندگی کی جو بھی شکل ہوگی، وہ اس دُنیا ہی کی زندگی کا حاصل نیتیجہ ہوگی۔

چنانچہ روح کی آنکھ جو اس دُنیا میں بعض افراد کو عطا ہوتی ہے۔ اِس لفظ کی آنکھ میں اور وہ آنکھ جو آخرت میں عامہ مسلمین کو میسر ہو گی کوئی فرق نہیں۔ البتہ عامہ مسلمین کو اس زندگی کے بعد حجایات پدن اُمارتے پر اسی روح کی اس آنکھ سے بہرہ یاب ہونے کا موقعہ ملتا ہے۔ لیکن بعض متاز افراد کو اس دُنیا کی زندگی ہی میں یہ آنکھ میسر ہو جاتی ہے ۔

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قرآن کی ہر آیت اور سہی صدیقہ کی بھی فتح کرنے بھر تو اج ہے اسرارِ درموز کا۔ اور اگر میں ان میں سے ایک کی بھی فتح کرنے بھی ہوں تو جلدیں کی جلدیں تکمیل ہائیں۔ اور پھر بھی اُس کا حق ادا نہ ہو۔ نیز میں نے دیکھا کہ قرآن اور سنت کے اشارات میں بڑے بڑے پوشیدہ اسرار ہیں، اور مجھے یہ معلوم کر کے بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بعد میرے لئے اللہ تعالیٰ کی تدلی عظم ظاہر ہوئی تو میں نے اُسے بے کنار اور غیر متناہی پایا۔ اور اُس وقت میں نے اپنے نفس کو بھی غیر متناہی پایا اور میں نے دیکھا کہ میں گویا ایک غیر متناہی ہوں، ابودمرے غیر متناہی کے مقابل ہے۔ اور اسی اُس غیر متناہی کو اپنے اندر نگل کیا ہوں۔ اور میں نے اُس غیر متناہی میں سے کچھ باتیں پھورا۔ اسکے بعد جو میں نے اپنے نفس کی طرف رجوع کیا تو کچھ دیر تک میں اپنے نفس کی اس عطرت اور دعوت کے حیرت میں رہا۔ لیکن پھر یہ حالت بھر سے چاتی رہی تو میں نے دیکھا کہ میں اور سے بھرا ہوا ہوں اور میرے اپر امیرے نیچے امیرے دایں اور میرے پائیں الغرض ہر طرف کے سے مجھ پر نقد کی بارش ہو رہی ہے بلکہ میں نے تو پیانٹک دیکھا کہ میرے دل سے میری آنکھوں سے میرے ہاتھ سے، میرے تمام احصار و جوارح سے دور چھٹے کی طرح اُبیں رہا ہے۔

چودھوال مشاہدہ

میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشائی صورت
میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اور اُس کی بجائے آپ کی روح
کی حقیقت اُن تمام نبامول سے جو اُس نے پہن رکھتے ہیں
تک کہ نہیں کے بعض اجزاء سے بھی منزہ اور مجرد ہو کر میرے
سامنے تجلی پذیر ہوئی۔ اُس وقت میں نے آپ کی روح کو اُسی
طرح پایا، جس طرح میں نے بعض اولین مسندین کی احوال حکم
دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد خود میری روح سے آپ کی روح
سے طنی جنی ایک مجرد صورت ظاہر ہوئی۔ اور اس وقت میں نے
اس تھرے جذب و شوق، اور رفتہ و یادی کا مشاہدہ کیا کہ زبان
اس کو بیان نہیں کر سکتی ۔

پندرہ صوالِ مشاہدہ

میں نے بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس سے کسب فیض کیا، تواریخ سے میرے نفس میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی۔ اور اس کی وجہ سے میں آپ کی دراثت کے ضمن میں تدّلی اعظم کے احسان مثالی مظہر سے جاملا جو کہ آپ کے ساتھ عالم مثال سے فائم ناسوت ہیکم منتقل ہوا تھا۔ چنانچہ میں اس مظہر سے متصل ہوا۔ اور اس سے کھل مل گیا! اور اس سے میں مخلوط ہو گیا۔ اُس وقت میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ تدّلی اعظم کے اس مثالی مظہر کے جو دو قلب ہیں، میں ان میں سے ایک قلب ہوں۔ اس مثالی مظہر کا ایک قلب زیادہ مکمل اور زیادہ عامہ ہے۔ اور یہ وجود خارجی سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس قلب سے دوسرے قلب کی نسبت ایسی ہے جیسے کہ فقہہ کا

ایک صاحب مذہب (مثلاً امام ابوحنیفہ رض) ہو۔ اور دوسرا گو فقہ میں اس صاحب مذہب کا تابع ہو، لیکن وہ نئے نئے فقہی مسائل کا استنباط کر سکے۔ تدبی عظم کے اس مثالی مظہر کا یہ دوسرا قالب وجود علمی سے قریب ہوتا ہے +

اس موقع پر میرا نام ”زکی“ اور ”تعاطِ علم کا آخری نقطہ“ رکھا گیا۔ اور نیز اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ جو شخص تدبی عظم کے اس مثالی مظہر سے متصل ہو جاتا ہے اور اس سے اس طرح کھل مل جاتا ہے یعنی یہ مثالی مظہر اس کے جو ہر روح میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے جیسے راہِ سلوک کے سلسلہ میں یادداشت کی نسبت سالک کے جو ہر نفس میں داخل ہو جاتی ہے تاکہ اس طرح بیداری کا وہ نقطہ جس کو لے کر انسان پیدا ہوتا ہے، وہ اُس کے اندر بیدار ہو جائے۔

الغرض جو شخص تدبی عظم کے اس مثالی مظہر کو اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے، اُس کے مقامات میں سے مجددیت، و صدیقت، قطبیت اور طریقت کی امامت ہے۔ اور اُس شخص کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اُس کے بعد بھی اُس کا نام یا قی رہتا ہے۔ یہ ایک عینی راز ہے کہ اسی چاہئے کہ اس میں خوب حوز کرد +

رسول حضور اُن شاہد

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کھڑا ہوں۔ اور
میں نے آپ کو سلام عرض کیا۔ اور بڑی عاجزی سے میں نے آپ کی
بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ اور اپنی روح کو آپ کی روح اقدس سے
منصل کر دیا۔ چنانچہ آپ کی روح اقدس سے ایک بھلی چمکی۔ اور میری
روح نے لمحہ بھر میں یا اس سے بھی کم مدت میں اس بھلی کو اپنی طرح
سے اپنے اندر جذب کر لیا۔ مجھے اس پر تجھب ہوئا کہ میری روح نے
کتنی جلدی اس بھلی کو جذب کر لیا ہے۔ اور یہ کس طرح اس بھلی
کی اصل، اس کی فرع، اور اس کے تمام اطراف پر آن واحد میں
بلکہ اس سے بھی کم مدت میں حادی ہو گئی ہے۔ یہ بھلی گویا بھلی کتنی
قدرت کے اُس سلسلہ دراز کی، جس میں کہ یہ تمام کا تمام عالم بندھا

ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تجھی آپ کی روح کے اصل جوہر میں داخل ہے۔ اور یہ سلسلہ دراز عبارت ہے مس تدبیر واحد سے جس کا کہ مبدأ ہے اول سے فیضان ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا عالم میں اُس کی تفصیل ہے۔ اور اس سلسلہ دراز کی فروع وہ تفصیل تدبیر میں ہیں، جن پر یہ سارا عالم قائم ہے۔ اُس وقت میں یہ سمجھا گا کہ یہی سلسلہ دراز اصل حقیقت ہے حقیقتِ محمدیہ کی۔ اور جو بھی قطب، محترم یا نبی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اُس سے کام کرتا ہے تو اُس کو اسی حقیقتِ محمدیہ سے حصہ ملتا ہے۔ باقی ان امور کو اللہ ہمدرج اانا ہے +

ستر حوال مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود پر نفس تفییں سلوک کے راستے پر چلا یا۔ اور اپنے مبارک ہاتھوں سے میری تربیت فراہی۔ چنانچہ میں آپ کا ایسے اور برابر راست آپ کا شاگرد ہوں۔ اور اس معاملے میں میرے اور آپ کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی روح اقدس کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور اس سے ملے حضرت ادیس قرقی کے متعلق یہ مشورہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن آپ سے ملن نہ سکے۔ اور اس کے باوجود آپ کے خوبصورت روحانی سے مستقید ہوتے۔ وہ لوگ جو کسی شیخ سے ملے بغیر اُس کی روح سے تبیین حاصل کریں۔ وہ ادیسی کہلاتے ہیں۔ (مترجم)

میرا تعارف کرایا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ فیض پانے سے پہلے خود
فیض کرنے والے کی ذات کو جانتا ضروری ہے۔ اسی ضمن میں
مجھے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو محبت
تک کو بھی خوب جانتی ہے۔ اس کے بعد میرے سلوک کا سلسلہ شروع
ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے مجھ پر ذات حق کی
تجھیات میں سے ایک تجھی کا فیضان فرمایا۔ اور یہ وہی تجھی تھی
جو آپ کے وجودِ اقدس کے ساتھ ساتھ مثالی مظہر میں ظہور پذیر
ہوئی۔ چنانچہ میں نے اس تجھی کو اپنی روح کے جوہر میں لے لیا۔
اور میں اس میں محو ہو گیا۔ اور مجھے اس کے اندر درجہ فنا حاصل
ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس تجھی کے ساتھ پھر آپنے وجود میں
آگیا۔ اور اس طرح میں اس تجھی میں فنا ہونے کے بعد مقامِ بقا
سے سرفراز ہوا ہے۔

دوسری بار آپ نے مجھ پر ایک اُدْر تجھی کا فیضان فرمایا۔
اور یہ تجھی اصل تھی اُد پر ذکر شدہ مثالی مظہر کی۔ اور اسکی حقیقت
گویا ایک لفظ کی ہے جو اس دُنیا میں ذات حق کے تمام کاموں اور
اس کی تمام تدبیروں کی اصل ہے۔ میں نے اس تجھی کو بھی پہلی
تجھی کی طرح اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور میں اس میں فنا ہو گیا۔
اور اس میں فنا ہونے کے بعد میں نے پھر مقامِ بقا حاصل کر لیا۔
آپ نے تیسرا بار ایک اُدْر تجھی کا مجھ پر فیضان فرمایا۔ اور

یہ تجھی عبارت لہتی نقطہ ذات سے جس کے ساتھ جبروت کا رنگ بھی ملا ہوا تھا۔ میں نے اس تجھی کو بھی جذب کر لیا۔ اور میں نے اس میں بھی فنا ہو کر بقا حاصل کر لی۔ پھر جو ختنی بار مجھ پر ایک اور فیضان ہٹا اور یہ فیضان ایک نقطے کا بھتا جو روحاںیات میں مستقر ہے۔ اور اسی سے "امدرج النہایہ فی البرایہ" حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اُسے بھی قبول کر لیا۔ اور اس میں بھی میں نے فنا اور بقا کا مقام حاصل کیا۔ پاپخوں بار آپ نے مجھے لشمنہ کے احوال دکوالف میں سے ایک ایسے نقطے سے متعارف کرایا جو اس نقطہ کے مقابل ہے جس کا کہ ذکر الجھی ہوا ہے۔ اور لشمنہ کا یہ نقطہ گویا اس نقطہ روحاںیت کا بالکل عین ہے۔ اس ضمن میں مجھے معلوم ہوا کہ جو شخص لشمنے کے اس نقطہ کو حاصل کرے، وہ اپنے شاگرد پر بڑی تائیرڈال سکتا ہے۔ اور یہ نقطہ عزم اور جرأت سے بہت مشابہ ہے۔ عزم اور جرأت نے میری مراد کسی چیز کا عزم کرنے یا کسی کے خلاف جرأت کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس سے میرا مطلب فی نفسہ عزم و جرأت سے ہے۔ الغرض راہ سلوک میں میرے لئے ضعود اور ہبڑی کی یعنی اوپر جاتے اور پنجے اُترنے کی یہ ہم اس طرح تمام ہوئی۔ اور سلوک کا یہی وہ تختصر طریقہ ہے جو "جذب" سے بہت مناسب ہے۔ اور انہیاء علیهم السلام کے حال سے بھی بہت مشابہ ہے ।

لہ تفصیل کے لئے دیکھئے صفحہ ۶۰

اکھار صوال مشاہدہ

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توصیر سے سلوک میں اپنے طریقے کا ایک قالب مجھے عطا فرمایا۔ چنانچہ میں نے اس کا آپ کی زوج اقدس سے براہ راست استفادہ کیا۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھے عطا فرمائی تھی، اُس نے اُس چیز کی حقیقت سے بھی مجھے مطلع کیا۔ اور میں نے اُس چیز کو جہاں تک کہ اُس کے سمجھنے کا حق تھا، سمجھہ بھی لیا۔ اور اسی ضمن میں میں نے یہ بھی جان لیا کہ یہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے، یہ اُس حقیقت کا صرف قالب ہے، یہ خود بنفسہ دہ حقیقت ہیں، الغرض اس سلسلہ میں جو کچھ میں نے جانا ہے، اُس میں سے چند باتیں تم سے کہتا ہوں۔ داقعہ یہ ہے کہ تعریف تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پروگرام ہے۔

طریقہ سلوک کی حقیقت کا بیان — تمیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، ان میں سے جس پر چاہتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ یعنی اُس کو طریقہ سلوک سے نوازتا ہے، چنانچہ کتنے ہی عارف ہیں جو اس نکتہ کو صحیح طور پر سمجھنے سے عاجز رہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عارف کو لیے اذکار و افکار سے مطلع فرماتا ہے، جن کے ذریعے یہ عارف سلوک کی راہ طے کر کے فنا و بقا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اُس وقت یہ عارف یوں کہتے گلتا ہے کہ میرے رب نے مجھے سلوک کے طریقے سے سرفرازہ فرمایا۔ اور بے شک اس میں ہے اپنے خیال کے مطابق سچا ہوتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ طریقہ سلوک ان اذکار و افکار کا نام نہیں۔ بلکہ یہ عبارت ہے اُس حقیقت سے جو ملاد اعلیٰ میں مستقر ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سلوک کے اس طریقے کے متعلق ایک فیصلہ فرماتا ہے اور یہ فیصلہ دہل سے ملاد اعلیٰ میں نازل ہوتا ہے۔ اور دہل پر یہ جاگریں ہو جاتا ہے۔ پھر اس فیصلے کے مطابق عالم ناسوت میں حکم اُترتا ہے۔ باتِ اصل میں یہ ہے کہ ملاد اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہر ارادہ اور اُس کی ہر خواہش کے لئے جب تک کہ وہ دہل موجود ہے، اس عالم ناسوت میں اُس کا کوئی نہ کوئی منونہ یا اُس کا محل اور ظرف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس عالم میں کسی سلوک کا طریقہ منسون ہو جاتا ہے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ ملاد اعلیٰ میں اللہ کا جوارا دہ اس سلسلہ

میں قائم و مستقر رکھتا، اور جس کا لازمی نہیں بلکہ یہ طریقہ تھا، وہ ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تم کو لوگوں میں کہیں بھی اس طریقہ سلوک کا نمونہ یا اس کا محل اور ظرف نظر نہیں آئے گا۔ اب اگر تمام کے تمام اہل زمین جمع ہو جائیں، اور وہ چاہیں کہ وہ طریقہ سلوک جس کے مشتق ارادہ الہی ملاءِ اعلیٰ میں قائم ہے، اُس طریقے کا عالمِ ناسوت میں جو محافظت ہے، اور میری مُراد محافظت سے اُس ارادہِ الہی کے نمونے یا محل یا ظرف سے ہے، جس کا کہ ابھی ذکر ہوا ہے، اُس محافظت کو نابود کر دیں۔ اور اس سلسلہ میں وہ اس طریقے کے صحاب اور اُس کی حفاظت کرنے والوں کو بے دریغ قتل بھی کریں، لیکن جب تک اس طریقے کی اصل بنیاد یعنی اُس کے متعلق ارادہِ الہی جو ملاءِ اعلیٰ میں قائم و مستقر ہے برقرار ہے، یہ سب کے سب لوگ خواہ وہ کتنی بھی کوشش کریں، اس طریقے کو عالمِ ناسوت سے فاہیں کر سکتے۔ اور اس طرح اگر تمام کے تمام اہل زمین جمع ہو کر اس امر میں کوشش ہوں کہ جب ملاءِ اعلیٰ میں اس طریقہ سلوک کا تساہنہ موجود نہیں رہا، وہ اس زمانے میں اس طریقے کی کسی بھی کوششی کو خلیک کر دیں۔ یا اُس میں خوفناک پیدا ہو گئے ہیں، اُنکی اصلاح کریں، تو وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک تالاب یا حوض ہے، جس میں ستاروں کا عکس پڑ رہا ہے، اب جب تک کہ تالاب یا حوض میں پانی ہے۔ اور آسمان پر ستارے، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ وہ پانی میں ان ستاروں

کے عکس کو روک سکے ۔

الغرض سلوک کا یہ طریقہ درحقیقت وہ اذکار و افکار نیں ہیں، جو اس عالمہ ناسوت میں موجود ہوتے ہیں۔ بلکہ اس طریقے کی اصل وہ ارادۃ الہی ہے، جو ماءِ اعلیٰ میں قائم ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ خود کسی بندے کے حق میں فیصلہ فرماتا ہے تو پھر اس سے سلوک کا یہ طریقہ عطا ہوتا ہے، اب رہا اس طریقے کے متعلق ارادۃ الہی جو ماءِ اعلیٰ میں قائم ہے، اُس کی تشریح و توضیح اور اُس کے اجزاء اور اركان کا بیان نویہ سوائے اُس شخص کے جو بہت ہی ذہین ہو، کسی کے لئے ممکن نہیں، اور اس ضمن میں میرے رب نے جو کچھ مجھے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے آسمان سے ارادۃ الہی کے سلسلہ میں جو مدد نازل ہوتی ہے، وہ نقول، تو سطات اور لباس کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور دوسرے آسمان سے مدفن و مرتب قواعد چونکے جلتے ہیں اور پڑھے جلتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ تک ان کی روایت ہوتی ہے اور ان قواعد کو السالوں کے میئے اپنے اندر جگہ دیتے، اور کتابوں کے سفینے اُن سے اپنے صفحات پھرتے ہیں۔ تھیسرے آسمان سے ایک طبیعی زنگ کا فیضان ہوتا ہے۔ اور یہ زنگ طبیعت بن جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے طیار اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اس طبیعی زنگ کے لئے اُن کے اندر جوش اور ولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اُس کی حمایت کرتے ہیں، اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور اُس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے

بی محبت کرتے ہیں، جیسے اپنے اموال سے، اپنی اولاد سے، اور
عین جاں سے ۔

چونکہ آسمان سے غلے، قوت اور سخیر کا نزول ہوتا ہے ۔ اور
اس کی وجہ سے بڑے اور پھوٹے، علماء اور امراء سب کے سب اُس
سے سخیر ہو جاتے ہیں ۔ پابھویں آسمان سے سختی اور شدت نازل ہوتی
ہے، چنانچہ اُس سے جوانکار کرتا ہے، تم اُس کو مصیبوں میں گرفتار،
باؤں میں بستلا اور ملعون اور عذاب میں اسیر دیکھو گے۔ گویا خیب کی کوئی
قوت ہے جو اُس کی مدد کر رہی ہے۔ چونکہ آسمان سے اُس پر بڑی
پر عظمت ہدایت کا فیضان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص لوگوں کی
ہدایت کے لئے ایک واسطہ بن جاتا ہے ۔ اور مراتویں آسمان سے اُسے
ایک مستقل شرف عطا ہوتا ہے جو پتھر کے اندر کی اس لکیر کی طرح ہوتا
ہے کہ جب تک پتھر کے جوڑ جوڑ الگ نہ کئے جائیں ۔ اور اُس کے اجزاء
کو ٹکرائے ٹکرائے نہ کر دیا جائے، یہ لکیر اُس پتھر سے زائل ہئیں ہو سکتی ۔
یہ سات ارکان ہیں، جن کا ارادۃ الہی کے ضمن میں سات آسماؤں
سے اس طرح فیضان ہوتا ہے ۔ اور یہ سب کے سب ارکان ملائے ہوئے
میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ ان تمام کا دہل ایک جسم بن جاتا ہے۔
اور پھر اس جسم میں ہندی اعظم کی طرف سے "جذب" کی روح پھونکی
جاتی ہے، جو اس کے لئے دہنی ہیئت رکھتی ہے جو ایک انسانی جسم
میں روح کی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو شخص اس طریقہ سلوک کے اذکار و

افکار کا لباس پہن لیتا ہے۔ اور اُس کے حسن و جمال سے وہ آرائستہ و پیرائستہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اُس کو رحمت الٰہی ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اُس پر اُس کے اوپر سے، اُس کے نیچے سے، اُس کے دائیں سے اور اُس کے بائیں سے، اور دہان سے جہاں کا کہ اُسے سان گماں بھی نہیں ہوتا۔ "حذب" کا نزول ہوتا ہے، اور پھر ملائے علے کے اکابر راہ سلوک کے اس طفیل کی تربیت کرتے ہیں، اور ملائے ساقی و ایسے اُس کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس طرح سلوک کے اس طفیل کی حیثیت برابر مستقل ہوتی جاتی، اور اُس کی شان بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ساعت آتی ہے کہ اس کے متعلق اللہ کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔ الغرض اس طرح سلوک کا طریقہ معرض وجود میں آتا ہے ۷

سلوک کے طریقہ کی اس مثال پر تم اُن مذاہب کا بھی قیاس کرو، جو دین کے اصول و فروع کے سلسلہ میں بنتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے جو یہ دعوے کرتا ہے کہ اللہ نے اُسے سلوک کا کوئی طریقہ یا فقہ کا کوئی مذہب عطا فرمایا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اگر اس طرح ملائے علے کی طرف سے اُسے یہ طریقہ سلوک اور مذہب فقہ نہیں دیا گیا تو یقیناً وہ اس مسئلے کی جو اصل حقیقت ہے، اُس کو سمجھنے سے فا جز رہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہر شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سلوک کا طریقہ یا فقہ کا مذہب یوں ہی نہیں مل جایا کرتا۔ اللہ کے

ہاں اندر چھپ رہیں، اور نہ اُس کے ہاں کسی چیز میں گڑ بڑ ہوتی ہے۔
 چنانچہ یہ نعمت اُسی کو ملتی ہے، جو اپنی جلسہ سے مبارک اور پاک
 ہو، اور اُس کو سات آسمانوں سے، ملائعاً اعلیٰ سے اور ملاحدہ سافل سے
 مدد ملے۔ اور نیز وہ تبدیلی عظیم کی مخصوص رحمت سے بہرہ پاپ ہو۔ الغرض
 کتنے ہی عارف ہیں، جو بڑی معرفت والے اور مقام فنا میں بڑے
 پہنچے ہوئے اور مقام بغا کے کامل ہیں، لیکن چونکہ ان کی جلسہ مبارک
 اور پاک نہ تھی، اس لئے ان کو یہ نعمت عطا نہ ہوتی۔ اور پھر ہر شخص
 کا یہ منصب بھی نہیں ہوتا کہ وہ طریقہ سلوک کی حفاظت کر سکے۔ واقعہ
 یہ ہے کہ ہر کام کے لئے ایک آدمی ہوتا ہے، جو اُس کام کے لئے
 پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اُس میں اُس کام کو کرنے کی جملی استعداد ہوتی
 ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ سلوک کے طریقے کے ظہور کی کیا صورت ہوتی
 ہے، تو اس کے متعلق واضح ہو کہ یہ عام متعارف مظاہر سے الگ کسی
 دوسرے مظہر کی شکل اختیار کرنا ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے
 کہ اس کی وجہ سے اشیاء اور افعال میں بڑی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔

آنپرسوال مشاہدہ

✓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفی مذہب کے ایک بڑے اچھے طریقے سے مجھے آگاہ فرمایا۔ اور حنفی مذہب کا یہ طریقہ اُن مشہور احادیث سے جو امام بخاری اور اُن کے صحابہ کے زمانے میں جمع کی گئیں، اور اُن کی اُس زمانے میں چنانچہ پر طمائل بھی ہوتی موافق تریں ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ امام ابو حیینہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال میں سے وہ قول لیا جاتے جو مشکلہ زیر بحث ہیں مشہور احادیث سے صب سے زیادہ قریب ہو۔ اور پھر اُن فقرتائے احادیث کے قتاولے کی پیروی کی جائے، جو علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں، چنانچہ ہفت سی ایسی چیزوں ہیں کہ امام ابو حیینہ اور اُن کے دو ذریں مباحثی جمال تک کہ اُن چیزوں کے اصول کا تعلق تھا، وہ

اس معاملے میں غاموش رہے اور انہوں نے اُن کے بالے میں
مانعث کا کوئی حکم نہیں دیا۔ لیکن، میں ایسی احادیث ملتی ہیں، جن
میں ان چیزوں کا ذکر ہے: اسی حالت میں ان چیزوں کا اثاث نظاہر
ہے لاذعی اور ضروری ہوتا ہے۔ حال اور احکام میں اسی روشن
کو اختیار کرنا بھی مذہبِ ختنی میں داخل ہے۔

پیغمبر اکرم مسیح ام

صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے منبر کے بیچ کا قطعہ زمین جنت کے باعینچوں میں سے ایک باعینچہ ہے۔ جہاں تک اس واقعہ کی اصل حقیقت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب انوار سے برتر و فائق نور اس مقام پر دیکھے ہیں اور شیرہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص وہاں نماز پڑھتا ہے، وہ نور کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، خواہ وہ اُس طرف منتظر ہی کیوں نہ ہو۔ باقی رہائیہ سوال کہ یہ ہوتا کیسے ہے، بہ سواس کی تفضیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص اشتر تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اُس کے جوہر روح میں تدلیٰ علم کا وہ مثالی مظہر اور وہ نقطہ تدبیر جس کا کہ ذکر کراو پر ہو چکا ہے، وہ داخل ہو جاتے، تو وہ شخص ذات حق کا مشکوپ نظر

اور ملائے کا چاہیتا بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ شخص کسی جگہ اُترتا ہے، تو اُس جگہ کے ساتھ ملائے کی ہتھیں والستہ ہو جاتی ہیں۔ اور اُس طرف فرشتے فوج در فوج اور انوار موجود در موجود پکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر اُس محبوب شخص کی ہمت اُس جگہ سے خصوصی تعلق رکھتی ہو تو پھر اُس مقام کی تاثیر کا کیا کہنا ہے۔

اور نیز بات یہ ہے کہ ایک عارف جو معرفت اور حال میں کامل ہوتا ہے، اُس کی ہمت میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ذات حق کی نظر ہنایت کا مرکز بن جاتی ہے۔ چنانچہ اُس کی اس ہمت کا اثر اُس عارف کے اہل و عیال پر، اُس کے مال پر، اُس کے مکان پر، اُس کی نسل پر، اُس کے نسب پر، اور اُس کے قرابت داروں اور ساتھیوں پر پڑتا ہے۔ اور اس ہمت کے ضمن میں مال اور جاہ کی قبیل کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ کامل ران کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کاموں کے آثار کیلات دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

اکیسوال مشاہدہ

علمائے حربن نے بعض صوفیاء پر اعتراضات کئے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعتراضات کا جواب لکھنے کی حوصلہ چاہی۔ لیکن آپ نے اس کی اجازت نہ دی۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ علماء جو صوفیاء پر معرض ہیں، ان کا جتنا بھی مبلغ علم ہے، وہ اُسی کے مطابق مصروفِ عمل ہیں۔ اور وہ اپنی بساط کے مطابق کسی نہ کسی جمیعت سے لوگوں کے دلوں کے تصفیہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور علم اور دین کی اشاعت میں سرگرم کار ہیں۔ اس لئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب، ان کے ہاں زیادہ محترم اور ان کی نظر وہ میں زیادہ محبوب ہیں، بہ نسبت ان صوفیاء کے جو ارباب "فنا و بقا" ہیں، اور "جدب" جو نفس ناطقہ کی اصل سے

پھوٹا ہے، اور "توحید" اور اسی طرح کے تصوف کے جو اور بند مقامات ہیں، ان پر سرفراز ہیں +

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قرب الٰہی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آئے تو قرب الٰہی کا یہ طریقہ بھی بندوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ قرب الٰہی کے اس طریقے میں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے پیش نظر طاعات و عبادات کے ذریعہ اعضا و جوانح کی۔ اور ذکر و ترکیہ اور اللہ اور اُس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعہ قوائے نفس کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ عام لوگوں کی تہذیب و اصلاح کے لئے علوم کی نشر و اشتاعت، نیک کاموں کا حکم دینا، بُرائیوں سے روکنا، اور ایسے کاموں میں کوشش ہونا جن سے سب النازوں کو عام طور پر فائدہ پہنچے، اور اسی قبیل کے دوسرا سے کام جو اوپر کے کاموں سے ملتے جلتے ہوں، یہ سب کے سب قرب الٰہی کے اسی طریقے میں داخل ہیں +

قرب الٰہی کا دوسرا طریقہ اللہ اور بندے کے براہ راست اتصال کا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کیسی بھی پیدا ہو، وہ اس طریقہ کو پالتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اُس پر فہیمان کرے، وہ اُس سے مستفید ہوتا ہے۔ قرب الٰہی کے اس طریقے میں واسطہ سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ چنانچہ جو شخص اس طریقہ پر چلتا ہے، اُس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سچے پہنچے اپنے "انا" کی حقیقت کو بیدار گرتا

ہے۔ اور اپنے "ما" ہی کی بیداری کے صحن میں اُسکو ذاتِ حق کا تنہیہ اور شور حاصل ہوتا ہے اور اس سلسلہ کے یہ "فنا و بقا" اور "جذب" اور "توحید" وغیرہ مقاماتِ لصوف ہیں۔ قرب الہی کے اس دوسرے طریقے کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ طریقہ نہ تو عالی منزلت تھا اور نہ آپ کو یہ مرغوب ہی تھا۔ ایک نہ اُن تو قرب الہی کے پہلے طریقے کا عنوان تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کو اپنی اس عبادت کا مرکز بنایا تھا کہ آپ کے ذریعہ قرب الہی کے پہلے طریقے کا فرض عام طور پر پھیلے۔ اور آپ اُس کے ظہور کا باعث بنتیں ۔

میاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونو طریقوں میں تفوق دبرتری کس کو حاصل ہے؟ بات دراصل یہ ہے اگر تم دو چیزوں کو ایک اعتبار سے دیکھیں تو ان میں تفوق ہو گا، اور انہی چیزوں کو اگر کسی دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، تو ان میں تفوق نہیں ہو گا۔ اب اگر تم چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھو کہ وہ کس طرح وجود کے اندر ہیں۔ اور اس وجود کی خصوصیت یہ ہے کہ اُس نے تمام چیزوں کا ہر جیت سے احاطہ کر لیا ہے، الغرض اگر تم چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھو گے۔ تو یہ شک تھیں ان میں ایک دوسرے پر فائق ہونے کے اسباب اور وجہ مل جائیں گے۔ اور اس بنا پر تم ایک چیز کو دوسرا پر فوکیت بھی دے سکتے ہو۔ اور اس حالت میں ان میں آپس میں ایک دوسرے سے تفوق کے معاملہ میں مقابلہ بھی ہی رہے گا لیکن اگر تم ان چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھو کہ یہ سب ایک ہی سبب سے متعلق ہیں۔ تو پھر ایک اعتبار سے تو ان میں کوئی وجہ تفوق نہیں ہو گی

البته دوسرے انتبار سے ان میں یہ تفویق ممکن ہوگا۔ اور اس طرح ایک
چیز فائق اور افضل ہوگی، اور دوسری بالکل عدیم الفضل +
الغرض جب یہ نورِ عالمِ ناسوت کی طرف منتقل ہوا تو سالکوں نے
قربِ الہی کے ان دونوں طریقوں سے استفادہ کیا۔ جو اہلِ حذب "تھے،
اُن کو تو اس نور سے ایک محیل سی باطنی بیداری حاصل ہو گئی، اور اسی
سے اُن پر معارف کا امکناں ہوتا۔ اور بھی وجہ ہے کہ تم عارفوں کو دیکھتے
ہو کہ اُن کے لئے کتاب و سنت سے معارف کی کرنی پڑھتی ہیں۔ اور جو
اہل سلوک ہیں اُن پر اس نور کی طرف پُرسے سوز و گداز سے رجوع کرتے
اُس کے اندر گم ہوتے اور پھر اس نور میں بقا حاصل کرنے کے ذریعہ یہ
معارف منتشر ہوتے ہیں۔ لیں اب تک اس میں خود فکر کرو۔ واقعہ یہ
ہے کہ یہ مسئلہ بڑا و قیق ہے +

بائیسوال مشاہدہ

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس اعتبار سے افضل ہیں، باوجود اس کے کہ حضرت علیؓ اس امت کے پہلے صوفی، پہلے مجدد اور پہلے غارف ہیں۔ اور یہ کمالات سوائے آپ کی ذات میں اور کسی میں نہیں ہیں، اور اگر تھوڑے سے کسی میں ہیں بھی تو وہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیلی کی جیثیت سے۔ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے یہ سوال پیش کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے نزدیک فضیلت مکمل کا مدار امورِ ثبوت پر ہے۔ جیسے کہ جمیل کی اشاعت لوگوں کو دین کا مطیع و فرمابندار بنانا، اور اسی طرح کے اور امورِ جو ثبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ فضیلت جس کا منبع دلایت یعنی "حدب" اور "فنا" ہے، یہ تو ایک جزوی فضیلت ہے۔ اور ایک اعتباً

سے یہ فضیلت کم درجیہ کی بھی ہے ۔

اس صحن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن حذیفہ رضی اللہ عنہما کا تو پہلے حال تھا کہ وہ سرتاپا اُمورِ ثبوت کے لئے وقت ہو گئے تھے۔ اور یہیں نے ان دونوں کو اپنے مشاہدہ باطنی میں یوں دیکھا کہ فوارہ کی طرح ان سے پانی اُبیل رہا ہے۔ الغرض خدا تعالیٰ کی وہ عنایت جس کا مرکز دو صنوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، وہ بعدیہ ان دونوں بزرگوں کے وجودِ گرامی میں صورت پذیر ہوئی، اور یہ دونوں کے دونوں اپنے اس کمال کی وجہ سے بمنزلہ اُس عرض کے ہیں کہ جس کا جوہر کے بغیر قیام ممکن نہیں ہوتا۔ اور جوہر کے لئے اُس کا ہونا وجہہ تکمیل ہوتا ہے، اور گو حضرت علیؓ نسب کے اعتبار سے اور نیزاں اپنی جبلت اور محبوب فطرت کے لحاظ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر سے زیادہ آپؐ سے قریب تھے۔ اور "حدب" میں بھی قوی تر اور "صرفت" میں بھی بلند تر تھے، لیکن اس کے باوجود بُنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصبِ ثبوت کے کمال کے پیش نظر حضرت علیؓ سے زیارہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت خرڑا کی طرف مائل تھے۔ اور اسی بنابرہم دیکھتے ہیں کہ وہ علماء جو معارفِ ثبوت کے حامل ہیں، وہ شروع سے حضرت علیؓ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن حذیفہ کو فضیلت دینے پلے آئے ہیں۔ اور جو علماء معارفِ ولایت کے حامل ہیں، وہ حضرت علیؓ کو افضل مانتے ہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ دونوں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں مدفون ہیں ۔

بات درصل یہ ہے کہ بہت سے روزمرہ کے واقعات بظاہر معمولی ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کا ایک معنوی اساس ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح اپنی قبر کے ارد گرد جبرے کے ہونے کا واقعہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ آپؐ کی قبر تک ہنس جاسکتے۔ چنانچہ جبرے کا آپؐ کی قبر کے گرد ہونا سبب بن گیا ہے آپؐ کے اس قول کی صداقت کا کہ ”لے اللہ! میری قبر کو صنم نہ بنانا، تاکہ کیس لوگ مجھے چھوڑ کر میری قبر کو نہ پوچھنے لیں“ +

حرال

تھیسوال مشاہدہ

میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نظر ہے۔ اور گویا بھی وہ نظر ہے جو حاصل مقصود ہے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا، کہ "اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا۔" پیر معلوم کر کے میرے دل میں اس نظر کے لئے ٹراشنايق پیدا ہوا۔ اور مجھے اس نظر سے محبت ہو گئی۔ چنانچہ اس سے یہ ہوتا کہ میں آپ کی ذات اقدس سے متصل ہوا۔ اور آپ کا اس طرح سے طینی بن گیا جیسے جو ہر کا عرض طینی ہوتا ہے۔ غرضیکہ میں اس نظر کی طرف متوجہ ہوا۔ اور میں نے اس کی حقیقت معلوم کرنی چاہی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں خود اس نظر کا محل توجہ اور مرکز بن گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نظر خاص اس کے ارادہ

ظہور سے عبارت ہے۔ اور اس سلسلہ میں ہوتا ہے کہ اشد تعالیٰ
جب کسی شان کو خالہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اُس شان کو پیدا
کرتا اور اس پر اپنی نظر دالتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک فرد و احمد کی شان نہیں۔ بلکہ آپ کی شان
عبارت ہے کہ ایک عامم پیدا تھے ظہور سے جو تاہم بنی نوع انسان کے
قول پر پھیلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بنی نوع انسان کی حیثیت ایک
اور مبداء تھے ظہور کی ہے جو تمام موجودات پر حادی ہے۔ اس سے
خواست ہوا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کل موجودات کی غایت الغایات اور ظہور
وجود کے نقاط کا آخری نقطہ ہیں۔ چنانچہ سمندر کی ہر موج کی حرکت
اسی لئے ہے کہ آپ تک پہنچے۔ اور ہر سیلان کو بھی شوق سمايا ہوا ہے
کہ آپ تک اُس کی رسائی ہو۔ لہیں چاہئے کہ اس مسئلہ میں خوب عنز
و تذیر کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا ہی دقيق ہے +

لہ سورہ ارجمن میں ہے: علی یومِ موْقی شان، یہاں شان کا اشارہ
انہی طرف ہے۔ (مترجم)

چو پیسوں مہینے ہو

میں نے معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان سے تو سل علامتے حدیث، اور جو لوگ کہ ان کے زمرے میں ہیں، ان کے لئے ہے۔ اور نیز یہ کہ علم حدیث اور اس کی حفاظت لوگوں کے لئے ایک مضبوط سمارا اور لمبی رہی ہے، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ تمیں چاہئے کہ محدث ہنو۔ اور اگر محدث نہیں بن سکتے تو کسی محدث کے طبقی ہیں جاؤ۔ میرے نزدیک ان دونوں کے موافقی چیزیں خیر تھیں۔ باقی اللہ بستر جانا ہے۔

چھپیسوال مشاہدہ

عارف جب کمال کو پہنچتا ہے تو اُس کی روح ملائے اعلیٰ سے
جائتی ہے۔ ملائے اعلیٰ بیس ایک بلند اور عالی مرتبہ بارگاہ ہے جہاں
کامل عارفوں کی ہمتیں تو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اُس تک ان کے بدن
نہیں پہنچ پاتے۔ اس ہمنہیں ان کاموں کی تمام کی تمام ہمتیں ایک
آدمی کی ہمت کی طرح صرف ایک ہی ندیہ پر مخضر ہوتی ہیں۔ گوتفصیلت
میں ان میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ الغرض ملائے اعلیٰ کی اس
بلند اور عالی مرتبہ بارگاہ میں جب ان کاموں کی ہمتیں پہنچتی ہیں تو
اُس مقام پر اللہ تعالیٰ کی ندی ہوتی ہے۔ اور یہ ندی اپنے لوز سے
کاموں کی ان ہمتوں کو پوری طرح سے ڈھانک لیتی ہے، چنانچہ
آن کی ہمتیں ان الزار کی روشنی میں چھپ جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ نہ تو

اُن ہمتوں اور انوار میں دہل فرق کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اور نہ ان ہمتوں میں باہم ایک دوسرے میں تیزی کی جاسکتی ہے ۔ اب اگر یہیں ان کاملوں کی اس حالت کو واضح کرنے کے لئے کوئی مثال دوں تو یہ نہ ہو کہ تم مجھے اس مثال کی تفصیلات میں ہرشید فراز میں کھینچ کھینچ لئے پھر وسا آخر مثالیں تو چیزوں کی کسی ایک ہی اختیار سے وضاحت کرتی ہیں۔ الغرض ان کاملوں کی ہمتوں کو اُس "ہیولی" کی طرح سمجھئے جو ہر شے میں پوشیدہ ہے۔ اور جس کا ادراک ہم صرف ان احکام دائرہ ہی سے کر سکتے ہیں، جو شے موجود سے "ہیولی" کے مسامات کے ذریعہ چو حقیقت میں اصل بنیاد بے اُس شے کی استعدادوں اور قابلیتوں کی، ظاہر ہوتے ہیں، اور تمدنی الٰہی کا وہ نور جو ان ہمتوں کو اس طرح دھانے لیتا ہے کہ اُس کے اندر یہ ہمتوں بے نشان ہو جاتی ہیں۔ اس نور کی مثال "ہیولی" کے مقابلے میں "صورت" کی سمجھئے، کہ جب ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہو ہمارے ادراک میں آتی ہے وہ یہی "صورت" ہوتی ہے۔ اور جس طرح ایک شے کی استعدادوں اور قابلیتوں کی اصل "ہیولی" ہے، اسی طرح یہ "صورت" اُس شے کی فعلیات کی اصل ہے ۔

الغرض ملاد اعلیٰ کا یہ مقام بلند جہاں کہ کاملوں کی ہمتوں کو تمدنی الٰہی کا نور رضاہنپ لیتا، اور اُن کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ملاد اعلیٰ کے علوم میں سے احکام و اثمار کا نزول ہوتا ہے۔

اور جہاں اُن کی تفصیلی ہمیں اُن کے لئے نطیف ہو جاتی ہیں۔ اور انکی
رجلہ اور ترقی کر جاتی ہے۔ اور پھر اُن کی مہتوں کے مسامات سے حیرت انقدر
میں ایک کیفیت ظاہر ہوتی ہے، جس پر نورِ یورش کرتا ہے۔ اور یہ اس
کیفیت کو اُس حالت میں نہیں رہنے دیتا، جس میں کہ وہ پہلے تھی۔ بلکہ
وہ اُس کو اپنے خواہر سے قریب کر دیتا ہے۔ اور اس طرح بارگاہِ مقدسہ
کے حالات میں تبدیلیاں واضح ہوتی ہیں۔ چنانچہ کبھی دہلی رضنا کی حالت
ہوتی ہے اور کبھی غصب کی، اور کبھی ہنسی اور بشاشت کی۔ اور کبھی غصہ
داعرض کی۔ اور بعض اوقات کسی چیز کے ممکن ہونے کی حالت ہوتی ہے۔
اور بعض اوقات اُس کے محل ہونے کی، اور کبھی کسی چیز کو واجب کیا جانا
ہے۔ اور کبھی کوئی چیز حرام قرار پاتی ہے۔ اور کبھی پہلے کے حکم کو منسوخ
قرار دیا جانا ہے۔ الغرض یہ اور اسی قبیل کے بعض اور حالات بارگاہِ مقدسہ
میں ردِ نما ہوتے رہتے ہیں۔ اب جو شخص اس بارگاہِ مقدسہ اور اس کے
حالات ذکوالفت، اُس کے انشراح و بسطہ، اس کی عزمیت اور ہر روز
اس کی نئی شان کا مشاہدہ کرے تو اُس کے لئے قرآن مجید کی آیات
مشتابقات محدثات بن جاتی ہیں۔

ذکرِ یعنی بالاشکال ۲۰ شکال سیبہ

”یعنی اُس کے لئے اُن شکلوں میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا“
اور جو شخص اس بارگاہِ مقدسہ کے مشاہدہ سے محروم رہ تو اُس کے
لئے مناسب بھی ہے کہ وہ ان سب امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔

اور اجتماعی طور پر وہ ان سب پر ایمان لے آئے۔ جب کہ تم نے یہ سب کچھ جان لیا، اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بارگاہ مقدسہ قبلہ ہے ملائے اعلیٰ کی ہستوں کا اور مرکز ہے اُن کی توجہ کا۔ اور موجود ہے اُنکی پشتاں پر کام۔ پس جو شخص اس مبلغ کمال تک پہنچ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اپنے علم میں اُس کے لئے یہ تقدیر کر رکھا تھا کہ اُسے وہاں مقام فنا و بقا حاصل ہو۔ تو بسا اوقات اپنا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس مقام میں گمراہ ہو جائے۔ اور یہاں اُس کی رُدِّح اُس کے جسم کی منتظر نہیں رہتی۔ بلکہ یہی بارگاہ مقدسہ اُس کی منتظر بن جاتی ہے۔ اور یہی اُس کی مرشد اور اس کو الہام کرنے والی ہوئی ہے ہے ۔

میں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا۔ گویا کہ میں اُن کا طفیل بن گیا۔ چنانچہ مجھے ایک چیلکتا ہٹوا پیالہ عطا ہٹوا۔ میں تمہیں اس پیالے کی کیفیت کیا بتاؤ۔ وہ جو کچھ رکھا، رکھا ہیں اس لمحت پر اشد تعلیم کی تعریف کرتا ہوں ۔

اس بارگاہ کے برابر میں ایک اونہ مقام بھی ہے جو اس سے کم مرتبہ ہے اور یہ طاری سائل کی ترقی کا منہما، اُن کے امور کا مرکز، اُن کے الہام کا موضع، اُن کے فیصلوں کی عدالت، اور اُن کی توجہ کا نصف العین ہے۔ یہ مقام اُس بارگاہ مقدسہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اور اس مقام پر اشد تعلیم کی تدشی ہوتی ہے۔ اور اس تدشی ہی کی وجہ سے۔ ذات حق کی طرف ان امور کی سبتوں کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے،

و بعض معاملات میں اپنے بندوں کی رضامندی پر چلتا ہے ، وغیرہ
وغیرہ +

فرض بارگاہ مقدسہ اور یہ مقام جو ملاد سافل کا مقصد و منتها ہے
درجن ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان کی معرفت اس قدر دشمن اور
عام عقول ان سے حمدہ پر آئیں ہو سکتیں ۔ باقی اللہ تعالیٰ تو
 توفیق دینے والا ہے ہی +

حافظ امیر طہبیب ۲۶-۱-۲۰۱۲ / ۷۱

چھپنے وال مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے مجھ پر معرفت الہی کے احوال کاملہ میں سے جن بہت سے علوم کا انکشاف ہوا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عارف دوسروں سے اس معاملہ میں ممتاز ہوتا ہے کہ اُس میں اجزاء نئی کا ظہور پڑا توی اور ان کا حکم بڑا موثر ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہی فلکی اجزاء ہیں جو ذریعہ بنتے ہیں اس عالم میں الہی تقدیموں کے قیام پذیر ہونے کا۔ اور پھر یہی الہی تعالیٰ اس فلکی اجزاء کے مقاصدوں معاونی کر بارگاہِ حق کے لئے مناسب بنا دیتے ہیں ।

ان علوم میں سے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے حاصل ہوئے ایک عدم یہ ہے کہ عارف جو معرفت الہی میں کامل ہوتا ہے۔ اُس کے لئے ضروری ہے کہ دنیا وی، جسمانی اور روحانی

علاوہ اس سے پوری طرح دُور ہوں۔ اور وہ اپنی کیفیات اور جذبات میں تروتازہ ہو اور اس عور و فکر نے کہ وجود باری موجودات میں کس طرح جاری و ساری ہے، اور مبدائے اول اپنے ارادۂ حیات میں عالم کے مظاہر حیات میں کیسے متوجہ ہوتا ہے، اس شخص کو اس عور و فکر نے فرسودہ نہ کر دیا ہو۔ اس ضمن میں مجھ پر یہ امر بھی آشکارا ہوا کہ یہ حقیقت جزوی معانی میں سے ہے جو نلک زحل کے مقابل ہے۔ چنانچہ جب اس شخص پر الٹی رنگ کا فیضان ہوتا ہے تو اس کا دُنیوی اُخزوی جسمانی اور روحانی علاقے سے منقطع ہونا "محبت ذاتی" کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور محبت ذاتی سے مُراد وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نقطہ ذات کی طرف سرتاپا متوجہ ہوتی ہے۔ اب اگر ایک عارف ہے کہ دُنیاوی، اُخزوی، جسمانی اور روحانی علاقے سے اس کی کنارہ کشی اور ہر چیز سے اس کے پوری طرح منقطع ہونے میں پوری طرح سدراہ ہیں مقام بغا اور موجودات میں تصرف حق اور مبدائے اول سے اس کے ارادۂ حب کا ظہور جو مبدائے اول کے شخص پذیری کے روزانہ سے ہوتا ہے، تو سعوہم ہونا چاہیئے کہ یہ عارف، عارف کامل ہیں۔ بلکہ عارف کامل وہ ہے کہ وہ ان سب علاقوں سے کلیتہ کنارہ کشی کو اپنے باطن میں اس طرح جگہ دیتا ہے کہ اس عالم کے مظاہر میں سے کسی منظر کی محبت بھی خواہ دہ منظر اس طرح ذات حق کے ساتھ قائم ہو کہ وہ عنوان ہو "محبت ذاتی" کا اور پہنچ ہو محبت ذاتی کی روح کا۔ اور غالب ہواں کی حقیقت کا۔ اس عارف کی کل علاقوں سے کنارہ کشی اور انقطاع کامل

کو کسی طرح ملوث نہیں کرتی چنانچہ یہ عارف ان مظاہر سے اپنی ذات کے لئے محبت نہیں کرتا بلکہ اُس کی ان مظاہر سے محبت ذات حق کے لئے اور نیز خلق کے خیال سے ہوتی ہے۔ اور پھر اسے ان مظاہر سے بحثیت مظاہر کے محبت نہیں ہوتی۔ بلکہ اُس کی محبت مختص ذات حق کے لئے ہوتی ہے۔ اور یہ مظاہر اُس میں م Hutchinson ایک واسطہ ہوتے ہیں ۷

مزید برآں ان علوم میں سے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت کی طفیل حاصل ہوئے، ایک علم یہ بھی ہے کہ ہر وہ عارف جو معرفت حق میں کامل ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی اختذلگتا ہے، صرف لپٹے ہی نقش سے اختذلگتا ہے۔ اب رسہ دہ ذراائع اور اسباب جو اُس کے اختذلگ علم کا باعث بنتے ہیں، تو انگلی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس عارف کے اندر پہلے سے اپک چیز موجود تھی، اور بعد میں اُس سے اس کے باعث میں بتایا گیا۔ اور اس طرح اُس چیز کی حقیقت اُس عارف پر منکشت ہو گئی۔ یعنی یہ چیز اُس کے ہال پہلے سے موجود تو نہیں، لیکن وہ اُس پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اب دہ اس پر ظاہر ہو جاتی ہے مگر کوئی عارف اختذلگ علم کے اس طریقہ کے سوا کسی اور طریقہ سے کسی اور سے علم اختذلگتا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کامل معرفت الٰہی میں کامل نہیں ۸

اور ان علوم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر وہ عارف جو معرفت الٰہی میں کامل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اُس کے اسماء اور اُسکی تدلیفات کے مساوا جو کچھ بھی ہے، ان سب کو مستخر کر لیتا ہے۔ اور یہ عمل

تسبیح رہا تو جبر و قبر سے ہوتا ہے۔ اور یہ چیز اُس عارف کامل کے لئے اُس کی اپنی کیفیت ظہور کی ایک ادنیٰ حالت اور ناقص قوت ہے۔ اور عارف کامل کی یہ کیفیت ظہور اُس کی جامعیت کو اپنے بآسانی سے ہوئے ہوتی ہے۔ اور یہ اُس کے معانی کے لئے حجاب بن جاتی رہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اُس عارف کی بھی قوت اور ملکی قوت میں آپس میں اختلاط ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں یا تو اُس عارف کی بھی قوت بھی قوی ہوتی ہے اور اُس کی ملکی قوت اور اپنے فریضیت ہوتی ہیں۔ یا ان میں سے ایک صورت کی بھی قوت ہوتی ہے اور اس کی ملکی قوت اس طرح کی ملکی قوت میں اختلاط عمل میں آتا ہے تو ظاہر ہے اُس سے مختلف قسم کے احکام و آثار ظاہر ہوں گے۔ اور اس کی وجہ سے عوام جو حامم طور پر لباس کر دیجتے ہیں، اور لباس کے اندر جو جامع شخصیت ہوتی ہے، اُس پر ان کی بگاہ نہیں پڑتی اور وہ ظاہری صورتوں کو دیجتے ہیں، یعنی صورتوں کے پیچے جو معانی ہوتے ہیں، ان تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، اس طرح کے عارفوں سے ان عوام میں انکار سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اُس کے اہم اور اس کی تعلیمات کے خلاصہ جو چیزیں ہیں، ان کی تسبیح کا دوسرا طریقہ جبر و قبر کی، بجاۓ تناسب اور ہم اسکی کہے۔ اور یہ طریقہ عارف کا اس کی کیفیت ظہور کی اس شق سے ہے جسے "لباسی" اور "بھالی" کہنا چاہئے، قوی تر اور موثر تر ہے۔ اس صورت

میں ہوتا یہ ہے کہ تناسب اور ہم آہنگی کی حقیقت خود عارف کے ایک جزو سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ جزو قائم مقام بن جاتا ہے اُس چیز کا جس کو مسخر کرنا مقصود ہوتا ہے، چنانچہ اس عارف اور اس کے اس جزو کے درمیان جو تفسیر طبیب چیز کا قائم مقام بن جاتا ہے، رگوں اور خاص طور پر "ناساریقا" رگ کا جال بچتا ہوا ہے تو وہ ان پوشیدہ رگوں کے ذریعہ سے جو اس جزو میں اور جس چیز کو کہ مسخر کرنا ہوتا ہے، پھیلی ہوتی ہیں، اُس چیز میں حرکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دو طریقے تو اشد تعالیٰ، اُس کے اسماء اور اس کی تدبیات کے مساواج و اور چیزیں ہیں، ان کو مسخر کرنے کے ہوتے۔ لیکن جماں تک اشد تعالیٰ کے اسماء اور اُس کی تدبیات کا تعاقب ہے، وہ نورِ ربوبیت کی رشی سے مسخر ہیں ہو سکتیں۔ مال اس ضمن میں ایک مقام "حُبٌ" ہے، جو کہ محبدیت کے مقابل ہے۔ چنانچہ جب محبدیت میں حرکت ہوتی ہے تو اس سے مقام حُبٌ بھی متھک ہو جاتا ہے۔ اور اس مقام حُبٌ کی حرکت سے اسم اور تمدنی دنو کو حرکت ہوتی ہے۔ اور یہ دلو مقام حُبٌ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی عارف ہے، جو اس دیسخ الاثر تفسیر کی قوت کو ہیں جانتا۔ اور وہ اُسے خود اپنے اندر پاتا ہے تو وہ عارف معرفت الہی میں کامل ہیں۔ اور

لئے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ناساریقا گئیں جگرے معدہ اور آنٹوں تک گئی ہیں مان کا کام قدماً یہ یونان کے خیال کے مطابق یہ ہے کہ معدہ اور آنٹوں سے کیلوس کو جگڑتک پینچاہیں کہ جگرا سے خون اور اخلاط پڑائے۔ (متترجم)

اسی سلسلہ میں بیس یہ بھی سمجھا ہوں کہ یہ دیسح اثر لشکر کی قوت عارف کامل کے اس جزو کے حوالوں میں سے ایک حقیقت ہے، جو مقابل ہوتی ہے سورج کے جیکب وہ الہی رنگ میں زنگا جاتا ہے۔ اور اس طرح لشکر کی یہ قوت جو پہنچ سے اُس عارف کے اندر موجود ہوتی ہے اپنا اثر دکھاتی ہے۔

ان فلسفہ میں سے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے حاصل ہوئے، ایک علم یہ ہے کہ عارف کامل کی ردح اس کے طریقہ تصریح، اُس کے مذہب، اُس کے سلسلہ، اُس کی نسبت اُس کی قرابت، اور پھر وہ چیز جو اُس کے قریب ہے، یا اُس کی طرف منسوب ہے، ان میں سے ہر ایک کے ہر ہر پلہ پر نظر رکھتی ہے۔ اور اُس پر پر اپر متوجہ رہتی ہے۔ اور عارف کامل کی ردح کی اس توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی مل ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب عارف کامل کا نفس جسم کی کدرتوں سے منزہ ہو کر ملادِ اعلیٰ سے متعلق ہو جاتا ہے تو وہاں اُس پر اللہ تعالیٰ اپنی تحمل فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ تحمل اُس عارف نے نفس میں ختنی استعداد ہوتی ہے، اُسی کے سلطائق نزول فرماتی ہے۔ ہم اس سلسلہ میں اس نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے پہلے کہیں "ہیولی" اور "صورت" کی مثال بھی دے چکے ہیں۔ غرضیکہ جب اللہ تعالیٰ کی پر تحمل عارف کامل

کے نفس پر نازل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے عارف کامل اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور اسکے نفس کے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اس طرح رنگے جانے، اور اس کے ساتھ امتزاج اور اخلاط کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لئے اس کی تدبیات میں سے ایک تبدیلی بن جاتا ہے چنانچہ اس حالت میں جب عارف کامل کا نفس ان چیزوں کی طرف جن کا کہ ابھی ذکر نہ ہوا ہے، توجہ کرتا ہے۔ تو اس کی یہ توجہ خود اس عارف کی طرف بارگاہ قدس کی توجہ اور التقىات کا باعث بن جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ بہتر اس عارف کے نفس کے اطراف داکنات میں اس کے تمام اجزاء میں، اور اس کی رنگوں اور اس کے پھونیں میں، اور اس کے تمام پہلوؤں میں متکن ہو جاتا ہے تو بعضیہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی اس عارف کے نفس کے ہر ہر جزو سے اخلاط پیدا کر لیتی ہے۔ اور اس طرح یہ عارف کامل اکسیر بن جاتا ہے، اور لوگ اس سے شفاق حاصل کرتے ہیں۔ میں نے جو اپنے نفس کے حصے، اس کی رنگیں اور اس کے پہنچنے گئے ہیں، تو اس سے قبیری مراد نفس کا اپنی تمام سہمت کو مرکز کئے بغیر بطور خادت کے یا بمحاط ایک غیر مستقل ملکہ کے متوجہ ہونا ہے۔ الفرض اس بہتر کے اختیار سے عارف کامل کی ذات کے بہت سے آثار و احکام ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں میں یہ بھی سمجھا ہوں کہ عارف کامل کے اس جزو کے معانی میں سے جو جزو کو زحل کے مقابل ہے، اور اس کے ساتھ مشتری بھی ملا ہوئے۔ اور نیز جب کہ اس میں الی رنگ سرتبا

کر جاتا ہے، ایک معنی یہ ہیں +

اور ان علوم میں سے جو بھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض
صحابت سے طے، ایک علم یہ ہے کہ عارف کامل کو ان تمام کی تمام نعمتوں سے
سر فراز کیا گیا ہے، جو نعمتوں کی ادائے تعالیٰ نے آسمانوں کو زمینوں کو، جہادات
نباتات، حیوانات اور انسانوں کو اور ان میں سے جو فرشتے، انبیاء، اولیاء اور
پادشاہ دعیزہ ہیں، ان سب کو عطا فرمائیں۔ اور عارف کی یہ خصوصیت اس
وجہ سے ہے کہ اس کا دباؤ و عبارت ہے ایسے اجزاء سے جن میں سے ہر جزو
ان موجودات میں سے کسی نہ کسی چیز کے مقابل ہے، چنانچہ اس طرح عارف
کامل ان تمام موجودات کا اجمالي اور جامع لستخہ بن جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس
عارف کامل کے ایک جزو کی تفصیل کرنے لگیں تو وجود عمومی کے یہ ب
منظہر سامنے آئیں گے۔ الغرض جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت عارف کامل
کو ملتی ہے تو درصلی اللہ تعالیٰ اس کے ان اجزاء میں سے ایک جزو ہوتا ہے
اس نعمت کا ذریحہ ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے +
یہ جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا، اس میں کسی رو رعایت یار و داری سے کام
نہیں بیا گیا بلکہ ایک حقیقت نفس الامری ہے جو ہم نے پیش کی۔ اس میں
شک نہیں کہ جب کوئی عارف سے مجرد اور منزہ ہوگر اس وجود کلی کا جو تمام
موجودات میں جاری و ساری ہے، ہو جاتا ہے تو یہ راست اس پر ظاہر ہو
جاتا ہے۔ لیکن جب وہ وجود کلی کے بجائے وجود کے جزوی مظاہر کی بیویو
میں گر جاتا ہے تو پھر اس سے یہ بہتر بھی رد پوش ہو جاتا ہے +

ستائیسوال مشاہدہ

میں اس امر کے انتظار میں تھا کہ وہ حدیث جس میں یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا رب مخلوقات کو میداکرنے سے پہلے کہاں تھا۔ اور آپ نے اُس کے بواب میں فرمایا تھا کہ وہ "عماو" میں تھا۔ اُس حدیث کے معنی معلوم کروں کہ مجھ پر اس راز کا فیضان ہوا۔ میں سے دیکھ کر "بعد ہیولانی" کی بلندیوں پر ایک عظیم انسان نور جلوہ نگن ہے۔ اور اس قدر نے اپنی شعاعوں کے ذریعہ جو تمام اطراف میں خطوں کی طرح پھیلتی چلی گئی ہیں، اس بعد کا پوری طرح بلحاظ اپنی تدبیر کے احاطہ کر لیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اللہ عماو میں تھا۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پچھا سمجھی یہ "بعد ہیولانی" "عماز" ہے اور توڑ

کی شاعوں کے ذریعہ اس بعد کا احاطہ کر لینا اشد تعالیٰ کے اس قول کا مصدق ہے کہ "هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ فَوْقَ عِبَادِكَ" جب مجھ پر یہ راز منکشف ہوا تو اس کی وجہ سے میرا دل طہانیت کی ٹھنڈگ سے بھر گیا۔ اور میں نے یوں محسوس کیا کہ نہ تو اپ میرے اندر کوئی شبہ باقی رہا اور نہ اس ضمن میں کوئی ایسا موال رہ گیا ہے، جو میں پوچھوں۔

اس کے بعد جب میں "مقام تفکر" میں آیا تو میں نے اس ستر کو اس طرح سمجھا کہ ذات حق خود اس امر کی مقاضی تھی کہ وہ استعدادوں جو اُس کے اندر مضمرا ہیں، ان کا ظہور عمل میں آئے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذات حق کا جو مرتبہ وجوب ہے "اُس مرتبے میں ذات حق کی ان استعدادوں کا عقلي ظہور ہوا۔ اور اس ظہور سے دہان اشیائی ممکنات کے "اعیان" اور ذات و اجنب کے ظہور کی ہر صورت اور اس کی تدبی کے ہر طبقے سینون" ممثل ہوئے۔ مرتبہ وجوب میں ذات حق کا تقاضہ یہ ہوا کہ وہ ان ظورات کو عدم، مادہ اور خارج سے منصفت کرے۔ چنانچہ اس ضمن میں اُس نے جو کچھ کہ اعیان اور اسماء کی پستائیوں میں مضمرا تھا، اُس سے ظاہر کر دیا۔ اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے جو چیز ظہور پذیر ہوئی، وہ اشد تعالیٰ کا نور تھا۔ اس نور نے عدم اور مادہ کا پوری طرح سے احاطہ کر لیا، اور اس پر یہ سلطان ہو گیا۔ اور یہ نور قائم مقام بن گیا ذات حق کا۔ اور یہ نور قدم الزمان ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک زمان مکان اور مادہ ایک ہی چیز ہے۔ اور یہی وہ استعداد ہے جس کو ہم نے عدم اور خارج کا نام دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے وہ ارادے جو ہر زمانے میں بدل ستے ہیں وہ اسی مقام و
موطن سے مخصوص ہیں۔ اور یہی وہ پہلی چیز ہے جس کے متعلق شریعتوں
کی زبانوں نے گفتگو کی ہے ۴

اپنے کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا اُس میں آپؐ سے صرف یہی پوچھا گیا تھا کہ
اللہ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا۔ ظاہر ہے اس کہاں کا
جواب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس وقت جو چیز خارج میں
موجود تھی وہ بتا دی جاتی۔ چنانچہ آپؐ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا
کہ اللہ عالموں میں تھا ۵

اٹھائیسوال مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے مجھے اس کیفیت کے علم کا فیضان ہوا کہ بندہ اپنے مقام سے ترقی کر کے کس طرح مقام قدس تک پہنچ جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس وقت ہر چیز بندے کے سامنے اس طرح متجلى ہو جاتی ہے جس طرح کہ خواب کے دوران میں معرج کے قصے میں چیزوں کو دیکھنے کی خبر دی گئی ہے۔ پھر اس اوقات یہاں ہوتا ہے کہ بندہ چیزوں کو اس طرح متجلى دیکھنے کے بعد اس ضمن میں جو واقعات اُس پر گزرتے ہیں اور اُن پر نظر والیں ڈالتا ہے۔ چنانچہ اُن میں سے جو واقعات الہامِ الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں وہ اُن کو جان لیتا ہے۔ اور جو کم دبیش اُس کی اپنی طبیعت کا تقاضہ یا شیطان کے وسوسے سے ہوتے ہیں، اُن کو بھی معلوم کر لیتا ہے۔ اور بعض وفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ

اس مقامِ قدس میں پہنچ کر انہوں کو جو ملائکے میں زیر بحث ہوتے
 ہیں، واضح ترین صورت میں دیکھ لیتا ہے۔ ملائکے کے یہ امور یا تو قرآنی
 کتاب میں جو علوم ہیں، ان کے متعلق ہوتے ہیں، یا جو واقعات کے دُنیا
 میں ہوتے والے ہوتے ہیں، ان کے بالے میں لوگوں کو فراہم کرنے اور آگاہ
 کرنے کا سوال ہوتا ہے۔ یا کسی امرِ حق کے سلسلہ میں لوگوں میں جو بحث مباہ
 ہونا ہوتا ہے، اس کا علم ان لوگوں کے ادراکات میں نازل کرنے کا معاملہ
 ملائکی میں درپیش ہوتا ہے۔ یا ایک خاص زمانے میں جو علوم مزدود
 ہوتے ہیں، ان کے متعلق جو عقدے ہوں، ان کو کھولنے کی تدبیر فرمی جائے
 ہوتی ہے۔ یا ملائکی ہمیتیں اور صورتیں یا ان کے مقامات، یا ان امور
 سے ملتی جلتی جو اور چیزیں ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ الفرض یہ ہے کہ مقامِ
 قدس میں پہنچ کر ان امور کو جو ملائکے میں زیر بحث ہوتے ہیں، واضح
 ترین صورت میں دیکھ لیتا ہے۔ اور ملائکی ہمیت کے یہی امور قرآن مجید کے
 علوم کا موضع ہیں →

میں نے جب اپنے آپ سے طبیعت کا باب اٹار دیا۔ اور اپنے
 ہلوفات، عادات اور حسوسات سے میں نے بھروسہ اختیار کر لیا۔ اور اس
 مقامِ قدس کے زندگی میں میں زندگا گیا۔ تو اس کے بعد میں نے ایک
 عظیم الشان حقیقت کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر مجھ سے سماں گیا کہ یہ مقامِ حق
 روئیت و مشاہدہ ہے۔ یہ کامنہ کا مقام نہیں۔ ہاں بعد میں جب ایجاد
 حق کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شردار کی طرف تدلی کرے۔ اور

تدی تدب کی صورت میں ہو، جو کہ ان پر نازل کی جائے۔ تو وہ اس مقام رُست
و مشاہدہ گا سے کو ایک نورانی اور رقیق بیاس پسندیدیا ہے۔ چنانچہ اس کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام رُست و مشاہدہ اس شخص کے لئے مقامِ کلام میں
تبدیل ہو جاتا ہے۔

بعد ازاں میں نے بندے کی ذمہ کیفیت بھی ملاحظہ کی جو اس کی مقام
قدس سے طبیعت اور عادت کا جو مقامِ سفل ہے، اُس کی طرف گئے کی
ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت بندے کی طبیعت کی آنکھ کھل جاتی
ہے۔ اور ملادِ علی کی آنکھ اُس کی طرف سے بند ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو
واقعات اُس پر مقامِ قدس میں گزرے ہوتے ہیں، وہ ان کے منتقل
محسوں کرتا ہے کہ ایک خیالِ حقاً جو اس کے دماغ میں آیا تھا۔ یادہ ان
کو اس طرح یاد کرتا ہے جیسے کوئی بھولی بسری چیز کو یاد کرے۔ اور اس
سلسلہ میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لذائذ اور اسباب کی تلاش میں
کسی ایسی چیز کو پالیتا ہے، جس سے وہ محرومِ حقاً یا اُس کے لئے وہ چیز
ناقابلِ دسترس بنتی ہے۔

بندے کا مقامِ قدس کی طرف ترقی کرنا اور پھر وہاں سے پانی طبیعت
کے مقامِ سفل کی طرف رجوع کرنا۔ یہ جو دو مقامات ہیں، ان کے درمیا
بندے کو بہت سے حالات سے گزنا پڑتا ہے۔ میں نے ان سب حالات
کو اپنے اس مشاہدہ میں دیکھا۔ چنانچہ ان میں سے بعض حالات ملادِ علی سے
قریب تر ہوتے ہیں اور بعض ملادِ سفل سے، اور ان حالات سے یہ دو قسمات

ظہور پذیر ہوتے ہیں جو میں اب بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو
ہلت کی آواز ہے۔ اور اسی طرح دل میں کسی خیال کا آجاتا، اور خواب میں کسی
چیز کو دیکھتا ہے۔ اور جهالت کا خواب کا معاملہ ہے، سچ یو جھٹے تو خواب دل
کی باتیں ہیں کہ جب انسان کی قوت و راکہ نیز کی حالت میں سب طرف
کش کر دل کی ان باتوں کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتی ہے، تو یہ باتیں
خیالات کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اور انسان اپنی خیالات کو خواب میں
ایسی آنکھوں سے دیکھتا اور اپنے کاذب سے مستقل ہے۔ اور ان خیالات میں سے
ایک خیال حق بھی ہے۔ جس سے کہ دماغ بھر جاتا ہے۔ اور اسی سلسلہ
میں سچی فرمست اور اسی قبیل کی اور چیزوں کی بھی ہیں، جو ان حالات میں پیدا
ہوتی ہیں۔ اور یہ سب چیزوں اُس مقام حجاب سے متعلق ہیں جو درمیان ہے،
اُس بارگاہ کے جہاں کوئی حجا پئیں۔ اور اس مقام کے جہاں ہر اعتبار سے
حجاب مصبوظ ہے۔ میں نے اپنے اس مشاہدہ میں ان میں سے ہر چیز کو
دیکھا۔ اور نیز میں نے ان میں سے ایک ایک چیز کا اُس کا اپنا اپنا مقام
اور محل دیکھا۔ جمالی کہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن اس مشاہدے میں
مجھے اتنی ہمیلت نہ ملی کہ میں ان سب چیزوں کے اندازوں اور ان کے محل
و قوع کا پوری طرح احاطہ کر لیتا۔ چنانچہ اس صحن میں میں نے صرف ان
چیزوں کے اصولوں ہی کے مشاہدہ پر استغایا۔ اُنمید ہے اللہ تعالیٰ ضرور
ہس امر کی توفیق دے گا کہ ہم پھر دوسری بار ان سب چیزوں کا پوری
طرح احاطہ کر سکیں۔ +

اسپرسوال مشاہدہ

عارف جب اُس مقام میں ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کے قریب ہے تو اس حالت میں وہ فعل حق کا اس طرح مشاہدہ نہیں کر سکتا جیسے کہ اُسے سکرنا چاہیئے۔ چنانچہ اپنے موقعہ پر اکثر عارف کو الہامات میں اور دل کے دھوکے میں، اور الہی کیفیت میں اور طبیعت کے اقتضا میں اشتمالہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نیز اس ضمن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہے اور اس کے متعلق عارف نہیں جانتا کہ اس کے پارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ وہ اس میں متزود ہوتا ہے۔ اور کچھ دیر تک وہ اسی تردود کی حالت میں رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ مقامِ حق کی طرف گھسنے جاتا ہے اور وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اُس کے سامنے ہر ایک چیز بتجلل ہو جاتی ہے۔ اب وہ امورِ جن کے متعلق پہلے اُسے شے تھے وہ ان امور

پر اور نیز اپنے شکوہ پر دوسرا بار نظر ڈالتا ہے، تو ان کے متعلق اللہ
کا جوازادہ اور نیصلہ ہوتا ہے وہ منکشت ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں
وہ گویا اللہ کے ارادے اور فیصلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اب
اگر وہ عارف "مکتم" ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرتا ہے، تو اس
حالت میں اُس سے کلام کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ مفہوم اور لقن، ہوتا ہوں کو
افہام و تفہیم اور تلقین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کی اطلاع
ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے متواترے شیئے سورہ "الفال" میں ایک
بعصیرت ہے۔ اس سورت کی شانِ نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے "الفال" یعنی ماں غنیمت کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے اس پاکے میں
اللہ کا جو فصلہ تھا، نہ تو اس کی کوئی صراحة فرمائی۔ اور نہ یہ بتایا کہ ملی
غنیمت کیسے تقسیم ہو۔ اس دوران میں معرکہ بد رہیش آ جاتا ہے۔ اور اس معرکہ
کی تفصیل یہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس لگنے آئے تھا کہ
اُس کے پارے میں اُن کو یہ خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ اس قافلہ کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی
حفاظت کے لئے قریش کی ایک فوج لکھتے ہیں تکل پڑتی ہے۔ ادھر اللہ
تعالیٰ اکی مصلحت کا یہ تھا کہ قریش کی اس فوج سے مسلمانوں کی
مٹھی بھیڑ ہو جائے تاکہ قریش کو شکست ہو اور اس طرح کفر کونگ پہنچے۔
اس اتنا میں اہل کمرہ کا تجارتی قافلہ اور قریش کی فوج دونوں کی دو تو مسلمانوں
کے قرب پہنچتے ہیں۔ چنانچہ اب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے

چنان تک الہامِ حق کا تعلق تھا، اُس کامیلان قریش کی فوج سے دودو
ہاتھ کرنے کی طرف تھا۔ لیکن مسلمانوں کے عام طبلائع کار جہان یہ تھا کہ فوج
سے لڑنے کے بجائے قریش کے تجارتی قافلے پر قبضہ قدمی کی جائے۔ اب یہاں
خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو راہِ پدراست کی طرف لے جانے کا سامان پیدا
ہوتا ہے۔ چنانچہ دو بدروں کے میدان میں جا اترتے ہیں۔ اور وہاں جدہ فرا
ستا تھے ہیں تو ان کو اُونگھہ آجائی ہے، جس کی وجہ سے اُنہیں سکون مل جاتا
ہے۔ اور پھر اس موقع پر باش بھی ہو جاتی ہے۔ جس سے اُنہیں اُور اطمینان
حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اُن کے دلوں میں قریش کے مقابلے کے لئے جوش پیدا
ہوتا ہے۔ اور دہ کفار کے خلاف رزم آراد ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ٹھوڑا بظاہر اس
کے متعلق یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کا یہ منشاء و مقصد تھا کہ اسی طرح
ہو۔ یا پھر قدرتی طور پر حالات و معاملات کا یہی تفاصیل تھا۔ پھر حال محرکہ بد رہ
ہو چکا۔ لیکن ماں غنیمت کے متعلق جو سوال لکھا وہ ابھی باقی تھا۔ چنانچہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ حق کی طرف منجذب ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں
اللہ تعالیٰ ماں غنیمت کی تقسیم کے پارے میں آپ سے سے کلام کرتا ہے۔

اب اگر تم مجھ سے پوچھو کوئے آخر یہ کون سا مقام ہے، جسے تم مقامِ حق
کہتے ہو۔ تو اس کے جواب میں میں کہوں گا کہ ملادِ علیؐ اور جلیلِ القدر مونوں
کی سنتیں اور اُن کے نصب العین اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے کسی ایک
تجلی میں جمع ہو جلتے ہیں۔ اور اس تجلی ہی کا نام حظیرۃ القدس ہے۔ اور
یہی دو مقام ہے جہاں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث

یہ آیا ہے کہ حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے یہیں کی تھیں۔ اور یہی
حظیرہ القدس قرآن مجید کی اس آیت - " قَدْمُ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ " کا
یعنی نیکو کار دل کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس مستغل ٹھکانہ ہے، مصدق ہے۔
اب جو شخص حظیرہ القدس کو پالیتا ہے وہ قرآن مجید کی اس بشارت کا جس کا
" عَلَى بَيْتِنِيْهِ مِنْ رَبِّيْهِ اُور يَتَلَوُّهُ شَاهِدٌ مِنْهُ " کی آیات میں ذکر ہے
اپنے بن جاتا ہے۔ غرضیکہ اس شخص کے نفس میں اس بارگاہ کی طرف سے ایک
زیگ آکر گھنی مل جاتا ہے اور یہی چیز موسیٰ کے دل میں تقاضہ حق کی صورت
اختیار کرنی لیتی ہے۔ نہیں چاہئے کہ اس مسئلہ میں خوب شور د فکر کرو۔ داقعہ
یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے ۔

پرسوال مشاہدہ

میں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف متوجہ مقاکر ایک نور جو
بندیوں کی طرف پرداز کر رہا تھا، طلوع ہوا۔ اس نور سے میرا خیال
ستاتا پا پڑ ہو گیا۔ اور اس کی تابانی اور چمک دیکھ کر میں چرت
میں پڑ گیا۔ اسی اشتای میں خود مجھے اپنے اندر سے فراست اور
نظری سوچھ بوجھ کے ذریعہ بتایا گیا کہ یہ نور، نورِ عرش ہے۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس نور کا بڑا دخل ہے۔
چنانچہ جب تک اس نور کی معرفت حاصل نہ ہو، بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی نبوت کی حقیقت کا علم مکمل طور پر میسر نہیں آتا ۔

اس مقام سے ائمگر جب میں تفکر اور خود تعمق کے مقام میں
آیا تو مجھے حزقیل بنی کادوہ فصہہ یاد آگیا جو "الدر المنشور" میں مذکور

ہے۔ اور جس میں بتایا گیا ہے کہ حمزہ بنی نبی نے نور عرش کو درکھا اور
ہس نور کی زبان ہی کے ذریعہ آن کی رسالت معرض و جعد میں آئی ۔

اکتیسوال مشاہدہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی سوال پوچھا،
جیسے کہ کئی بار آپ سے اس قسم کے سوال میں پوچھ چکا ہوں۔ میں نے آپ
سے پوچھا کہ دنیا کی معاملات میں اسیاب کو وسیلہ بنانے پا اسیاب کو سرے
سے ترک کر دینے میں کون ہی چیز میرے لئے بہتر ہے۔ میں جب یہ سوال
کر چکا تو میری طرف خوبی کی ایک لپٹ آئی جس کی وجہ سے میرا دل تباہ
اولاد اور گھروغیرہ کی قسم کی چیزوں سے بالکل بسرو ہو گیا۔ لیکن اس کے
بعد مجھے جو کشفت ہوا تو میں نے اپنی طبیعت کو اسیاب کی طرف مائل پایا۔
اور میں نے محکم کیا کہ میری طبیعت کو اسیاب سے نذرت ملتی ہے۔
اور وہ اسیاب کی تلاش میں سفردار رہتی ہے۔ لیکن میری طبیعت کے
خلاف میری روح کا رحجان توکل کی طرف ہے۔ اور میری روح اسیاب

کی بجائے توگل سے لذت حاصل کرتی ہے۔ اور اُسی کی طالب ہے۔ اور نیز میں نے معلوم کر لیا کہ میری طبیعت اور میری روح میں باہم کش مشکش ہے۔ اور اس سلسلہ میں میں نے یہ بھی جان لیا کہ اس مسئلہ میں میرے لئے پسندیدہ روشن یہ ہے کہ میں اپنی روح کے لئے پرچلوں۔ بے شک اشتراکائے کا لطف دکرم پہلے سے پر وہ خفا میں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ خود بخود ظاہر ہوتا جاتا ہے +

اس کے بعد خوشبو کی ایک اور لپٹ آئی۔ اور اس کے ضمن میں مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا کہ تمہارے متعلق اشتراکائے کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ سے اُمرت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے۔ اسلئے یہ جو کہا گیا ہے کہ صدیق اُس وقت تک صدیق نہیں بن سکتا، جب تک کہ ایک ہزار صدیق اُسے زندیق نہ کیں۔ تمہیں چاہیے کہ اس چیز سے پچھو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ فروعات میں اپنی قوم کی ہرگز مخالفت نہ کرو۔ کیونکہ ایسا کرنا ارادہ الٰہی کے خلاف ہے۔ بعد ازاں اس سلسلہ میں مجھ پر ایک ایسا مثالی طریقہ منکشت ہوا۔ جس سے مجھے سنت اور فقہ حنفی میں تطبیق دینے کی کیفیت معلوم ہوئی اور وہ اس طرح کہ امام ابوحنین، امام ابویوسف اور امام محمد میں سے جس کا قول سنت کے قریب ہو، میں اُس قول کو اختیار کروں۔ اور جن امور کو اُنہوں نے عام رہنے دیا ہے، میں ان کی تخصیص کروں۔ اور مسائل فقہ کو مرتب کرنے میں جو مقام احمد ان بزرگوں کے پیش نظر تھے،

اُن سے واقعہ ہوں۔ اور سنت سے جو عام مفہوم متبادر ہوتا ہے،
 یہ اُس پر اپنا انحصار رکھوں۔ اور اس معاملہ میں نہ تو دُور از قیاس
 تاویل سے کام لیا جائے۔ اور نہ یہ ہو کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث
 سے بھرا جائے۔ اور نہ امت کے کسی فرد کے قول کے خیال سے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ترک کیا جائے۔ سنت اور فقہ حنفی
 میں باہم مطابقت دینے کا یہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے
 کو مکمل کر دے تو یہ دین کے حق میں کبریت احمد اور اکیراعظم ثابت ہو +
 اس کے بعد خوشبوگی ایک اور لپٹ آئی۔ اور اسی کے ذیل میں
 مجھے اپنے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعیت ملی کہ میں
 انجیمار کے طریقے کو اختیار کر دیں، اور اُن کے بارہ مئے گران کو اٹھاؤں۔
 اور اُن کی خلافت کے لئے گوشائیں ہوں۔ اور میں لوگوں کو تعلیم دارشاد
 دوں تو ترمی و شفقت سے دوں۔ اور اُن کی ہبودی کے لئے دعا کرو۔
 اور خدا سے وہ چیز طلب کروں، جس میں لوگوں کی ظاہری اور باطنی دونوں
 لحاظ سے بجلائی ہو +

خدا تعالیٰ نے سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 سنت کو اخذ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے +

پتیسواں مشاہدہ

بیس نے ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم کی قبور کی طرف توجہ کی، تو بیس نے اُن کا ایک خاص طریقہ دیکھا۔ اور اُن کا یہی طریقہ اولیاء کے طریقوں کی اصل بنیاد ہے۔ اب میں تمہارے لئے اُن کا یہ طریقہ بیان کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں گہ اس طریقے کے ساتھ اور کون سی چیز منضم ہوئی۔ جس کی وجہ سے بعد میں یہ اولیاء کا طریقہ بن گیا ہے۔

ائمہ اہل بیت کا طریقہ عبارت ہے نسبت "یادداشت" کی طرف التفات سے اور نسبت "یادداشت" سے میری مُراد نفس کی وہ اجمالي بیداری ہے جو مبداءً اُول کرنے لئے ہو، خواہ نفس کی اس بیداری پر حجابات ہی پڑے ہوئے ہوں۔ لیکن اس اجمالي بیداری میں یہ ضروری

ہے کہ کم از کم اس وقت تک تو ذہن سے حجایات کا یہ خیال مٹ جائے۔ اور نیز اس وقت یہ خیال بھی نہ ہونا چاہئے کہ نفس کی یہ بیداری خود نفس کے جوہر سے پیدا ہوئی ہے، یا یہ کہ یہ حاصل شدہ علم کا نتیجہ ہے الغرض نفس میں منبدلائے اول کے لئے ایک بسیط بیداری پیدا ہو۔ اور وہ نفس کسی نہ کسی طرح اس بیداری کی طرف ملتفت بھی ہو، یہ سے اولنیاء کا طریقہ۔ الغرض جب اولنیاء کے نفس کا جوہر اس نقطے میں فنا ہو گیا۔ تو اس سے اولنیاء کے اندر رشبت یا دواشت کی طرف التفات کے علاوہ ایک اور سہیت پیدا ہو گئی۔ اور اسی صورت میں ان کو ایک ایسے راستے کا الہام ہوا، جس پر چل کر وہ "منزل فنا" تک پہنچ گئے۔ چنانچہ یہ باعث بنا ولایتوں کا اپنے طول و عرض کے ساتھ ظاہر ہونے کا ہے۔

تہذیب وال مشاہدہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارگاہ سے یہ حقیقت معلوم کی ہے کہ وہ شخص جس سے غیر اللہ سے تعلقاتِ محبت کو بالکل منقطع کرنے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے محبت رکھنے، غیر اللہ سے عدادوت کرنے جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی تھی، جب کہ اُہنے نے اپنے فاندان اور اپنے دلن کو چھوڑنے ہوئے کہا تھا کہ ”یہ سب کے سب موائے ایک رب العالمین کے میرے دشمن ہیں۔“ اور شیخ اللہ کے ساتھ مغض علم و معرفت کے اختیار سے نہیں بلکہ عمل اور واقعہ حشق و محبت رکھنے میں کوتا ہی ہو، اپنے شک و شخص فریب زدہ ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اُس شخص کی ان معاملات میں کوتا ہی پتتجہ ہوا اس شخص کے اپنے طبیعی حالات کا، یا اس کا سبب یہ ہو کہ وہ کانتا

کی اس کثرت میں ایک ہی وجود کو جاری و ساری دیکھنے میں منہماں ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ اس کائنات کی ہر چیز سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک ہری ایک وجود جو کہ اُس کا محبوب ہے اس ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ الغرض غیر اشترے سے بالآخر قطع نظر کرنے اور اشتر تعالیٰ سے پوری طرح محبت کرنے میں اپر کی یہ دلچیزیں مانع ہوں، یا ان کے علاوہ اس کے کوئی اور اسباب ہوں، بہرحال ایسا شخص جو اس کو تاہمی کا مرکب ہوتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ فربہ زندگی میں اس کی بارگاہ سے بعض ایسے امور کا بھی استغفارہ کیا جو با خلاف تھے میری اُن باتوں کے جو پہلے سے مجھے میں موجود تھیں۔ اور میں طبیعت کا ان باتوں کی طرف بہت زیادہ رحمان بھی تھا۔ اس ذیل میں امور آتے ہیں۔ اور چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سے ان کا استغفارہ کیا ہے، اسی لئے یہ تینوں کے تینوں اپر میر لئے اشتر تعالیٰ کی طرف سے محبت بن گئے ہیں ۔

ان امور میں سے ایک تو یہ ہے کہ مجھے اسباب کی طرف استفادہ ترک کرنے کے لئے کہا گیا۔ میکن اسباب کے معاملے میں میری اپنی حالت یہ تھی کہ جیب کبھی میں خود اپنی طبیعت کی طرف مائل ہوتا تھا تو مجھ عقل معاشری غالب آ جاتی تھی۔ اور میں اسباب سے محبت کرنے لگتا تھا اور مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ میں اپنے لئے وہ اسباب ہتھیا کر دوں، جن

اولاد اور اموال کا حصول ہو سکے ممکن جب کبھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ملادت علیہ سے ملحق ہوتا تھا، تو یہ صدے کے سارے رذائل مجھ سے چھپٹ جاتے تھے۔ اس ضمن میں مجھ سے جو یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ میں اسیاب کو دبیلمہ بنانا چھوڑ دوں۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ایک طرف تو میری طبیعت کا فطری رجحان اسیاب کی طرف تھا، اور دوسری طرف مجھ سے ترک اسیاب کا عہد لیا گیا تھا۔ اب میرے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں۔ اور یہ ظاہر و محسوس طور پر ایک دوسرے سے متناقض تھیں، جیسے کہ ظلمت اور فور میں اور خنڈی ہوا اور تو میں تناقض ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے اندر جیشتر چیزیں ایسی ہیں، جن میں کوئی تناقض نہیں۔ اور خدا کے فضل سے یہ سب کی محب چیزیں تھیں جبھی ہیں۔ اور نیز میری طبیعت الہام قبول کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ لیکن فکر اسیاب اور ترک اسیاب کا پیشکار ایسا تھا کہ اس کے بارے میں مجھ میں پہ تناقض پائی رہا۔ اور یہ بلاوجہ نہیں، بلکہ اس میں کوئی عجیب بھی ہے۔

اور ان امور میں سے دوسرा امر جس کے لئے مجھے کہا گیا، وہ یہ ہے کہ میں فقرہ کے یہ چوچا رہنا ہب ہیں، اُن کا پائند رہوں۔ اور ان کے دائرہ سے باہر نہ نکلوں۔ اور جہاں تک ممکن ہو، اُن سے موافقت پیدا کروں۔ لیکن اس معاملے میں خود میری اپنی طبیعت کا یہ حال تھا کہ وہ تلقیند سے اباکرتی تھی، اور اُسے سرے سے تلقیند سے انکار تھا۔ لیکن چونکہ یہ چیز خود میری اپنی طبیعت کے خلاف اطاعت و حمادت کی طرح مجھ سے

طلب کی گئی تھی، اس لئے مجھے اس سے جائے مقرر نہ تھی۔ بہر حال ہیں ہی بھی ایک نکتہ ہے، جس کا میں اس وقت ذکر نہیں کرتا۔ لیکن انہوں کے فضل سے میں اس بات کو پا گیا ہوں کہ میری طبیعت کو کیوں مذاہب فقہ کی تکفیر سے انکار ہے۔ اور اس کے باوجود مجھے کس لئے مذاہب فقہ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے ۔ ۔ ۔

ان امور میں سے جن کا میں نے پارگاہِ بنوی سے استفادہ کیا، آخری امر یہ ہے کہ مجھے حضرت علیؓ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دینے کا حکم دیا گیا۔ کو اس مطلعے میں اگر میری طبیعت اور میرے دجھان کو آزاد چھپو رہا تھا، تو وہ دونوں حضرت علیؓ کو فضیلت دیستے۔ اور اپنے سے زپادہ محبت کا انعام کرتے۔ لیکن یہ ایک چیز تھی جو میری طبیعت کی خواہش کے خلاف عبادت کی طرح مجھ پر عائد کی گئی تھی اور مجھ پر اس کی تعییل لازمی تھی۔ غرضیکہ میرے اندرہ ان میں متناقض چیزوں کا ہونا ایک عجیب بات ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ لیکن میری ذات میں جامعیت کی جو شدت ہے، اُسی نے مجھے ان متناقضات میں ڈالا ہے ۔ ۔ ۔

چوتھی میوں وال مشاہدہ

میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے خود اپنا نور دیکھا۔ جو
بڑا عظیم الشان تھا۔ اور جس نے کہ تمہام اقلیموں کو ڈھانپ لیا۔ اور ان
اقلیموں میں سے والوں پر اُس کی روشنی غالب آگئی۔ اور اس سے
میں یہ سمجھا کہ یہ قطبیت جو مجھے دی گئی ہے، نور ہے۔ اور قطبیت سے
میری ہزاد ارشاد بت سے ہے۔ اور یہ قطبیت ہی کا نور ہے کہ جس کی
روشنی سب پر غالب آگئی، اور اُس پر کسی کی روشنی غالب نہیں آتی۔ اور
میں کا نور سب کو زیر کرتا ہے، لیکن وہ خود کسی سے زیر نہیں ہوتا۔ اور
کوئی چیز اسی نہیں ہے، جس کو یہ نور اپنے اثر پیش نہ لاسکے لیکن خود
اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کے اثر پیش نہیں آتا۔ تمہیں چاہیئے گر اس
منسلے میں خوب غور و تدبیر کرو۔

پہنچیسوال مرتبا پڑھ

میں نے خُدا کے اس قدیم گھر اور اس عالی منزلتِ عمارت یعنی خانہ کعبہ کو دیکھا کہ ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی ہمتیں اُس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور اُس کے ساتھ یہ اس طرح متعلق ہیں جیسے بدن سے روح کا تعلق ہوتا ہے۔ اور نیز میں نے خانہ کعبہ کو ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی ہمتیں اور ان کی رُوحوں تے اس طرح گھرا ہوا پایا جیسے گھلاب کے پھول کے اندر عرق اور روئی کے اندر مواسیر اپن کئے ہوئے ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس مقدس گھر کی طرف لوگوں کے دلوں میں جو توجہ اور اتفاقات پایا جاتا ہے، اُس کی وجہ پر ہے کہ ان کی ہمتیں کا تعلق اُس بارگاہ سے ہوتا ہے، جو مشتمل ہے ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل پر۔ اور چونکہ خانہ کعبہ میں ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی

ہستیں اور ان کی ارواح بھری ہوئی ہیں۔ اس لئے لوگوں کے دلوں
میں خانہ کعیہ کے لئے محبت جوش مارٹی ہے ۔

چھٹپتوال مشاہدہ

اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مطلع فرمایا کہ وہ میرے ساتھ کیا کیا نوازشیں کرنے والا ہے۔ اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے وہ کون کوں سی نعمت مجھے عطا فرمائے والا ہے۔ اس صحن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دُنیا اور آخرت دونوں کے مواخذے سے مامون فرمادیا۔ چنانچہ اب اس زندگی میں مجھے جن مصائب سے سابقہ پڑتا ہے، ان کو خود میری طبیعت کا تھا ضمہ بھی یہ نہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ نیز جو کچھ مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اولیاء میں سے کم ہی کو یہ پیش ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اطمینان نجٹل زندگی سے بھی نوازا۔ اور اُس نے ہر سعادت سے مجھے قابل ذکر حصہ عطا فرمایا۔ اور نیز اُس نے

مجھے خلافت بالفني کی خلعت بخششی۔ چنانچہ پہلی دفعہ جب یہ راز یکبارگی مجھ پر ظاہر ہوا تو میری عقل چکرا گئی۔ لیکن اس کے بعد یہ راز واضح شکل میں میرے سامنے آیا، تو پھر میں اس معاملے کی حقیقت کو سمجھا۔

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی شامل ہے — کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حارف کو جو جو نعمتیں ملنے والی ہوتی ہیں، ان کا اُس پر انکشافت ہو جاتا ہے۔ اس انکشافت کے ضمن میں اہل اللہ کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو کشف اللہی والوں کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ان واقعات کو جو مستقبل میں ہونے والے ہوتے ہیں "آئینہ حق" میں دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس "آئینہ حق" سے میری مراد یہ ہے کہ اہل اللہ کا گروہ یہ دیکھ دیتا ہے کہ اب اس بندے پر اللہ کی نظر عنایت ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ بھی جان دیتا ہے کہ ملائِ اعلیٰ میں کس کس چیز کو وجود میں لانے اور کس چیز کو دوسرا چیز سے قریب کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ البته خاص اُس واقعہ کی طرف جو ہونے والا ہوتا ہے، انکی نظر میں نہیں جاتیں۔ اور بھی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہونے والے واقعہ کی تفصیلات نہیں بتاسکتے جس طرح کہ وہ گروہ جن کو "کشف کوئی" ہوتا ہے، وہ بتاتی ہیں۔

اس سلسلہ میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملائِ اعلیٰ کے جن خزانوں

اور سرچشمیں سے نیوض نازل ہوتے ہیں کشف الہی والوں پر یہ خزانے اور سرچشمے مکشوف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی بارے میں قرآن مجید کا درشارد ہے۔ ہر چیز کے ہمایے پاس خزانے ہیں۔ اور تمم ان سے تقریباً اندازہ کے مطابق چیزوں کو نازل کرتے ہیں۔ الغرض جس کسی شخص پر مطابق اعلیٰ کے ان خزانوں اور سرچشمیں سے انوار کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ تواریخ شعاعوں سے اُس شخص کے ظاہری اور باطنی حواس۔ جو بعض اوقات اس شخص کی قوت بھی ہی کے اجزاء ہوتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہمیں حبان سکتا کہ کس مقدار میں کوئی چیز ملائے اعلیٰ کے ان خزانوں سے نازل ہونے والی ہے۔ ملائے اعلیٰ کی یہ عجیب بارگاہ میں اوزاس کے معاملہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس بارگاہ میں سورج۔ بچادر، تفکر اور دل کے دوسروں کو ملاوٹ نہیں ہوئی چاہیے۔ تاکہ ان کی وجہ سے کمیں پہنچ ہو کہ صاحبِ کشف چھوٹی چیز کو بڑا سمجھے۔ اور بڑی چیز کو وہ چھوٹا سمجھے۔ مثال کے طور پر ملائے اعلیٰ کے خزانوں سے کوئی چیز کم مقدار میں نازل ہونے والی نہیں۔ لیکن اُس شخص نے اُس چیز کو بڑی مقدار میں دیکھا۔ اور لوگوں کو اس کی خبر دے دی۔ اور بعد میں جب وہ چیز اُس مقدار میں نازل نہ ہوئی تو وہ چھوٹا ہٹھا۔

لَهُ وَإِنْ رَمِنَ شَيْئٌ إِلَّا عِتْدَلَهُ خَرَأْتُهُ - وَمَا نَزَّلَهُ إِلَّا بُقَدَّرَ
مَعْلُومٌ ۝ (رسویہ الحجر ۲۱)

چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت کے ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول
یا بنی بیچجے، ان میں سے ہر ایک کے صالحہ یہ ہوتا کہ جب اُس نے کوئی
آرزو کی، تو شیطان نے اُس کی اس آرزو میں اپنی طرف سے کچھ
ڈال دیا۔ ایک معنی یہ ہے +

یہ تو "کشف الہی" والوں کا بیان ہوتا۔ اہل اللہ کا دوسرا گروہ کشف
کوئی "والوں کا ہے۔ یہ ہونے والے واقعہ کو خواب یا مالت کی طرح جان۔
لیستہ ہیں۔ اور اس صورت میں ان کو ملادا علائی کے خزانوں اور سرچشمتوں کا
حلہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں
اُس کی تعبیر کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو
واقعہ اس عالم میں رومنا ہونے والا ہوتا ہے، اُس کی عالمہ مثال میں
جو مثالی حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے باشے میں ان لوگوں کے خیال کی تصویر
اُس مثالی حقیقت کی جو طبیعت کرتی ہے، اُس کی تصویر کے بالکل مطابق ہوتی
ہے۔ اس لئے یہ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں۔ جنسہ بغیر کسی فرق کے وہ واقعہ
ویسا ہی طور پذیر ہوتا ہے۔ لیکن "کشف کوئی" والوں میں سے جو ایسے
ہتھیں ہیں، ان پر ہونے والے واقعات کے صورت میں جو کچھ بھی منکشف
ہوتا ہے، اُنہیں اُس میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ان کا ہونے
والے واقعہ کی اصل حقیقت تک پہنچنا۔ قیاد بھیے خاردار درخت کو
لَهُ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قُرْبَةٍ مِنْ رَسُولِنَا لَدُنْنِي إِلَّا ذَاهِنًا
أَلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أَنْهَانِنِيَّتِهِ۔ (سورہ الحج ۱۵)

رندستے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے +

تحقیق مزید ————— رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امتت مرحومہ کے لئے اسوہ حسنة یعنی بہت اچھا نمونہ ہے ۔ اب امتت میں سے جو اصحاب خلافت ظاہرہ ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا کام شرعیت کی حدود کو قائم کرنا، جہاد کے لئے ساز و سامان فراہم کرنا، سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، دفود بھیجننا، صدقات اور خراج جمع کرنا اور مسحیین پر ان کو تعمیر کرنا، مقدموں کا فیصلہ کرنا، یتیموں، مسلمانوں کے اوقاف، گزرگاہوں، مسجدوں اور اسی طرح کے جو اور امور ہیں، ان کی خبر گیری کرنا، ان لوگوں کے لئے تو رسول اللہ کا اسوہ حسناتاپ کے وہ احکام داوا امر ہیں، جو مذکورہ بالا امور کے متعلق کتب احادیث میں پڑی تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ جس شخص پر ان امور کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اس کو خلیفۃ ظاہر گرتے ہیں +

اصحاب خلافت ظاہرہ کے علاوہ امتت میں ایک گروہ اصحاب خلافت باطنہ کا ہے۔ یہ لوگ قرآن، سنت اور شرعیت کی تعلیم دیتے، نیک کا مول کا حکم کرتے اور بُرے کاموں سے روکتے ہیں۔ ان کی بائیں دین کے لئے مدد کا باعث ثبتی ہیں، خواہ یہ مدد مناظرے اور مجادلے کی شکل میں ہو۔ جیسے کہ تکلیفیں کا گروہ دین کی مدد کرتا ہے۔ یا یہ مدد و عطف و ارشاد کے ذریعے

ہو جیسے کہ خطیب اور داعظ کرتے ہیں۔ یا ان لوگوں کی صحبت سے دین کو تقویت ملے، جیسے کہ مشائخ صوفیاء ہوتے ہیں۔ اور نیزدہ لوگ جو ناری پڑھتے اور حج ادا کرتے ہیں۔ اور وہ جو "احسان" کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتے اور حبادت و زهد کی انہیں ترغیب دیتے ہیں، پرسب کے سب لوگ جو ان امور کو سرکجام دیتے ہیں، ہم بیان ان کو خلافتے باطنی کا نام دیتے ہیں۔ ان خلافتے باطنی کے لئے بھی خلف عکس ظاہری کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنة کتب احادیث میں ان قواعد و آداب کی شکل میں بڑی تفصیل سے موجود ہے، جو آپ نے مذکورہ بالا امور کے متعلق مقرر فرمائے ہیں *

یہ بات جو ہم نے پہل بطور ایک مقدمہ کے بیان کی ہے، اس پر کلیتہ سب کا اتفاق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تم فقہاء کو دیکھتے ہو کہ وہ فقی مسائل کے ضمن میں جو احکام استنباط کرتے ہیں، ان میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو مدار مانتے ہیں۔ اور اُسی کے مقابلہ وہ اور امور تجویز کرتے ہیں۔ اور ان سب میں وہ سنت ہی کی سند لیتے ہیں۔ الغرض جب ہم نے اس اصل کو تسلیم کیا کہ خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ ہر دو کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ ہے، تو اب ہم اس اصل سے ذیلی اور فرعی مسائل کا استنباط کرنے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک بعیت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کو ہم تفصیل سے اپنی کتاب "القول الجبل فی بیان سواعِ شبیل" میں

ذکر کرچکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ خلیفہ باطن کا اپنے داعی اور
سفیر بھیجنے کا ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اطرافِ ملک میں اور مختلف قبائل کی طرف اپنے نائپ بھیجا کرتے تھے،
جو لوگوں کو اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دیتے اور
اُن کو شریعت کے احکام دا دامر کی تلقین کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں
آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشتری کو اشترویں کی طرف، حضرت ابوذرؓ
غفاری کو قبیلہ غفار دا سلم کی طرف، حضرت عمر و بن مرحہ کو قبیلہ جبینہ کی
طرف، حضرت عامرؓ حضرتی کو بنی عبد القیس کی طرف اور حضرت مصعبؓ
بن عسیر کو اہل مدینہ کی طرف، اپنا سفیر بنانا کر بھیجا۔ اور اس ضمن میں جمال
تک ظاہری خلافت کے معاملات کا تعلق تھا، آپ نے کوئی معاملہ بھی ان
کے سپرد نہ فرمایا تھا۔ الغرض یہ لوگ آپ کی خلافت باطنی کے داعی اور
سفیر تھے۔ اور ان کے ذمے آپ نے صرف یہ کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو
اسلام کی طرف بلا پیش۔ اور اُن کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں ۔

خایفہ ظاہر اور خلیفہ باطن میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بھی
خلیفہ باطن ہوں تو ان میں باہم نزع کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن خلیفہ
ظاہر کا معاملہ اس سے برکس ہوتا ہے۔ اور خلیفہ باطن اور اس کے دامی
اور سفیر ہیں فرق یہ ہے کہ خلیفہ باطن کے لئے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو
اور اس کے علم کا دامہ وسیع ہو۔ اور اسی طرح وہ وسیع الكلام بھی ہو۔
اور جمال تک داعی کا تعلق ہے، اُس کے پاس تو خلیفہ باطن کی طرف سے

ایک لکھا ہٹا دستور العمل ہونا چاہئے، جس پر کہ وہ عمل کرے۔ اور اس سے
وہ تجاوز نہ کرے۔ اور اگر دعوت کے سلسلے میں اس کو کوئی مشکل پیش آجائے
تو اس کے پارے میں وہ خلیفہ باطن کی طرف رجوع کرے۔ خلافت باطنی
میں جو داعی اور سفیر نیچھے چلتے ہیں اور ان کے متعلق جو قواعد و احکام
ہیں، ان میں سے بشرط قواعد و احکام کا مأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا وہ طریق کا رہے، جو بحربت سے قبل مختلف قبائل کی طرف آپ
کا اپنے داشتی اور سفیر نیچھے کا تھا۔ تم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو تو۔
اور اس میں خوب تدبیر کرو ।

لہ مورخین عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی عہد سے اسلامی ریاست کی
انہدا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک کے میں مسلمانوں کی جماعتی زندگی کی کوئی باقاعدہ
سیاسی حیثیت نہ تھی۔ شاہ ولی اللہ کی راستے یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت نکے ہی میں
تشکیل پا جکی تھی۔ لیکن یہ حکومت متمدد کے اصول پر مبنی تھی۔ یہ خلافت باطنی ہے
بموجب کی اصطلاحی زبان میں ہم اسے پارٹی کہیں گے ۔ مترجم

سیستیسوال مشاہدہ

مجھ پر ایک وجہانی کیفیت طاری ہوئی اور اس حالت میں میں نے اپنی روح کو دیکھا کہ وہ دوچند ہو گئی ہے اور بہت بڑھ گئی ہے۔ اور اس میں دعست اور فراخی پیدا ہو گئی ہے۔ جب میں نے اپنی اس وجہانی کیفیت میں خود کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہ حالت ہے، جو فارفول کو پیش آیا کرتی ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ الٰہی بالا ہو کے وہ اسرار جو ملائعاً علیے میں العقاد پذیر ہوتے ہیں، وہ عارف کی روح میں حلول کرتے ہیں۔ اور نیز وہ اہمیتِ الہی جو پہلے تو مدارکِ اجمالی میں دافعہ ہوتے ہیں۔ احمد پھر وہاں سے تلاوت کی خلائے والی آیات کی صورت میں کسی منتخب رسول کے دل میں نزول کرتے ہیں۔ یادِ مشورہِ اسلام کہ چونکہ آثارِ حق کو ان اصحاب سے تعبیر کرنا لوگوں میں ایک مستور بن جاتا ہے

اوہ یہ چیز ان کے ہال طبیعت اور جملت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے غرضیکہ ان اسمائے اللہ یہ اور ان اسمائے مشور کی برکتیں اُس عارف کی روح پر نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اُس کی روح میں ان الٰہی بارگاہوں کے اسرار کے عصیل اور ان اسماء کی برکتوں کے نزول ہے و سعیت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسیں عارف دیکھے تو وہ اُس سے اتنا مرعوب ہو جاتا ہے کہ اُس کا دل اس عارف کی تعظیم کے جذبے سے بھر جاتا ہے۔ اور نیز اس عارف کے چہرے کے افوار سے اُس کی بزرگی کا انعام ہوتا ہے۔ اور اُس میں جو فراست اور بہت ہوتی ہے۔ اُس سے برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ الغرض میں نے اپنی روح کو جو اس قدر دیتے، اور فراخ پایا تو یہ راز ہے اُس کا۔ اور یہ اُس کی حقیقت ہے کہ

اڑیسوال مشاہدہ

میں نے ایک بارگاہ دیکھی، جس کی طبیعت کہیے سے ایسی ہی نسبت ہے، جیسے کہ افراد انسانی میں سے ایک سو فرد کی طبیعت کی اُس کے اندر چوارادہ اور عزم کی قوت ہے، اُس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے انسان اپنے خیال میں کسی لفظ کے حصول اور کسی مضبوط کو فتح کرنے کی لذت کو تمثیل کرتا ہے، پھر اُس کا یہ خیال اُس لفظ یا لذت کی جو صورت ذہن میں بنی ہے، اُس کا خلاصہ اس شخص میں جو ارادہ و عزم کی قوت ہوتی ہے، اُس کے پرداز کرتا ہے۔ چنانچہ اس سے اس شخص کی قوت ارادہ میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ عزم ہے۔ اور پھر جس چیز کے لئے عزم ہو، اُس کو حاصل کرنے کے لئے بدن کے اعضا متحرک ہوتے ہیں۔ بعض نہ یہی کیغیت ایک توی نقش کی جب کہ

وہ سب چیزوں سے تجربہ اختیار کر دیتا ہے، ہوتی ہے۔ مثلاً عالم ناموں میں جو واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے اُس واقعہ کی بہت اس نفس میں مثل ہوتی ہے۔ یہ نفس اس آہمتوں کی جو صورت کہ اُس کے اندر بنتی ہے، اُس کا خلاصہ کال کر رہا اس پارگاہ تک جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا ہے، پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نفس کو اپنے رب کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ الغرض ہونے والے واقعہ کی بہت کی اس صورت کا خلاصہ جب اُس پارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس سے طبیعت کلیہ میں قضا رہے حرکت ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہونے والے واقعہ کی صورت عالم مثال میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ لور اس کے بعد جب وہ وقت آتا ہے کہ یہ واقعہ عالم ناموں میں ظاہر ہو گو جس طرح اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں اس کی مثالی صورت بنائی تھی۔ اُسی طرح وہ عالم اجسام میں اس کی جسمانی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس صحن میں میں نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ نفس کی بہت کی اس طرح کی تابع جس کا ذکر ابھی ہوا ہے، المانیت کا کمال ہے۔ اور یہی وہ کمال ہے کہ مرے نے کے بعد جب یہ نفس عالم بروزخ میں پہنچتا ہے تو یہ جو طرح اللہ میں سے ایک بارہ بین جاتا ہے +

اس مشاہدہ میں یہ تجھیق بھی ————— بعض واقعہ عارف

پر منکشت ہوتا ہے کہ قضا کا یہ جسمی فیصلہ ہے کہ فلاں واقعہ اسی طرح ہو۔ اور یہ کہ ایسا ہونا قضاۓ مبرم سے مقدر ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد عارف اپنی پُری ہمت سے دعا کرتا ہے۔ اور اس دعا میں وہ بہت عجز و الحاج سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قضاۓ اسی دینہ صورت میں تبدیل ہو جائی ہے۔ اور اس واقعہ کی بحث کئی کوئی دوسرے طور پر ڈیر ہو جاتا ہے، جو اس عارف کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسکی مثال حمار دباؤس کے سامنے میں سے ایک تاجر کا وہ فقرہ ہے۔ جو مید عبد العلی رجیلانیؒ سے مردی ہے۔ اور نیز مرزباہدامت اللہؒ کے معاملہ میں وہ واقعہ جو میرے والد بزرگوار کو پیش آیا۔ ہی سلسلہ میں اس طرح کے اور بھی واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

اس معاملے میں یہاں ایک بڑا اشکال ہے، جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس طرح جو کچھ ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بعض اسباب عالیہ کا یہ تاکیدی اقتضا ہوتا ہے کہ یہ امر اس طرح ہو۔ اور جب کسی امر کے متعلق یہ اقتضا ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس امر کے متعلق یہ فیصلہ مقدر ہو چکا ہے۔ اور اس کے خلاف کوئی اور احتمال نہیں ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس اقتضا کے ضمن میں چونے والے واقعہ کی پوری صورت اس طرح مرتباً ہو جاتی ہے کہ کسی بسب سے اس ہی خلل پڑنے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اب عارف پر یہ اقتضائے تاکیدی معہ

ہوئے والے واقعہ کی صورت اور ہیئت کے ملکشت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
وہ اس اتفاق نام کے روزان سے قضاۓ مبرحم کو دیکھتا ہے۔ لیکن وہ اسکو
صاف طور پر پہچان نہیں سکتا۔ اور اُس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں نے
قضاۓ مبرحم کو واضح طور پر دیکھ لیا۔ پھر اس عارف کی ہست نزول قضا
کے اسباب میں سے ایک بیب بن جاتی ہے۔ اور جب ان اسباب میں باہم
تصادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ان اسباب میں سے کسی بیب کی
توتوں میں "قبض" پیدا کر دیتی ہے۔ اور کسی میں "بسط" اور اس طرح
جو ہوئے والا واقعہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے ۔

اس طرح کے واقعات کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ عالم ناسوت میں ایک واقعہ کو جسمانی اجزاء میں مکپ کرنے
کے پہلے وہ روحانی قوتوں کے اجزاء سے اُس واقعہ کو عالم میان میں
تکمیل دیتا ہے۔ اور پھر وہ اس مثالی صورت کو امن دنیا میں نازل فرماتا
ہے۔ اور اس طرح اس واقعہ کی مثالی صورت اُس کی ناسوتی صورت سے

لہ "قبض" کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز میں فطری استعداد ہے۔ لیکن
کسی مصلحت الہی کی وجہ سے وہ فطری استعداد پوری طرح برداشت کا رہنیں آتی۔
اور بسطتے مراود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی فطری استعدادوں میں خلاف
مسئل بہت زیادہ قوت اور اثر پیدا کر دیتا ہے۔

(مترجم)

متحدر ہو جاتی ہے۔ اور بھی مراد ہے "العام" میران اور تحدید کو نازل کرنے سے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور نیز بھی مطلب ہے اس کا کہ آسمان سے بلاشبھ اُترتی ہیں۔ اور دعاوں سے ان کا تدارک ہو جاتا ہے ۔

عالم مثال میں اللہ تعالیٰ کسی واقعہ کی جو مثالی صورت پیدا کرتا ہے، وہ کبھی کبھی سب سبھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، باقی رکھتا ہے، اور اللہ کے پاس تو اُم الكتاب ہے۔ کسی چیز کے اس طرح مثالتے کا نام "رُوْقَنَا" ہے۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ "دعا کے صواب مکمل کوئی چیز رد نہیں کر سکتی۔" الفرض عارف پر ایک واقعہ کی صورت کا انکشاف ہوتا ہے اور وہ اس کو قضاۓ سبزم کا فیصلہ کر جو کیسا ہے۔ پھر اس عارف کی ہمت اس واقعہ میں مزاحم ہوتی ہے تو وہ من کا

لَهُ شَفَقَكُهُ مِنْ نَفْسٍ فَأَخِذَتْهُ نَفْسٌ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا وَأَنْزَلَ

لَكَمْهُ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَرْضَاجٍ۔ مُورَّةُ الزَّمْر

لَهُ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمُنْزَانُ۔ مُورَّةُ الشُّورِيِّ۔
لَقَدْ أَنْزَلْنَا مِنْ سُلْطَانٍ بِالْبُيُونَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمُنْزَانُ

لِيَقُولُمُ الْثَّالِمُ بِالْقِبْطِ۔ مُورَّةُ الْعَدِيدِ ۷۵

لَهُ وَاللَّهُ لَنَا الْحَدِيدُ فِيهِ يَا شَعْرَ شَدِيدٌ۔ مُورَّةُ الْحَدِيدِ ۷۵

رُجُع اُس کی طبعی راہ سے دوسری طرف پھیر دیتی ہے ۔

اس مشاہدہ میں یہ مزید تحقیق بھی ہے — کہیں بیسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگری بندے سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہے اور وہ بات وعدے کے مطابق نہیں ہوتی۔ بلکہ جو دو اس کے کم ہے اور دو اس کے کم ہے اس طرح وعدے کا پورا نہ ہونا اکثر وحکم کے لئے ایک اشکال بن گیا ہے اور مشائخ صوفیار نے اس اشکال کو دُور کرنے کے لئے اس ضمن میں تسلیک بھی کی ہے۔ مثلاً اُن کا کہنا یہ ہے کہ بیسا او تعلیت ایک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اچھی بات کا وعدہ کرتا ہے اور وہ اسی وعدہ کی بنابر اس اچھی چیز کی رغبت کرنے لگتا ہے۔ اور وہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن بعد میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ مشائخ کا خیال ہے کہ اس وعدے کا پورا نہ ہونا اُس بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و گرم کا باعث پتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ یہ شخص اُس اچھی چیز کی محنت سے جس کا کہ اُس سے وعدہ کیا گیا تھا، پہنچم کی محنت کی طرف اور افعال الہی کی محنت سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی محنت کی طرف ترقی کرتا ہے۔ یعنی ان مشائخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کا پورا نہ کرنا کوئی نفس نہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح کی بات سے بھی منزہ کرنا فرمودی

اور لابدی ہے۔ کیا یہ واقعہ ہمیں کہ وعدہ پورا نہ کرنا بسا اوقات سخن
غزیب اور دھوکا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک نقص ہے۔ اور خدا تعالیٰ
کی ذات اس طرح کے نقصان پس سے باہکل پاک ہے +
اعرض ان مشارخ کے نزدیک اللہ کا اپنے وعدہ کو پورا نہ کرنا اکثر
اوقات بندے پر اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و کرم کا باعث ہے اُس کی
ترقی کا سبب اور اُس کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی وعدہ پورا نہ
کرتا ان کی راستے میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال میں سے ایک صفت
ہوئی۔ چنانچہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے وہ نظیر میں بھی پیش کیتے
ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ان کی ایک نظیر یہ ہے کہ بعض دفعہ کلام
میں رہابت فاصلہ کے خیال سے کلمہ کو مقدم یا مونخر کر دیا جاتا ہے۔
اور اس طرح جب کہ کسی حقیقت کی صحیح تفسیر کے لئے موندوں کلمہ ت
لے تو اس حقیقت کو مجازی نگار میں پیش کیا جاتا ہے۔ مشارخ نے
اس اسلوب کلام کو بھی اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورا نہ کرنے کے جوانب میں
بطور نظیر کے پیش کیا ہے۔ اور اس منمن میں اس طرح کی وہ اور شاید
بھی دیتے ہیں +

بات یہ ہے کہ اگر ہم کلام میں کلمہ کی تقدیم و تاخیر کو اس نظر سے
دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے مجبور تھا۔ اور وہ اس کے بکسر
کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، تو یہ ایک نقص ہوا۔ اور اگر کلمہ کی تقدیم و
تاخیر کو اس طرح بھیں کہ چونکہ قرآن مجید قریش میں زبان میں نازل

ہوا۔ اور ان کے ہاں رعایت فاصلہ یا ترکیب کی موزوڈیت اور اُس کی
حمدگی کے خیال سے کلام میں کسی کلمے کو اپنی جگہ سے مقدم اور مخرج دیا
کرتے تھے۔ اس لئے کلامِ الٰہی میں کلمہ کو مقدم اور مخرج کیا گیا۔ اور یہ
تقدیم و تاخیر کسی اضطراری وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ تو قرآن پر اعلیٰ تعالیٰ
کی صراحتی تھی کہ قرآن ان کی زبان میں جس کو وہ جانتے تھے، نازل ہوا۔
تاکہ وہ اسے سمجھیں اور اس میں خوب غور و تدبیر کریں۔ الغرض اگر ہم کلمے
کی تقدیم و تاخیر کو اس طرح میں تو پھر توانا قسم کے کام مقدم و مخرج
ہونا صفاتِ کمال سے ہے۔ لیکن مشائخ نے اُسے اللہ تعالیٰ کے کسی
 وعدہ کو پورانہ کرنے کے ثبوت میں بطور نظیر کے جو پیش کیا ہے، اب
تم خود ہی دیکھ لو کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ باقی ہم نے تو ہیاں اس ضمن
میں صرف اُن کا قول اور اُس کی توجیہ عرض کی ہے +

اس سلسلہ میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ کسی وعدہ الٰہی کے متعلق مشائخ کا یہ
وہ بدلان جس کا کہ اُن پر انکشافت ہوا، یہ شاگ حق تھا۔ لیکن ہم یہ کہ
اس انکشافت کے بعد حب اُن مشائخ نے پہنچا اس وہ بدلان پر سورج بچار
کی تظاہر ہے وہ ہلوہ جو پہلے سے اُن کے ذہنوں میں لگتے ہو وہ اس
سورج بچار کی حالت میں اُن کے ذہنوں میں آموجود ہوئے۔ چنانچہ
ہمتوں نے ان عنصر میں کے پیرا یہ بیان میں اپنے اس وہ بدلان کی تاویل
کی۔ اور اس تاویل سے اُن کے دل غیر شعوری طور پر مطمئن بھی ہو گئے۔ اور
یہ بات قرآن قیاس بھی ہے۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے اور یہی جو اس سلسلہ میں

جو اس وقت نیز بحث ہے، پطور نظیر کے پیش گی جاسکتی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ اپنے بندے سے جو وعدہ کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لیکن اس وعدہ میں جس چیز کا ذکر ہوتا ہے، وہ کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی نہیں (اُسی طرح مشائخ کو جو وعدہ ان ہوتا ہے، وہ حق ہے) لیکن اس وعدہ ان کی جزوہ تعبیر و تاویل کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی گھری ہوتی ہوتی ہے۔ اب تم اس میں خوب غور و تدبر کر دو +

الفرض اس مسئلے میں واضح اور صریح حقیقت یہ ہے کہ جب بندے اور صاف طور پر ظاہر ہونے والی بخلی کی کیفیت کے درمیان حجاب حائل ہو اور بندے اور اس بخلی کی درمیانی فضلاً اتنی تنگ ہو جائے کہ ان دونوں میں انگوٹھے اور اس کے ساتھ کی انگلی کے بیچ میں جو جگہ ہے، اُس کے پر اپر گنجائش رہ جائے تو اس وقت بندے کو جو الہام ہوتا ہے، تو وہ الہام جس حالت میں کہ بندہ ہوتا ہے، اُسی کے مطابق حقائق کی بخلی کی ایک نئی صورت ہوتی ہے۔ چنانچہ حقائق کی یہ بخلی یا توهین ایسا کی صورت اختیار کرتی ہے، یا الہام کی یادی میں خود بخود کسی خیال کے پیدا ہونے کی، اور یا ہلت کی۔ اور اس بات کا اختصار کہ حقائق کی یہ بخلی کوں سی صورت اختیار کرے، قوائے دراکہ کی مختلف اسقادرے پر اور نیزاں وقت کن اسیاب کا فلکیہ ہوتا ہے، ان پر ہے۔ الفرض جیسے حالات ہوتے ہیں، اُسی کے مطابق حقائق کی بخلی ظہور پذیر ہوتی ہے +

اب رہ یہ سوال کہ الہام کے ذریعہ بندہ سے چودھر ہوتا ہے اُس کے پورانہ ہونے کا کیا سبب ہے ؟ سو اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مثلاً ملائے اعلیٰ کے اکابر میں سے ایک بڑے فرد کا اقتضا ایک شخص پر مشکلت ہوتا ہے۔ اب اگر اس اقتضا کی راہ میں کوئی چیز حاصل نہ ہو، اور اس کو پوری آزادی ہو تو حکمت الہی میں یہ طے تا کہ اس فروکی دعا قبول ہوتی۔ اور جس چیز کا دہ متعاضی تھا دہ پوری ہو جاتی۔ لیکن ملائے اعلیٰ کے اس فرد کے علاوہ اور بھی اقتضا لختے، جو اس فرد کے اقتضا کی طرح کے بساں سے زیادہ ضروری لختے اور حکمت الہی میں یہ طے ہے کہ جب دو اقتضا اُس قوت میں جو کہ طبیعت کلیہ میں بنزدہ انسان کی قوت عزم دادہ کے ہے، اور یہی قوت انسان کے، عصنا دگی حرکت کا باعث ہتی ہے، جس کے باعث اور دو تویں اُس میں کشکش ہو تو جس جس چیز کا یہ دلو اقتضا مطالیہ کرتے ہیں، اُن کے علاوہ کسی تیسری چیز کے حق میں فیصلہ کر دیا جانا ہے۔ اور عالم مثال میں کوئی دوسری صورت ظہور پذیر ہو جاتی ہے +

اب یہ شخص جس پر یہ واقعہ مشکلت ہوتا ہے، وہ پیشتر اُس قوت فائز مر کی ہصل تک جو طبیعت کلیہ کے عکپ میں منتکن ہے، تین ہی نتائج اس سلسلہ میں میرا خیال ہے ہے کہ طبیعت کلیہ کی یہ قوت فائز عرش میں ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے مرکزِ عرش تمام خناصر اور موالید یعنی جمادات، نہایات، اور انسانوں کا مرجع و حادی بن گیا ہے۔ الفرض

جس شخص پر یہ واقعہ منکشافت ہوا تھا، وہ طبیعت کلیہ کی قوت عازمہ کی حیل تک اس طرح پہنچ سکا کہ وہ اُس قوت سے بلا و مصلحتہ متعلق ہو جاتا، اور اُس سے بُل شاذہ علم حاصل کرتا۔ اس کے پر عکس یہ ہوا کہ وہ ملاد اعلیٰ کے اُس فرد کا جو اتفاقنا تھا اُس کے خلاصے اور صرف اُس کی خالص ہستہ تک یہ شخص پہنچا۔ اور اسی روزن سے اُس نے طبیعت کلیہ کی قوت عازمہ کو دیکھا۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اُس شخص کی نظر میں جو چیز کہ وہ دیکھ رہا تھا، اُس چیز کے ساتھ مبالغہ جس شیئے میں وہ اُس چیز کو دیکھ رہا تھا، اُس کا رنگ بھی مخلوط ہو گیا۔

چنانچہ اس کی وجہ سے وہ شخص اسباب کے اماظر سے قادر ہے۔ اور مصلحتیقت کی تھی تک نہ پہنچ سکا۔ اور اس شیئے میں اُس نے صرف ملاد اعلیٰ کے اُس بڑے فرد کے اتفاق، اور محض اُس کے حکم کو جانا + بات وہ اصل یہ ہے کہ ملاماً جمیٰ کے اس بڑے فرد کی ہستہ جو احکام کے موافق ہوں تو جمع کرنا بھی ہوتی ہے اور جو مخالف احکام ہوں ان کو وہ روکنی ہے۔ اور موافق احکام کو جمع کرنے اور مخالف احکام کو روکنے کی یہ کوشش غیر شوری طور پر اس شخص کے اندر بھی سراہیت کر جاتی ہے، جس پر ملاد اعلیٰ کے اس بڑے فرد کے اتفاق کا انکشاف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس شخص پر اس اتفاق کا انکشاف ہوتا ہے۔ تو ان اسباب کی بنابر جن میں سے بعض کا ذکر ہم کر جکے ہیں۔ اور بعض کا ذکر ہم نہ نہیں کیا، اُس شخص کے لئے یہ انکشاف خطاب کی صورت اختیار گر لیتا ہے۔ لیکن اس خطاب میں اس شخص

کو واقعہ کی بال مشافہ خبر نہیں دی جاتی کہ اس خبر میں کسی قسم کا کوئی شکنہ
ہے، اور وہ یقینی طور پر کبھی خبر نہیں۔ اس انکشافت کی دوسری صورت یہ ہوتی
ہے کہ اس شخص پر اجمالی ایک بات کا انکشافت ہوتا ہے۔ اور یہ اجمالی انکشافت
اُس کے لئے اجمالی الامام میں بدل جاتا ہے۔ چنانچہ اس شخص کے اس
الامام پر جو اُس سے اجمالی انکشافت کے ضمن میں ہوتا ہے، وہ علوم جو پہلے
سے اُس کے سینے میں جمع ہوتے ہیں، پورش کرتے ہیں۔ اور فیر شوری
لہو پر وہ اس شخص کے اس الامام کی اپنے رنگ میں شرح کرتے ہیں، باہم
اسی طرح جس طرح کہ جب کسی شخص کو خواب میں کوئی اجمالی انکشافت ہوتا
ہے تو وہ علوم جو اس خواب دیکھنے والے کے سینے میں پہلے سے موجود
ہوتے ہیں، وہ اُس کے اس انکشافت اجمالی کو روایا کی شکل فی ویسے ہیں،
اور اُس کو اس روایا کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اس شخص
کو اپنے انکشافت اجمالی کے لئے بھی جو بعد میں الامام کی صورت اختیار
کر لیتا ہے، اور پھر اُس کے سینے میں پہلے سے جو علوم جمع ہوتے ہیں،
وہ اُس الامام کو اپنے رنگ کی تاویل دے دیتے ہیں۔ الفرض اس انکشافت
اجمالی کو بھی جو الامام اور اس طرح کی تاویل سے مخلوط ہوتا ہے، تعبیر کی
ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ انکشافت اجمالی کے مسلسلہ میں
اُس شخص کو جو الامام ہوا تھا۔ اور اُس نے اس الامام کی جو شرح کی بھی
اور یہ شرح جیسے کہ اور بیان کیا گیا ہے، اُس شخص کے اندر پہلے سے
جو علوم جمع ہتے، ان کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اب اگر یہ صحیح ہے

تو اُس شخص کو اس شرح سے طہانیت اور سکون کیوں حاصل ہوا ہے بات یہ ہے اُس شخص کے اس سکون اور طہانیت کا اعتبار میں کرنا چاہئے۔ یہ تو دراصل اُسے اس انکشافت اجمالی کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ جو اس شرح میں بطور اساس کے محفوظ تھی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو انکشافت اجمالی ہوا پھر اُس شخص کے اپنے نفس کے دموم سے، اُس کی طبیعت کی جلد باری اور شیطان کے بہلاوے اُس پر مل پڑے۔ اور اُنہوں نے اس شخص کے اندر ایسا اشتباہ پیدا کر دیا کہ اُس شخص کی نظر اصل واقعہ۔ اور بعد کی ملدوں میں تمیز نہ کر سکی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے اُس پر اصل حقیقت کا انکشافت نہ ہو سکا۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے واقعہ کو اس مخلوط صورت میں دیکھا۔ اُس نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ اشد تعالیٰ نے مجھ سے خلاں چیز کا وعدہ کیا۔ لیکن وہ وعدہ پورا نہ ہوا۔ اب ایک اور شخص ہے جس پر ایک واقعہ کا انکشافت ہوا۔ اور اس نے اُس کی ایک ایک چیز کو الگ الگ صاف دیکھ لیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ وعدہ اجمالی ہے۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ وعدہ کسی رنگ میں اور کس قابل میں پورا ہٹا ہو۔ باقی رہے وہ انکشافت اجمالی کہ جس شخص کو یہ انکشافت اجمالی ہٹا نہیں، اُس کے سینے میں پہنچے جو علوم محفوظ تھے، اُس نے ان علوم کی روشنی میں اس انکشافت اجمالی کی شرح و تفسیر کی، تو واقعہ یہ ہے کہ اس انکشافت اجمالی کی تعبیر کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ صحیح طرح نہیں ہو پاتی

یا اس سلسلے میں سچ کے ساتھ جو بھی مل جاتا ہے: اور یہ چیز خاص نہیں رہتی۔ لیکن یہ دونوں کی دو نو صورتیں تو ان دو گوں کو بیش آتی ہیں، جو درجہ متوسط کے حارف ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہماریں میں سے اہل کمال کا تعلق ہے، وہ تو ان خطروں سے بالکل مامن رہتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں اُن کو بھی بے شک تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ اُنہیں وجود کے قیمود کے جواہ کام و قوانین ہیں، اُن پر پُردہ سبور ہوتا ہے۔ اس لئے اُن کو تعبیر میں اتنی وقت نہیں ہوتی۔ اور ایک خصوصیت اچھائی سے جو داقعہ مقصود ہوتا ہے، وہ اُن کے لئے مشتبہ نہیں رہتا۔ باقی اللہ ان چیزوں کو بہتر جانتا ہے ۴

اس مشاہدہ میں یہ تحقیقی تمثیل بھی ہے — تین معلوم ہونا چاہیے کہ اس عالم میں خلوقات کے ظہور کی جو علتیں، میں اُن کا سلسلہ ارتقاء آخريہ میں جا کر ارادہِ الٰہی پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن خود اس ارادہِ الٰہی کی تھی اپنی ایک خلت ہوتی ہے۔ جس سے کہ اس کا صد برہوت ہے، اور وہ علت ہے ذاتِ الٰہی کا خود اپنا انتقام ارادہ کے لئے۔ اور ارادے کا ذریعہ ہونا ذاتِ الٰہی کے لئے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، جس میں کسی کوشک نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ ارادہ بذریعت خود و جو داعیب، ہنس ہے۔ البتہ ذاتِ داعیب الوجود کے لئے ارادہ کا ہونا بہت سرکاری ایک داعیب شے کے ہے کیونکہ

یہاں ایک بہت ہی مشکل سوال سامنے آتا ہے ۔ اور وہ یہ ہے کہ کیا ارادے کا تعلق ذاتِ الٰی کے سوا جو چیزوں ہیں، اُن کو چھوڑ کر محض اُس ذات کی اپنی خصوصیت کے، اختیار سے ہے ۔ اور نیز اللہ تعالیٰ کی صاحب ارادہ ذات کے لئے اس ارادے کا واجب ہونا، اس بات کی طرف نہیں لے جاتا کہ یہ ارادہ خود ذات واجب الوجود کے لئے وجود کا حکم رکھتا ہے ۔ یا کیا ذات واجب الوجود کے لئے اس جست سے ارادے کا واجب ہوتا ہے ذات واجب الوجود کی طرف نہیں لے جاتا ۔

جس طرح کہ خود ذاتِ الٰی کے لئے ارادے کا دجوب اُسے اُس ذات کی طرف لے جاتا ہے ۔ المغرض یہ ایک اپیسا راز ہے جو اکثر لوگوں کے لئے مخفی رہتا ہے ۔

اس معاملے میں حق بات یہ ہے کہ جو خود اپنی اصل ذات میں اپنی ذات اور اپنے وجود کے واجب ہونے کے وصف سے خالی ہے، وہ ہر اُس کمال سے جو اُس کے واجب ہونے اور اُس کے وجود میں آنسے کے بعد اُس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ جہاں تک کہ خود اُس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، وہ اس اختیار سے اُس کمال سے بھی خالی ہو گا۔ چنانچہ اُس کو اس کمال سے وہی آرائش کرتا ہے جس ذات نے کہ خود اُس کو اپنی طرف سے دجوب کی غلبت بخشی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ذات واجب الوجود سے ارادے کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کہ اُن تاثیر کرنے والی استعدادوں کے بسط و ظور کا جنیں "ہمارہ" کا نام دیا گیا ہے، اور تھیز اُن تاثیر کرنے والی "متعدادوں

اک جنہیں اعیان "کہا جاتا ہے، ذاتِ واجب سے تعلق ہے یعنی جس طرح ان اسماں اور اعیان کے ظہور کے لئے ذاتِ واجب کا اقتضانا ہوتا ہے۔ اور ذاتِ واجب کے لئے ان اسماں اور اعیان کا ہونا لزوم میں سمجھے جائے ہے یعنی طرح ذاتِ اجنب کے ساتھ ارادے کا تعلق ہے۔ یہ جو دو مشکلیوں کی استعدادوں ہیں ان کے ظہور کی ایک حد مقرر ہے جو خود ذاتِ واجب کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے کہ اس میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی۔ اب یہم اس سے کی دضاحت کے لئے ایک مثال دیتے ہیں۔

ایک حساب کرنے والا اجنب حساب کرتا ہے تو اس کے حساب کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حساب کرنے والے کا ارادہ ایک کے عدد سے متعلق ہوا تو اس سے ایک کا عدد بنا۔ اور جب ایک کے عدد کو اس کی نظر نے دوبار دیکھا تو دو کا عدد معرض وجود میں آیا۔ اور اسی طرح جب اس نے ایک کے عدد کو تین بار دیکھا تو تین کا عدد بن گیا۔ غرض یہ کہ جب حساب کرنے والا کا ارادہ ایک سے دو، دو سے تین = اور اسی طرح تین سے جو اگلا عدد اس کو اس سے، اور پھر اس سے جو اگلا عدد ہے، اس کو اس سے مختلط اچلا جائے گا تو جہاں تک کہ حساب کرنے والے کے علم کی حد ہوتی ہے اس حد تک اس ایک عدد سے اکائیاں، دمائیاں، سینکڑے اور ہزار بیکار چلے جائیں گے۔ چنانچہ جہاں تک کہ حساب کرنے والے کی عقلی فرض کر سکے۔ وہ ان اعدادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر صحیح کرتا ہوا چلا جائے گا۔ بیان تک کہ یہ اعداد اپنی اس شکل میں لا نہایت حد تک پہنچ جائیں۔ اب ان تمام اعداد کو اتنی کی حصل کی نسبت سے جو ایک کا عدد ہے، اور جس

کہ یہ سب اعداد نکلے ہیں، دیکھئے تو یہ سب اعداد ایک کے عدد میں محسوس نظر آئیں گے، اور ان اعداد میں آپس میں جو فرق مرتب ہے تو وہ اس ایک عدد کے اعتبار سے نہیں ہو گا، بلکہ جس طرح یہ اعداد درجہ پدر جہے اس ایک کے عدد سے نکلے ہیں ان میں فرق مرتب اس لحاظ سے ہو گا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اعداد کی ان بے شمار صورتوں کے ظہور کی علت صرف اتنی ہتھی کہ محاسب کے اندر حساب کرنے کا ایک کمال موجود تھا۔ چنانچہ محاسب نے اپنے اس کمال کو ظہور میں لانے کا رادہ کیا۔ اور اس طرح یہ اعداد معرض وجود میں آتے چلے گئے۔ باقی رہ خود ان اعداد میں جو ترتیب الحضار اور الضباط ہے کہ اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ بیشی، تو یہ چیز تو محاسب کے ارادے کی فعلیت سے پہلے ہی ان اعداد کی خود اپنی طبیعت میں موجود ہتھی ماوراء کا رادہ جب ان اعداد کو اس ترتیب والضباط سے وجود میں لانا ہے تو وہ گویا ان اعداد کی جو اپنی طبیعت ہوتی ہے اور انکے ظہور کے جواہکام بسوتے ہیں، وہ صرف ان کو پیش کر دیتا ہے۔ اب جو ہم چیزوں کے بنائے اور ان کے ایجاد کرنے کو ان چیزوں کی "ماہیات" کی طرف منسوب کرتے ہیں تو "ماہیات" کی طرف ہمارا ان چیزوں کوئی شے عدم سے وجود نہیں آتی۔ عدم سے تو عدم نہی برآمد ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اشیائے عالم کس طرح وجود میں آئیں۔ بات یہ ہے کہ ہر شے قبل تخلیق حق تعالیٰ کے علم میں موجود ہتھی پھر اس نے ان اشیاء کی خارج میں تحریک کی۔ یعنی ہر شے خارج اُما ملکوں ہے جو تعالیٰ پسکے قابوں ہیں۔ اور اشیاء کی ذرات قبل تخلیق علم الہی میں ثابت ہیں۔ وہ معلومات حق ہیں صور علمیہ حق ہیں۔ صور حیا کی اصطلاح میں ان فوات اشیاء کو "اعیان فنا نیہ" کہتے ہیں۔ اور ان کے دوسرے نام "ماہیات اشیاء" ہو حقائق اشیاء ہیں۔ (مترجم)

کا نہ رکن کرنا ایسا ہی ہے، جیسے ہم اپر کی صورت میں اعداد کے عدوم سے
 درود میں آنے کو محاسبہ کی تائیر کا پتھر پتا تھے ہیں۔ اور "ماہیات" سے ان
 چیزوں کے ظہور پر پر ہونے سے پہلے، ان چیزوں کی ان "ماہیات" اور ان
 کے لوازم کو اُس ذات حق سے جس سے کہ ان "ماہیات" کا فیضان ہوتا ہے
 ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ان اعداد کے ترتیب و اور مدارج کو اُس ایک کے
 عدوم سے ہے، جس سے کہ یہ اعداد نکلتے ہیں، اور ایک عدد کا دوسرا یعنی
 پرد لقدم اور ان میں جو فرق مراتب ہے، یہ چیز خود ان اعداد کی اہل طبیعت
 میں داخل ہے۔ الغرض جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس سے لوگ، جو یہ
 کہتے ہیں کہ "ماہیات" فیرعوں میں، یعنی یہ بنائی رحل، میں گئیں۔ بلکہ
 ان کے بنائے اور ایجاد کرنے کا مطلب صرف ان کا ظہور اور فیض مدرس
 ہے، تمیں اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اب ارباب ان "ماہیات"
 کا ربط و تعلق اُس ذات حق سے جو ان کی فیضان کرنے والی ہے، تو ذہ
 نعلق ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک کے عدو سے بعد میں اُس ایک سے جو
 اعداد نکلتے ہیں، ان کا ہوتا ہے۔ اور ان "ماہیات" کے اندر ان "ماہیات"
 کے جو خواص ہیں، ان کے تعین کو پوچھئے۔ جیسے کہ اعداد میں ان کی
 درجہ بدرجہ مراتب کی خصوصیات ہیں کہ فعلاً وجود میں آنے سے پہلے ان کا
 وجود مفترض ہوتا ہے۔ اور "ماہیات" کے ان خواص کا وجود مفترض سے
 وجود فعلی میں آنا عبارت ہوتا ہے ان کے ظہور اور فیض افراد سے۔
 الغرض جس طرح اعداد کا سلسلہ یہ کے عدو سے لے کر لامتناہی

تک بعلی استریپ پلاگیا ہے۔ اور اعداد کا پیسے کا سارا الاتنا ہی سلسلہ ایک کے اندر فرضیا اور تقدیر اموجو ہے نہ کہ فعل۔ اسی طرح طبیعت کلیہ کے اندر جو بھی اُس کے ادارکان، اور نیز جو بھی جمادات، نباتات اور حیوانات ہیں، ان سب کا ایک مرتب سلسلہ جس کے خواص اور مراتب معلوم ہیں موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طبیعت کلیہ کے انہی حقائق کی دیانت سے یہ کہلوایا ہے "وَمَا مِنْ آلَّهٗ مَقَامٌ مَعْلُومٌ" یعنی ہم میں سے ہر ہر حیز کا ایک مختص مقام ہے۔ اس طبیعت کلیہ سے انواع کا ظہور ہوا اور انواع کا ظہور حسابیں حسب ہم احتیاطی کا طریقہ ہے اُس کے مطابق ہوا، یعنی ان میں نہ مزید کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور نہ کمی اور ابد تک کی اور بیشی کا کوئی امکان نہیں۔ ان انواع سے پھر افراد ظاہر ہوتے اور افراد کے ظاہر ہونیکی صورت یہ ہے کہ فلکی اور ارضی اتصالات انواع پر اثر انداز ہوتے اور ان کی ایک دفعہ سبب اور باعثت بنتی دوسری دفعہ کے موجود میں آئے گی۔ اور اس طرح ان سے افراد کا سلسلہ غیر متناہی حد تک پھیلتا چلا گیا۔ قصہ مختصر لامہیتہ الماجیات اور حقيقة الحقائق سے انواع و افراد کا یہ جو سلسلہ لامتناہی حد تک پھیلتا چلا گیا ہے، یہ سب کا سب سلسلہ حقيقة الحقائق اور ہشیار کے ہمیں بیپیٹ میں ہے۔ معتبر فرض اور امکان کے نہ کہ بمحاذ تعین بالفعل کے موجود ہمما، لہ وَمَا مِنْ آلَّهٗ مَقَامٌ مَعْلُومٌ فَإِنَّا لَنَخْنُو الصَّافُونَ

سورہ العنكبوت ۱۴۱

یہ تقسیم صریح مُراد ای تشبیم ہے، جس سے آگے کوئی اور تقسیم نہ ہو سکے۔ مترجم سعہ افلاک و کو اکب کے اثرات کا عقیدہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ نفوس انسانی کی انفلوی خصوصیات کا سبب نکتہ قدیم ہیں ان اثرات کو مانا گیا ہے۔

اس کے بعد حقیقت الحقائق کا خارج سے ربط قائم ہوا۔ چنانچہ خارج میں اس کی صورت آگئی۔ اس خارج کے ساتھ حقیقت الحقائق کا ربط ایسا ہے جیسے کہ ماہیات کی خصوصیات اور اُس کے نوازہم کا اپنی ماہیات سے ہوتا ہے۔ اب حقیقت الحقائق نے خارج میں جو اپنے ارادے اور اختیار کی تھی فرمائی تو اس سے طبیعت کلیہ کا صدورہ عمل میں آیا۔ اور یہ طبیعت کلیہ شخص واحد کی طرح ایک وجود ہے کہ اس سے خود اُس کے ذریعہ اُس کے ارکان و عناصر ظاہر ہوتے۔ اور پھر ارکان و عناصر کے مترادج سے مواليز یعنی جمادات پہنچتا اور حیوانات کا ظہور ہی اس طبیعت کلیہ نے جو شخص واحد کی طرح ایک ہے اپنے رتب کا جو کیتا دبے نیاز ہے، خود اپنے خیال میں اور اک گیا۔ تو اسکے اس طرح اور اک کرنے سے طبیعت کلیہ کے اندر اشد تعالیٰ کی ایک علمی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ صورت ایک اختیار سے محض ایک علمی کیفیت ہے اور ایک اختیار سے یہ علمی صورت پڑات خود سے معلوم ہے۔ اور ایک اختیار سے یہ فقط علم ہے۔ طبیعت کلیہ کے اندر اس طرح علمی صورت کا قیام یہ اُس کی پہلی تخلی ہے۔ اس کے بعد طبیعت کلیہ کی یہ تخلی مقید و محدود ندارک میں تازل ہوئی۔ اور ان مقید و محدود ندارک نے اُن بارگاہوں کی صورت اختیار کی، جن میں سے ایک بارگاہ "خطیرۃ القدس" ہے ۔

لہ حقیقت الحقائق وجود باطن ہے۔ جب اس وجود باطن کا ظہور ہوتا ہے تو وہ خارج ہے۔ (مسترجم)

اُنسا میسواں مشاہدہ

انسان کے اخلاق میں سے ایک خُلق "سمت صالح" کے نام سے
موسوم ہے۔ اور اس کی حقیقت عبارت ہے ایک شخص کے نفس ناطقہ
میں اپنے اُن اعمال اور اخلاق کے متعلق بسیداری سے، جو نفس ناطقہ اور
اُندر کے یا اُس کے دوسرے لوگوں کے درمیان ہیں۔ اور نیز یہ خُلق عبارت ہے، نفس ناطقہ کے
نظم صالح کی طرف ہدایت پانے سے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے سطح ہدایت پانے سے راضی
ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا بھلا چاہتا ہے تو وہ آس
کو اُن اعمال اور اخلاق کی جو اُس بندے کے اور دوسرے لوگوں کے
درمیان ہوتے ہیں، صحیح معرفت عطا فرماتا ہے۔ اور اسے نظم صالح
کا راستہ دکھاتا ہے۔ اُس بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معرفت
اور ہدایت کا فیضان اُس بندے کی کسی کاوش اور تردود کا صلہ نہیں ہوتا۔

یا کہ بارگاہ و رحمت کے اس فیضان کو ایک برکت سمجھئے جو خلق سمت صالح کو عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی مطلب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کہ ہم نے ان لوگوں کی طرف اپنے کام کرتے اور نماز فائِم کرنے کی وجہ بھی۔ اور بندے کے اندر ایجاد فعل کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی صورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر ان اعمال و اخلاق اور صالح نظام کا علم ایجاد کیا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ بھی جب تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اعمال و اخلاق اور نظام صالح کی ہدایت نہ ملے بکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس ضمن میں اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ پارگاہ و رحمت سے بال مشافہ طور پر بغیر کسی واسطے کے اس ایجاد فعل اور ایجاد علم سے مستعین نہیں ہوتے۔ اس لئے اس سلسلہ میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ پر رحمت انسانوں میں سے کسی ایسے کامل کی طرف متوجہ ہو جو اپنی جمیلت کے تقاضے سے اس امر کا ستحق ہو کہ ایک انسان پر طبیعت کے جو احکام حاصل ہوتے ہیں، وہ ان سے بالآخر ہو جائے۔ اور پھر وہ کامل انسانوں کی جس جماعت میں ہو، اُس۔۔۔ کے مزاج سے اور اُس جماعت کے مناسب جو اعمال و اخلاق میں، ان سے اور نیز اُسکی جماعت کے لوگ اپنی حیوانی طبیعتوں سے ترقی کر کے کس طرح قربت الہی کے اُس دریے تک جو ان کے لئے مقدر ہو چکا ہے، وہ بہنچ سکتے ہیں۔ اُس طریقے سے، اس طرح ہم نوا ہو جاتے کہ اُس کامل کا انفرادی وجود

اُس کی جماعت کے اجتماعی وجود میں فنا ہو کر بقا حاصل کرے۔ اور پھر اس کامل میں نظر تباہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ اپنی طبیعت کے مقام پست سے رُوح کے مقام قدم کی بلندیوں کی طرف چل بہو سکے، تاکہ وہاں اُس کا نفس جن اعمال طلاق کا ذکر شروع میں ہو چکا ہے اُن کے اور نظام صالح کے رنگ میں رنگا جائے۔ اور وہ ان دونوں چیزوں پر اُن کی خوب تحقیق کرنے اور اُن کو اپنی طرح جانے کے بعد اپنی طرح سے حاوی بھی ہو جائے، الغرض وہ کامل جس کے اوصاف یہ ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کامل کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ اُسے اپنے سماں منضم کر لیتی اور اُس کو اپنے دامن میں دھانک لیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سترالیٰ جو مطلوب مقصود ہوتا ہے، وہ اس کامل کے اندر نقش ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر اس ستراجمالی کا نقش جس جماعت میں کہ یہ کامل ہوتا ہے، اُس جماعت کے لئے احکام و قوانین کے قالب میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کامل سے یہ ستراجمالی تو الگ ہو جاتا ہے، لیکن اُس نے اس ستراجمالی کا علم اپنے ہاں محفوظ کر لیا ہوتا ہے۔ اب اس مقام سے گزرنے کے بعد جب یہ کامل سوچ، بچار اور حوزہ تلقیر کے مقام میں وارد ہوتا ہے تو جو کچھ پہلے اس کے علم میں محفوظ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اب اس کامل کی زبان پر آ جاتا ہے۔ چنانچہ انہیاں نے کام پر دھی کے ذریعے جو شریعتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اولیاء پر کثرت والہام کے ذریعہ جن طرق تصوف

کانزدول ہوتا ہے، اُن سب کی حقیقت درصلی یہ ہے +
 الغرض وہ شخص جو بالشافہ بارگاہِ رحمت سے مستقید نہیں ہو سکتا
 اور وہ اس سلسلہ میں واسطے کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ کامل جس کے کہ
 اوصاف اور گزر چکے ہیں، اس شخص کے لئے بارگاہِ رحمت سے استفادہ
 کرنے کا واسطہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہ شخص اُس کامل کی بات ہوتا ہے۔
 اور اُس کے لئے اس کامل کے ارشادات دلیل راہ بنتے ہیں نظام صالح
 تک پہنچنے کے۔ اور اس ضمن میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی فطرت اُس کامل
 کی طرف بڑھتی ہے۔ اور وہ جہاں تک کہ اُسے توفیق الی میسر ہوئی
 ہے۔ اور جس حد تک کہ اُس کی فطری استعداد اُس کی سازگاری کرتی
 ہے، وہ "ہمت صلح" کے خلق اور حکمت اور دانائی کے خلق کو اخذ
 کر لیتا ہے۔ اور عوام کے اطوار و اعمال سے کناڑہ کش ہو جاتا ہے۔ اور
 اس سے اُس شخص میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صارع نظام
 جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس نظام کو شخص مذکور اپنی آنکھوں کے
 سایمنے متشتمل پاتا ہے۔ اور یہ نظام اُس کے لئے بطور ایک کسوٹی کے
 بن جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے تمام حالات کو اس پر پرکھتا ہے۔ قدر مختصر
 اس طرح وہ شخص یہ معاویت حاصل کر لیتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے
 ہو جاتا ہے جن کو کہ صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا کی گئی +
 مثال کے طور پر میدانا عمر رضی الشرعہؒ ان کاملوں میں سے تھے۔
 چنانچہ آپ کی عقل میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنی ذاتی استعداد

کے مطابق جو کچھ بھی حاصل کر سکتی تھی، اُس کو حاصل کرنے کے بعد وہ اُمت کے احوال اور معاملات کو بھی جانے اور پہچانے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدنا عمرِ رضا کی اسی عقلی صلاحیت کی طرف اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔ ”تم سے پہلے جو امتیں ہٹیں، ان میں محدثین ہوتے تھے۔ اس اُمت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمرِ رضا ہیں۔“ اور اسی سلسلہ میں آپؐ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرِ رضا ہوتے“ ۷

اب واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس حلم کا ایک حصہ عطا کیا۔ اور لوگوں کے لئے قربِ الہی کے جو مشرب اور طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ان کی حقیقت سمجھائی۔ چنانچہ اس بارگاہ سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب تک ”نورِ طہارت“ کو نہ پہچانے۔ اور وہ یہ نہ جان لے کہ اُدمی سے یہ نورگس طرح زائل ہو جاتا ہے۔ اور نیز جب تک اُسے اس بات کا علم نہ ہو، کہ اس نور کے اور اُس شخص کی جو اپنی طبیعت ہے، اُس کے درمیان کون سے حجابِ حائل ہوتے ہیں اور جب انسان پر اُس کی طبیعت کو غلبہ ہوتا ہے، تو اُس فلے کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اور طبیعت کے اس فلے کے تدارک کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب تک وہ ان سے باخبر نہ ہو۔ اور پھر جب تک وہ نفس کی ان پہنچوں کو نہ معلوم کر لے جن کے ذریعے طہارت کے نور کو زائل ہونے کے بعد دوبارہ نفس میں پیدا کیا جاسکتا ہے۔ الغرض جب تک

وہ نورِ طہارت کے ضمن میں ان چیزوں سے واقع نہ ہو بلکہ اُس نے
ان میں سے ایک ایک پر کا خود تجربہ نہ کیا ہو۔ اور اس اعتبار سے
اُس نے اپنے آپ کا اور اپنے نفس کے ان نشیب و فراز کا پورا علم حاصل
نہ کر لیا ہو۔ اور اس کے بعد جب تک وہ یہ نہ جانتا ہو کہ سجدہ بے میں
مناجات کرنے سے کیا لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب تک اُسے
اس بات کا علم نہ ہو کہ اسی حالت میں روح میں کتنی رقت اور
جلال پیدا ہو جاتی ہے کہ اُس کی وجہ سے اُس کی روح کے اور اُس کے
درمیان جو حجاب ہوتے ہیں وہ اگھٹ جاتے ہیں۔ اور وہ مناجات میں اللہ
 تعالیٰ کے اس طرح روپ و ہو جاتا ہے جیسے کہ اُسے سامنے دیکھ رہا ہے۔
اور نیز جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ دل سے اس طرح پر دے کے اُٹھنے
کے بعد پھر دوبارہ کیسے اُس پر پردے پڑ جلتے ہیں۔ اور شروع و خاتم
کے وہ کون سے کلمات ہیں اور بدن اور نفس کی وہ کون سی آئیں ایں اچنکی
پردے سے پھر ان پر دل کو دل سے ہٹایا جا سکتا اور کئی ہوئی کیفیت حضوری
کو وہ پس لایا جا سکتا ہے۔ اور جب تک وہ "القین" کی نعمت سے بہرہ یاب
نہ ہو جائے۔ اور "القین" سے میری مراد اللہ کے متعلق پوری جمیعت غاظ
اور اُس پر اعتماد کے ہیں۔ اور نیز جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ "القین"
کی اس نعمت سے ہی دُنیا اور آخرت کی بھلانی کے لئے بجز و الماح
دعا کرنا، اور اس حقیقت کی معرفت میں کہ خود اُس کے اپنے اعمال و
اخلاق، اور نیز زمانے کے حوادث و مصائب اُس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ

یہ سب چیزوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ہجھ چاہتا ہے، کرتا ہے یعنی راسِ حقیقت کی معرفت میں اُس کے دل میں جو دستے پیدا ہوتے ہیں، ان سے خدا کی بناہ مانگنا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے چیسے کہ شروع میں ذکر کیا گیا ہے، بمحض واجح دعا کرنا، یہ دلوں کی دونوں بائیں اسی "یقین" کی وجہ سے ہی تھوڑی میں آتی ہیں۔ یعنی جب تک وہ اس کو نہ جان لے کہ یہ "یقین" ہی ہے جو ہر کام میں جو اُس سے پیش کرتا ہے۔ اُس کو اخخارہ کرنے کی راہ دکھاتا ہے اور کھپراہٹ میں دُعا کو پناہ کا وسیلہ بنانا سمجھاتا ہے، اور یہ "یقین" ہی ہے جو علم و معرفت کی لغزشیوں میں اضطراری طور پر اُس سے توبہ و استغفار کر لائے اور تیرجیب تک وہ یہ نہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے لئے دنیا اور آخرت میں جو جو نعمت تیار کر رکھی ہے، اور جس کا کہ مال قرب الہی اور جنت ہے، یہ جسم کی سب فانی اور عارضی لذتوں سے بہتر ہے۔ اور اس طرح جیب تک وہ یہ نہ جان لے کہ "طبعیت" کا حباب کیا ہوتا ہے اور وہ حباب انسان پر کس طرح غالب آ جاتا ہے۔ اور نور طہارت اور اُس سے دل میں جو طہارت پیدا ہوتی ہے، "طبعیت" کا یہ حباب اس میں لہ عرفان نفس کو عرفانِ حق کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ایک شخص کے لئے اس عرفان نفس کی راہ میں یہ تین حبابِ غالب ہوتے ہیں۔ حباب طبیعت، حبابِ رسم اور حبابِ حنو، معرفت طبیعت کے غلظہ اور فاسد تفاصیلے حباب طبیعت میں شمار ہوتے ہیں اور حبابِ رسم سے مُراد جماعت اور قوم کی بُری رسمیں ہیں۔ اور حبابِ حنو معفرست علم کی لغزشیں ہیں۔ مترجم

کس طرح گذہ بڑھ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر کس طرح طبیعت کو زیر کر کے اس حجاب کا غلائچ کیا خواستکرتا ہے۔ اور آخر میں جب تک وہ یہ زندگانی کے کہ "رسوم" کا حجایہ کیا ہے۔ اور "معرفت" کا حجایہ کیا ہے۔ اور ان کو کس طرح دُور کرتے ہیں ۷

الغرض جو شخص اپنے کی ان چیزوں کو بنفس خود جان لیتا ہے، خواہ اُس کا ان چیزوں کو یہ جانتا اپنی ذاتی استعدادی کے مطابق ہو، وہ شخص اللہ تعالیٰ کا فریب حاصل گرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان کی بخشش سراہیت کئے ہوئے ہوتی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نفس کے خود سی طبیب بنو۔ اس لئے تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم ان علوم کو جن کا ذکر اور پڑھوادھے پس پشت ذاتے میں احتراز کرو ۷

چالیسوال مشاہدہ

اللہ تعالیٰ نے مجھے رُوح کی حقیقت سے مطلع فرمایا۔ اور بے شک روح عبارت ہے اُس شے سے کہ جب وہ بدن سے جدا ہوتی ہے تو انسان مرجاتا ہے۔ اور پیز روح ہی سے انسان میں احساس، حرکت اور زندگی ہے۔ اب روح کے کئی طبقے اور کئی لیٹیفی ہیں۔ اور روح کے ان طبقوں اور لیٹیفیوں میں جو چیز بدن سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ جسم ہوائی ہے۔ یہ "جسم ہوائی" قلب میں ترکیب پاتا ہے، اور وہاں سے یہ سارے بدن میں ھپیل جاتا ہے۔ اور یہی "جسم ہوائی" انسان کی ادرائی اور طبیعی قوتوں کا حامل ہے۔

"جسم ہوائی" کے بعد روح کا دوسرا طبقہ "حقیقت مثالی" ہے اور اس سے مُراد روح کی دوہوچیت ہے جو عالمِ ناسوت میں آنے سے پہلے

عالم مثال میں شکل پذیر ہتھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ذریت آدم سے جو
حمد و پیمان لینے کا ذکر ہے تو یہ حمد و
پیمان ہمیں آدم کی ارادت کی ان مثالی حقیقتوں سے ہی لیا گیا تھا۔ اس
کے بعد روح کا "میرا طبقہ" حقیقت روحیہ ہے۔ اور یہ صورتِ انسانیہ
کا ایک حصہ ہے۔ اور قوائے افلاک و عناصر کے جو شخص عوارض ہیں، وہ
اس کو اپنے اندر سلسلہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اپنے خاص احکام
ہیں۔ اس کے بعد روح کا "صورتِ انسانیہ" کا طبقہ ہے۔ اور روح کا یہ
طبقہ افراد اور اشخاص سے جن میں کہ یہ "صورتِ انسانیہ" شخص ہوتی
ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد "صورتِ جوانیہ"، پھر "صورت نامویہ"
اور اس کے بعد "صورتِ جسمیہ" ہے۔ اور پھر طبیعت کلیہ کا ایک حصہ پھر
باطن الوجود کا خارج کی روح پر سبسط ہونا ہے۔ اب جو شخص روح کے ان
طبقات اور لطائف کے پیش نظر کہتا ہے کہ روح عبارت ہے ایک جسم
لطیف ہے، جو بدن میں اس طرح حلول کئے ہوئے ہے جیسے کہ کوئی
میں الگ ہوتی ہے۔ تو بے شک یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے۔ اور اسی
طرح جو شخص اس کا قائل ہے کہ روح ایک مجرد حقیقت ہے، تو وہ بھی
سچا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ روح قدیم ہے تو وہ بھی سچا ہے۔ اور اسی
طرح جو شخص کہتا ہے کہ روح حادث ہے، تو وہ بھی سچا ہے۔ الغرض
از شادِ خدادندی کے مطابق "لکلی وجہہ هو مو لیشہا" ہرگز وہ
کی اپنی ایک سمت ہے، جس کی طرف دہ رُخ کرتے ہیں۔

لیکن اس ضمن میں یہ بات مخفی نہ رہے کہ ایک ہی تعبیر پر اختصار کر لیتا
قصور ہوتت کی دلیل ہے ہے ہے

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی شامل ہے —— رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا اپنی محنت ہوتی ہے،
جو خود مقبول ہوتی ہے یہ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ”ہر نبی نے اپنی اپنی
دعا انگلی۔ لیکن میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے۔ اور وہ میں قیامت
کے دن اپنی اُستت کی شفاعت کئے لئے مانگوں گا۔“ اب اگر تم یہ کہو کہ ہر
نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سے زیادہ مقبول ہونے والی دعائیں
عطای ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی بہت
سی مقبول ہونے والی دعاؤں سے بہرہ یا بہرہ ہوتے ہتھے۔ مثلاً آپ نے باش
کئے دعا کی اور وہ مقبول ہوتی۔ اور اسی طرح اور بہت سے مواقع پر
آپ نے دعائیں کیں، اور وہ مقبول ہوتیں۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور آپ کے اس
ارشاد کے سپاٹ و سپاٹ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی صرف ایک
ہی دعا ہر نبی کو محنت ہوتی ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ
کون سی دعا ہے۔ اس کے جواب میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ دعا جس کا ذکر
اس حدیث میں آیا ہے، اُن دعاؤں میں سے نہیں جو عام احتراض میں

لے کسی خاص غرض سے خصوصی تعلق رکھنے کی بنا پر اُس کے لئے کی جاتی ہے بلکہ اس دعا کی نوچیت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ پستے بندوں سے لطف و کرم اور ان کے ساتھ اپنی رحمت کے پیش نظر کسی رسول کو بیجا ہے تو اس ضمن میں بندوں کی ان دو حالتوں میں ہے ایک حالہ ضرور ہوتی ہے۔ یا تو وہ اُس نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ اطاعت ان کے حق ہے۔ اس نبی کی اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے فیضان کا باعث بنتی ہے۔ اور یادہ اُس نبی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر جملہ لطف و کرم ہوتا ہے، وہ نارِ ضلگی اور عذاب میں بدل جاتا ہے۔ الغرض بندے نبھ کی اطاعت کریں یا اُس کی نافرمانی، ہر حال ان دو حالتوں میں سے کوئی بھی حالت ہو، نبی کو اس سلسلہ میں الامم ہوتا ہے۔ اور اس الامم کی مت یہ ہوتی ہے کہ اُس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ وہ ان بندوں کے لئے دُعا کرے یا ان کے لئے پڑ دعا کرے، اور جس کی طرف جدید ہیں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہ دُعا اللہ تعالیٰ کے اُس لطف و کرم کا نتیجہ ہوتی ہے جو باعث بناتا ہے بندوں کی طرف اُس کے رسول بیٹھنے کا اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یہیں نہ ایک دُھا کو قیامت کے لئے باقی رہنے دیا ہے اور وہ یہیں رحمت کی شفاعت کے لئے مانگوں گا۔ اُس کی صورت یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الرحمۃ والسلام نے جان لیا تھا کہ آپ کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر مفرغ یہ نہیں کہ فقط اس دنیا ہی میں بندوں پر اللہ تعالیٰ

کا لطف و کرم عام ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ ماتھ آپ کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ حشر کے دن بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی عام رحمت کا سبب بنیں۔ چنانچہ ہم اس سے پہلے اس کتاب میں ذکر کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لئے قیامت کے دن شہید یعنی شہادت دینے والے ہوں گے۔ اور تمام نبیوں کے لئے اس طرح شہادت دینا آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بابت ڈالی گئی کہ وہ دُعا جو ہر نبی کی طرح آپ کو بھی عطا ہوئی تھی۔ اور یہ دُعا یہیں کہ ہم ابھی بیان کرائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اُس لطف و کرم کا منظر ہتھی، جس کا دُنیا میں نبوت کی شکل میں ظہور ہوتا ہے۔ آپ اس دُعا کو قیامت کے لئے رہنے دیں۔

الغرض یہ ایک راز ہے جس میں تمہیں خوب مدد بر کرنا چاہئے ۔

اکتالیسوال مشاہدہ

اس مشاہدہ میں یہ تحقیقات بھی شامل ہیں — میرے دل میں تحقیق و ایجاد کے علوم کا بالعوم اور عالم خیال میں جو تحقیق ہوتی ہے، اُس کے علوم کا باخصوص فیضان ہوتا۔ اور نیز اُس علم کا فیضان ہٹا کہ دوستنا قصص چیزوں اور دو صندوں کا اجتماع نی نفس الامر ممکن ہے۔ اور اس اجتماع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان دو دوستنا قصص چیزوں میں سے ایک چیز ایک مقام پر ہو۔ اور دوسری اُس کے متعلق پورے جزیم سے یہ بات طے ہو کہ یہ چیز رائیے ایسے ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیزوں پر سے مقام میں ہو، اور دوسری اُن کے پارے میں پورے جزیم سے یہ طے ہو کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ الغرض میرے دل پر ان علوم کا فیضان ہوتا۔ چنانچہ ان علوم میں سے جن کا بیان کرنا ممکن ہے، ہم یہاں تھارے لئے ان کو

بیان کرتے ہیں +

تخلیق عبارت ہے مختلف اجزاء کو جمع کرنے اور ان جمع شدہ اجزاء کے لئے جو صورت مناسب ہو، اُن پر اس صورت کے فیضان کرنے سے، تاکہ ان اجزاء کے ملنے اور ان پر اس صورت کے واقعہ ہونے سے ایک چیز وجود میں آجائے۔ تخلیق کسی عناصر یعنی ہوا، پانی، آگ اور مٹی سے ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ان عناصر کے اجزاء کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور پھر ان پر وہ صورت جو کیفیات، کمیات اور دوسرے اعراض کے اعتبار سے ان جمع شدہ عناصر کی عنصری صورت کے مناسب ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس طرح تخلیق کا عمل کبھی انسان کی صورت اختیار کرتا ہے اور کبھی گھوڑے کی اور بھی کسی اور چیز کی ای تخلیق تو عناصر میں ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ تخلیق خیالی صورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ دماغ میں ادھر ادھر کے جو پراندہ خیالات رکھتے، وہ جمع ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب خارج سے دماغ میں کچھ دلچسپی صورتیں آئیں تو اس صحن میں یہ خیالات ایک مرکز پر مجمع ہوئے۔ اور ان پر ایک صورت کا فیضان ہوا جو ان خیالی صورتوں سے ایک اعتبار سے بمحاذہ تجدید کے، اور ایک اعتبار سے بمحاذہ مادے کے ساتھ ملوٹ ہونے کے، مناسب اور بوزدی لختی + اس سلسلہ میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ کسی محل میں کوئی تخلیق ہو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس محل سے خارج کی کوئی چیز اس میں داخل ہو جائے۔ ایسا ہونا محالات میں سے ہے۔ اور عقل کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔

ہاں اس ضمن میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سلسلہ تحقیق میں نشو و ظہور کا ایک محل سبب بتا ہے نشو و ظہور کے دوسرے محل کا۔ اور ایک محل ظہور میں ایک چیز جو موجود ہوتی ہے، وہ سبب بنتی ہے دوسرے محل میں اس چیز کے ظہور کا۔ اور ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ یہ دونوں کی دلوں چیزیں طبیعت کلبیکے اندر ایک نظم سے موجود ہیں۔ اور نیز نشو و ظہور کے یہ جو تابع مسائل اور مقامات ہیں، ان سب میں طبیعت کلبیکہ ایک ہی طرح جاری و ساری ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو تمہیں چاہیے کہ اپنی نظر کو ہر چیز سے ہٹا کر تحقیق خیالی کا جو عالم ہے، اُس کی طرف منتظر کرو۔ کیونکہ تغیر و تحریک زندہ گرتا، مارنا، اور قربت کے ذرائع فرامم کرنا یہ سب کی سب چیزوں میں تحقیق خیالی کے عالم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہی وہ عالم ہے جمل "ا شدہ کی ہر دوڑ ایک نئی شان ہوتی ہے" ۔

اس ضمن میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ الٰہی اس امر کا تقاضی ہوتا گہ وہ اس عالمہ خیال میں ایک شخص کو پیدا کرے۔ چنانچہ اس تحقیق کیلئے وجہ تقریب ہم کی تھی۔ اور اس طرح اس شخص کے خیالی اجزاء جمع ہوئے۔ اور اس سلسلہ میں جو عجیب اسرار ہیں، ان میں سے ایک بزرگی نسب کو وجود میں لانا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ایک آدمی میں بزرگی نسب کی تبدیل کی جائے کوئی چیز نہ ہتی۔ اور بعد میں وہ آدمی اصلًا شریعت النسب ہو گیا لیکن لیکے اشارہ سے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف نکلی کوئہ ہوئی شان۔

اس حالت میں یہ شخص ایک ہی وقت میں شریعت النسب بھی ہو گا، اور شریعت النسب ہنسی بھی۔ یہ کن آخے تضاد کیا؟ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اصل میں شریعت نہ ہو۔ لیکن اتفاق سے وہ ایسے زمانے میں پیدا ہوا کہ اس وقت فلک کی جو حرکات تھیں، اور ستاروں کے آپس میں جو اتصالات تھے، ان کا تقاضہ یہ تھا کہ اس شخص میں شرافت نسب ہو۔ اور میرے خیال میں یہ اُسی وقت ہوتا ہے جب زُحل کا آفتاب اور مشتری کے ایک لمحاظ سے امتنان ہو۔ اور اس امتنان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زُحل کی حیثیت تو آئیتے گی ہو۔ اور آفتاب اور مشتری کا نور اُس میں منعکس ہو رہا ہو، چنانچہ ایسے وقت میں جو آدمی پیدا ہوتا ہے، وہ ان ستاروں کے اس امتنان کی وجہ سے نسب کی بندگی اور شرافت کا حامل بن جاتا ہے۔ باقی ان امور کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

غرضیکہ اس پیدا ہونے والے شخص میں زُحل، آفتاب اور مشتری کے اس طرح اتصال ہونے کا اثر ایک صورت کے طور پر اُس کے اندر آ جاتا ہے بالکل اُسی طرح جس طرح نپکے میں اُس کے والدین کے نقوش اور ان کے خط و حال آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو مولود ہوتا ہے، اُس کو درست میں بُزرگی نسب نہیں ملتی، بلکہ اس ضمن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ملام اٹھنے میں پہلے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مولود کو شریعت النسب بنایا جائے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے نپکے کی تربیت ہوتی ہے، اُسی طرح اس مولود کے شریعت النسب بننے کی حقیقت بھی مدار اعلیٰ میں نشوونما پاتی ہے۔ اور جب یہ حقیقت مدار علیے

میں نشوونما پاچکی ہے تو وہاں سے الہامات کے ذریعے یقینت ملادسال
میں نائل ہوتی ہے۔ اور ملادسال دہ مقام ہے جہاں سے خیر کامل افز
یں جو قوی ہوتے ہیں، ان کی ہمیں صادر ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ
آدمی اپنی بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے اور ستاروں کے اتصال کا دہ وقت
آتا ہے جو اس شخص کے سلئے بزرگ نسب کے ظہور اور اُس کی عزت شان کا
متقارضی ہجاتھا تو اُسی وقت یہ ستر جو ملاد اعلیٰ میں نشوونما پاچکا ہتھا،
ملادسال سے اس دنیا تک نازل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا
ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ محفوظ رکھتا، اُس میں سے یا کتابوں میں سے
کوئی ایسی بات ظاہر ہو جاتی ہے جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ شخص
شریف النسب ہے۔ خواہ یہ بات واقعہ کے خلاف ہی کپوں نہ ہو۔ اس
معاملہ میں درصل ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کے نسب کے متعلق کوئی ایسی بات
مشورہ ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ اُس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور
آن کا اس امر پر اجتماع ہو جاتا ہے کہ دہ اس شخص کو شریف النسب مانیں
اور اُس کی عزت دستیخیم کریں +

اب اگر یہ آدمی اہل صلاح و تقویٰ میں سے ہے تو بیشتر ایسا ہوتا
ہے کہ وہ خواب میں اپنے آپ کو شریف النسب دیکھتا ہے۔ اور اس سے
اُس کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس آدمی کے
متعلق کوئی پہلے کی بات یاد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شریف النسب ہیں
تو اس شخص کی بات کا اختیار نہیں کیا جاتا۔ اور ملادسال کی طرف سے بھی

ہم کا انکار ہوتا ہے۔ اور چنانچہ اس آدمی کو ایسا کہنا دائی کی حالت یہ ہوئی ہے جیسے کہ کوئی شریعت آدمی کو گالی دے اور کہے کہ یہ شریعت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بات کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ واقعہ در حمل یہ ہے کہ یہ جو تاہم چیزوں ہیں۔ ان سب کی خارج میں شمع اور مثالی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور انہیں سے اس آدمی کا نفس بزرگی نسب کارنگ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ہر بندگی نسب جو اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے، اُس کی بھی اس عالم سے خارج میں ایک مثالی صورت ہے۔

..... اور وہ بزرگی اسی صورت کو اپنی سد بنتی ہے۔ یہ صورت کبھی تو دین کے کسی امام اور ملادی کی طرف منسوب ہوتی ہے اور کبھی کسی دُنیاوی بادشاہ کی طرف۔ چنانچہ یہ استعمال جیسا وقت ہوتا ہے، اُسی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اور اسی بتا پر یہ بات یوں معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے سے چلی آتی ہے، اور اپنی نہیں شروع کی گئی،

کسی آدمی میں بزرگی نسب کو پیدا کرنے کا ذکر تو اوپر گز رچکا۔ اسی پر تم کسی آدمی سے بزرگی نسب کو زائل کرنے کا قیاس کر سکتے ہو۔ اس سلسلہ میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کے لئے کچھ ایسے اسباب تقریب جنم کر دیتا ہے کہ اُن کی وجہ سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ شخص شریف نسب ہے۔ چنانچہ اس طرح اس شخص کے نفس سے بزرگی نسب کارنگ مٹ جاتا ہے، اور لوگوں کا اُس کے متعلق اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ شریف النسب نہیں،

اور یہ بات ملا وسائل میں بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کہے کہ شخص شریف النسب ہے، اُس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور اُس کی اس بات کا اس طرح انکار کر دیا جاتا ہے گویا کہ اُس نے کسی غیر شریف کو شریف کہہ دیا +

ہم نے اور پر یہ جو کہا تھا کہ ایک ہی آدمی ایک لحاظ سے شریف النسب ہوتا ہے، اور دوسرے لحاظ سے غیر شریف النسب، تو ہمارا یہ کہنا اجتنام نہیں کی قبیل سے نہیں۔ دافعہ یہ ہے کہ اس شخص کا ایسا ہونا حقیقت میں وجہ تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ اس مسئلے میں دو اعتبارات ہوتے ہیں، چنانچہ ایک اعتبار سے یہی شخص غیر شریف ہوتا ہے۔ اب اگر اس معاملہ کو جملہ اعتبارات سے دیکھا جائے تو اس شخص کے پاسے میں یہ جو دو بیان ہیں، ان میں پوری مطابقت ہوگی اور تناقض باقی نہیں رہے گا۔ اس ضمن میں ایک ظالم خلیفہ کی خلافت کی مثال یجھئے۔ اس کی خلافت کو ایک اعتبار سے دیکھئے تو وہ صحیح ہوگی اور دوسرے اعتبار سے دیکھئے تو صحیح نہیں ہوگی۔ اور اسی سلسلہ میں قیامت کے قرب میں زمانے کی مدت کا مختصر ہونا بھی ہے، یعنی اُس وقت سال ہینہ کے برابر ہو جائے گا اور ہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ ایک دن کے برابر۔ اور وہ اس طرح کہ تنا و عدم کی صورت جو ملاد، اعلیٰ میں انعام پذیر ہے، وہاں سے اُس کے ایک رنگ کا اس عالم ناموت میں قیضاں ہوگا۔ اور اُس کی وجہ سے لوگوں کو یوں خیال پڑے گا کہ زمانے میں وسعت ہے، حالانکہ وہاں وسعت

نہیں ہوگی۔ اور وقت کو جا پنځے کے جو معیار ہونگے ان میں خل فاقع ہو جائیں گا
چنانچہ حالت یہ ہو گی کہ انسان پہلے ایک دن میں جو کام کر سکتا تھا، وہ اب
اُس کام کو ایک دن میں کر سکے گا۔ اور اس تہذیبی کا باعث فنا و عدم کی
اس صورت کی تاثیر ہو گی جو ملادِ اعلیٰ میں قائم ہے۔ اور وہاں سے اُس کا
فیضان عالم ناسوت میں ہوتا ہے۔ ملادِ اعلیٰ کی اس صورت کی تاثیر کو لوں
بچھئے کہ دودیواریں ہیں۔ اور ان کے اوپر ایک تختہ رکھا ہوا ہے، اور ایک
آدمی اُس پر سے گزرنا چاہتا ہے۔ اب اُس آدمی کی دہمی قوت اُس پر
اپنا اثر ڈالتی ہے۔ چنانچہ اس تختے پر گزرتے ہوئے اُس کے پاؤں پھسل
چلتے ہیں۔ حالانکہ اگر بھی تختہ زمین پر پڑا ہوتا تو یہ آدمی بغیر کسی خیال کے
اُس پر سے اٹھنے کے ساتھ گزر جاتا۔ یعنی اُس آدمی کا یہ وہم کہ وہ ایک
ایسے تختے پر سے گزر رہا ہے جو خلا میں ہے اور دودیواروں پر پڑا ہوا،
یہ وہم اُس پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ چنانچہ اُس کے پاؤں اس تختے سے
پھسل جاتے ہیں۔ الفرض ملا اعلیٰ میں فنا و عدم کی جو صورت ہے،
عالم ناسوت میں اُس کے فیضان کی تاثیر انسان کی اس قوت دہمی کی
تاثیر کی طرح ہوتی ہے۔ اجتماع نقیضین کی اور بھی بہت سی صورتیں
ہیں۔ لیکن اس وقت ہم ان پر گفتگو نہیں کرتے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان
امور کو بہتر جانتا ہے ।

پیالیسوال مشاہدہ

بھپر مبدائے حیات اور اُس کے معاد کے اسرار کھونے لگئے۔ معاد کے اسرار میں سے ایک ستر دوز خیوں کو گنڈھک کے کرتے اور اہل جنت کو ریشم و حریر اور دوسرے لباس لئے فاخرہ پہنانے کے متعلق بتتا۔ اور اسی طرح کا ایک ستر دوزخ والوں کے چہروں کے سیاہ ہونے اور اہل جنت کے چہروں کی بشاشت و تازگی، اور اس سے بنتی جلتی جو اور چیزوں ہیں، ان کے بارے میں بتتا۔ اس ستر کی دھنائست موقوف ہے دو مقدموں پر۔ ان میں سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انسان کے نفس اور اُس کے بدن کے درمیان ایک گہرا بطر ہوتا ہے۔ اور نفس سے بہاں مزاد وہ چیز ہے جو انسان میں احساس اور حرکت کا پاعث بنتی ہے اور اُس کے خارج ہوئے سے انسان مر جاتا ہے۔ نفس اور بدن کا یہ گہرا بطر

اُن افرادِ انسانی میں خاص طور پر نایاب ہوتا ہے، جن کی عقل و فہم اس بات کو آسانی سے سمجھ جاتی ہے کہ روح بدن یہی کا ایک وصف ہے، اور زندگی عبارت ہے اس روح سے۔ اور یہ روح بدن میں اس طرح سرت کئے ہوتی ہے جیسے کہ کوئی میں آگ ہو۔ روح اور بدن کے آپس کے اس گھرے ربط کا نتیجہ ہے کہ انسان خواب میں اپنے نفس کے اوصاف کو جو غیر مادی ہوتے ہیں، مادی صورت میں مشتمل دیکھتا ہے ।

اس سلسلہ کا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک معنوی حقیقت عالمِ ناسوت میں ایک چیز کی صورت میں مشتمل ہو جاتی ہے اور اس معنوی حقیقت کا عالمِ ناسوت میں مشتمل ہونا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ یہ عالمِ خیال میں صورت پذیر ہو جائے۔ اور اس کی مثال سیدنا داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ اُس کی بیوی کے معاملہ میں زیادتی کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس واقعہ کی معنوی حقیقت عالمِ ناسوت میں دو فرشتوں کی صورت میں مشتمل ہوئی۔ اور دو بکریوں کا جھگڑا لے کر حضرت داؤد کے پام آئے۔ اور اس سے حضرت داؤد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ।

یہ دو مقدمے بطور تمہید کے بیان ہو چکے۔ اب ہم اصل بحث پر آتے ہیں، دوزخیوں کے جنم میں گدر ہمک کے گپڑے پہننے اور دہان اُن کے چہروں کے سیاہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ دُنیا میں ان لوگوں نے کمری۔ اور اس کفر کارنگ اُن کے چہروں پر چڑھ گیا۔ اور اس کی وجہ سے

وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستوجب ہوتے۔ چنانچہ اُن کا دُنیا میں ہی گُفران کے لئے دوزخ میں گندھک کے کپڑوں اور چردوں کی سایہ میں بدل جائے گا۔ اسی طرح جنت میں اہل جنت کا رشیم و حریر کے باسوں میں میوس ہونے اور اُن کے چردوں پر بشاشت و تازگی چھا جانے کا باعث یہ ہے کہ یہ لوگ دُنیا میں ایمان لائتے اور اُن کے ایمان کا رنگ اُن کے نفوس پر چڑھ گیا۔ اور اس کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی عنایت کے اہل بنے چنانچہ مرنے کے بعد اُن کے ایمان کا یہی رنگ جنت میں اُن کے لئے رشیم کے کپڑوں اور چردوں کی ترو تازگی اور بشاشت میں بدل جائے گا۔ یاد ہے کہ یہ جو کچھ میں یہاں بیان کر رہے ہوں، اس کا مشاہدہ خود میں نے ایک رُوحانی خواب میں کیا ہے ۔

یہ توموت کے پرد یعنی میاد کے اسرار کا ذکر ہوا۔ اب ابتدائے حیات یعنی میاد کے اسرار کا بیان شروع ہے۔ میں نے اس پھیلے ہوئے وجود کو دو جست سے ذات حق میں گم پایا۔ ذات حق میں اس کے گم ہونے کی ایک جست تو یہ ہے کہ یہ وجود چونکہ خود ذات الہی سے برابر صادر ہو رہا ہے، اس لئے میں نے اس سے ذات حق میں گم ہوتے ہوئے پایا۔ اور ذات حق میں اس کے گم ہونے کی دوسری جست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اس وجود میں ظاہر ہوئی۔ اور اس لئے ہر طرف سے اس وجود کو لپٹنے اندر لے لیا۔ چنانچہ اس طرح یہ وجود ذات حق میں مجھے گم ہوتا ہوا نظر آیا۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ وجود منہسط خود ذات حق ہے، ظاہر

یہ اُس کی فریب زدگی ہے۔ لیکن جو شخص کہ باریک میں نظر رکھتا ہے، وہ تو یقینی طور پر اس معاملہ میں اسی تجھے پر پہنچے گا کہ ذاتِ واجب سے شیونِ الٰہی کا صدور ہوا جو کہ مبدائے اول میں تھیں۔ اور ان سے اس وجود منبسط کا ظور ہوا۔ اور یہی وجود منبسط "فعایت" اور "خارج" ہے۔ اس کے بعد اسی "خارج" میں اللہ تعالیٰ کی ایک "شان" کے بعد دوسری "شان" ایک مقدر شدہ ترتیب کے مقابل جو مبدائے اول میں پہلے سے محفوظ ہو چکی تھی، ظاہر ہوتی گئی ۔

لہ ذاتِ واجب کا گنہ پانا تو انسانی عقل کے بس کی چیز ہیں۔ لیکن چونکہ ذاتِ واجب لا تعداد اسماء و صفات کی مرکز ہے، اس لئے ہم ان کے متعلق اپنی عقليں لڑ سکتے ہیں۔ یہ اسماء و صفات ذاتِ واجب کے اعتبارات ہیں۔ اور ان سب کا ایک ہی ذات سے صدور ہوا ہے۔ اور وہ ذات اپنی جگہ جوں کی قوں قائم ہے۔ ذاتِ واجب کے اسماء و صفات کا ایک نام شیون ہے، جس کی واحد شان ہے۔ «ذم

تین تا پیسوال مشاہدہ

اویارد اللہ سے کرامات کس طرح ظاہر ہوتی ہیں، اس بارے میں مجھ پر عجیب عجیب اسرار کا فیضان ہوا ہے۔ کرامات کے متعلق تمیں جانتا چاہئے کہ یہ نتیجہ ہوتی ہیں انسان کی اُس قوت کا جو نفس ناطقہ ہیں ہے۔ چنانچہ جب انسان کے نفس ناطقہ کا ملاد احلاء سے اتصال ہوتا ہے۔ اور اُس کی ہمت شخص اکبر کی قوتِ عزم سے ملحت ہو جاتی ہے تو اس کے نفس ناطقہ کی یہ ہمت شخص اکبر کی قوتِ عزم کے لئے بمنزلہ اُس کی رحمانی اور پندریگی کے بن جاتی ہے۔ اور اس طرح جو بات ہونے والی ہوتی ہے، وہ اویارد کے لئے ایک حقیقی عزم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

اس معاملہ میں دو حدیں ہوتی ہیں۔ ایک حد شخص اکبر کی قوت

عزم کے اونٹ سے احسان اور خیف سے القائے خیال سے متصل ہوتی ہے۔ اور دوسری حدود ہے جس میں نفس ناطقہ کی ہست قوی خود پس ناطقہ کی فعل جڑ سے بھرتی ہے۔ اور وہ نفس کے اوپر اس طرح عادی ہو جاتی ہے کہ اکثر اوقات نفس کا اس ہست سے برا بر انسان رہتا ہے۔ ان عرض یہ دو عدیں ہیں اور ان کے درمیان ہست سے مدارج ہیں۔ اور یہ اس سلسلہ میں مختلف اوقات، احوال اور اسباب کی بھی اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں +

اس کے علاوہ خود اولیاء کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ اولیاء ہیں کہ ان کے نفس ناطقہ کی ہست ان کے سامنے متصل ہوتی ہے۔ اور ان سے جو بھی آثار و کرامات ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کو خود اپنی اس ہست سے صادر ہوتے دیکھتے ہیں۔ اور ان اولیاء کی دوسری قسم وہ ہے۔ جن کی ہست ان کے سامنے متصل نہیں ہوتی بلکہ یہ خاطر ہیں یا خیال میں یا لفظ میں سما جاتی ہے۔ اور اس طرح ان کے لئے اپنے نفس ناطقہ کی یہ ہست قبل توجہ نہیں رہتی۔ اور اس وجہ سے ان کو اتنی فرصت مل جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اُس تدبیر کی طرف جو اس عالم میں پرسر کا ہے اور اس کی اُس رحمت کی جانب جس کا یہاں فیضان ہو رہا ہے متوجہ ہو سکیں۔ چنانچہ ان کی اس توجہ سے آثار و کرامات کا ظہر ہوتا ہے ان اولیاء کی پہلی قسم یعنی جن کی کہ ہست ان کے سامنے متصل ہوتی ہے وہ زیادہ تر سند وستان خواسان اور ان کے پڑھی ملکوں میں پائے جاتے

ہیں۔ اور دوسری قسم کے اولیاء یعنی جن کی ہمتیت ان کے حامیوں نے ممثلاً
ہنسی ہوتی، وہ حجاز، بیان اور ان کے فرب و جوار کے مکون ہیں ملتے ہیں۔
مزید برآں اولیاء کے پسے اوقات ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض وضع ان
پر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ یہ دفعہ جس مقصد کے حصول کے لئے
تعالص ارادہ کر لیں وہ پُرزا ہو کر رہتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس ارادہ
میں خود ان کے اپنے ذل کا یہ خیال مراجم نہ ہو کہ یہ چیز بعد از قیام ہے۔
یا یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ کبیوں کی بات یہ ہے کہ جب ذل میں یہ
خیال آگیا کہ یہ چیز بعد از قیام اور اللہ کی سنت کے خلاف ہے تو لازمی
طور پر اس سے ارادہ میں تندیب پیدا ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے
کہ حیا اور ندامت کے وقت آدمی خود بخود کام سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ حدیث
میں آیہ ہے کہ ایک وفیع حضرت ابو رافعؓ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں بکری کے دو بازوں پیش کئے۔ اس نے ان سے تمیری بار
ایک اور بازو دطلب فرمایا۔ تو حضرت ابو رافعؓ کہنے لگے کہ یادِ رسول اللہ اکبری
کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر تم خاموش رہتے، اور یہ بات نہ کہتے تو ہمیں ایک اور بازو بھی مل جاتا،
 بلکہ جب تک تم خاموش رہتے، اور ہم تم سے بازو کا مقابلہ کرتے جاتے تو تو
اسی بکری سے ایک بازو کے بعد دوسرا بازو پر اپر لٹا جاتا۔ اس حدیث میں
اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

نیز اولیاء کے اوقات میں سے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اُس وقت دو

جو ارادہ کر لیں۔ اور اگر اس ارادے کی مخالفت ہو، یا اُسے دُور کی چیز بھا
جاتے یا لوگ اُس کا انکار کریں تو اس سے اُن کے اس ارادے میں اور
قوت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک دوسرے سے
بازی کے جانے یا پہاڑوں میں نبرد آزمائی کرنے پا ہر لفیوں میں مقابلے کے
موقعہ پر ارادے میں مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں دلی رحمات
اور باطنی تفاضول کے اعتبار سے بھی ادلیاد کے دو طبقے ہیں۔ ان میں سے
ایک طبقہ تودہ ہے، جس کے دل میں جو ارادے اور رحمات اٹھتے ہیں
وہ نتیجہ ہوتے ہیں اُس الہام کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کے دلوں میں
کیا جاتا ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں نظام خیر کو تامّم
کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اس ضمن میں اس طبقے
کے ادلیاد کی ہستوں میں دلوے اور حوصلے پیدا کر دیتے جاتے ہیں۔ اب یا تو
یہ بات کسی پیسے وقتوں حادثے کے متعلق ہوتی ہے کہ میں حادثے کے اسباب
معین ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت خضر کا فرض ہے کہ انہوں
نے ایک کشتی میں سوکر اخ کر دیا۔ ایک گرلنے والی دفعار کو نئے سرے سے بنا
دیا، اور ایک رٹکے کو جان سے مار دالا۔ یا اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کسی ایسے
واقعہ کے متعلق ہوتا ہے جس کا کہ اثر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہتا ہے، جیسے
کہ ایک گراہ اور بے بصیرت قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت
کے ذریعہ راہ راست پر لانے کا ارادہ تھا۔ اب چونکہ یہ ارادہ ایک استراری
چیزیت رکھتا تھا، اس لئے اس ارادہ کا کوئی نہ کوئی بعلسلہ برابر آپ

کے قلب مقدس سے متصل رہے۔ اس لئے یہ ارادہ ایک فردی حادثے کے نہ ہو کا بدبین کرختم نہیں ہو گیا، بلکہ جیسا جیسا وقت اور جیسا جیسا موقع ہو گا، اُسی کے مطابق خاص خاص کام اور جنودی اور شخصی اطمینان و اصناف ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خصوصیت اولیاء کے اعلیٰ طبقے کی ہے جو کمال مطلق کا حامل ہوتا ہے۔ ان اولیاء کے ہان کرامات، اشراف یعنی لوگوں کے دلی خیالات پر مطلع ہوتا، دعا کی قبولیت، کھلنے یا پانی کی مقدار کو زیادہ کر دینا یا جیسے جیسے کہ حالات اور اسباب ہوں، انہیں کے مطابق شکلیں اختیار کرتی ہیں ۷

الفرض لوگوں کو راہِ راست پر لانے کا ارادہ جس طرح استماری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے متصل ہے، اُسی پر آپ کے سرچشمہ علم کو بھی قیاس کرو۔ بات درصل ایہ ہے کہ ملادِ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے قانون اور نوامیں کا ایک نمونہ قائم ہے۔ جب اہل زین کے لئے خیر و فلاح کے ارادے کو حرکت ہوئی تو ملادِ اعلیٰ کے اس نمونے سے علم کا سرچشمہ پھوٹا۔ اور یہ تقلی طور پر آپ کے قلب مقدس سے متصل ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے ادقات، مواقع اور نفسی گیغیات ہوتی ہیں، انہیں کے مطابق یہ علم مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو اس ضمن میں دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ اور کبھی علم کا یہ فیضان فرشتے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ خواب میں برکت کا نزول ہوتا نظر آتا ہے اور کبھی اس کی خدیج خواب تک رہ جاتی ہے ۸

بیشک اولیا میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ ان کی کرامات کا باعث ملارا علیے کامیار فیضان ہے۔ ہوتا بلکہ ملار سافل کی طرف سے ان کو نہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ بیشک یہ مقام کاملین کا نہیں، ہم یہ اور بات ہے کہ ایک کامل میں جامعیت ہے۔ اور اس کی وجہ سے ملارا علی کے اس فیضان کے ساتھ ساتھ اُسکے اندر ملار سافل کے تقاضوں کا بھی عمل دشی ہو۔ چنانچہ صوفیا کے اس مشور قول میں کہ عارف کی اپنی کوئی ہمت نہیں ہوتی۔ "اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الغرض جب کوئی دلی اپنی وقت عزم میں اس منزل پر بہنچ جاتا ہے تو شخص اکابر کی طرف سے اُس کے سویدائیے قلب کو خلعت قطبیت سے سرفراز کیا جاتا ہے اور یہ شخص دو گوں کے لئے مل جاوادی اور ان کے بکھر سے ہوؤں کو سینئنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ صرہ دری نہیں کہ ان اوصاف کا حال ایک وقت میں صرف ایک فرد ہی ہو۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس منزل کمال تک دو نین یا اس سے زیادہ بھی بہنچ جائیں۔ لیکن ہر شخص جو اس بارگاہ کمال تک پہنچتا ہے، وہ اس مقام پر اپنے رتبہ کو یوں دیکھتا ہے جیسے کہ وہ یہاں اکیلا ہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ افراد انسانی میں سے ایک فرد ہوتا ہے۔ اور جہاں تک خود اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو بلا مزاجست خیر سے اکیلا اور شن تنہا سمجھتا ہے۔ خواہ ہزاروں اس پیسے اور بھی موجود ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کمال سماجی کا ذکر، ہم نے اور کپلہ سے، صرف ایک ہی کامل حال ہو سکتا ہے تو شاید اُس کا اشارہ کسی یہی مرتبہ کمال کی طرف ہو، جو اس وقت

ہمارا موصوع بحث نہیں یادہ اس تخصیص میں راہ راست سے ہوتی گیا ہو، اور اُس نے ہمارے اس بیان کو اس کے سوا کسی اور محمل پر حمل کر دیا ہو۔ الفرض میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شناخ ان ہوں کہ اُس نے مجھے ان سب مقاماتِ کمال کی شرابِ معرفت کے جن کا یہ اُپر ذکر کر آیا ہوں، پھر لکھتے ہوئے جامِ پلاٹے ہے ۷

چو الیسوال مشاہدہ

میں نے خواب میں دیکھا کہ میں "قائم الزماں" ہوں۔ قائم الزماں سے میری فرمان دے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں نظام خیر کو قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اُس نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لئے مجھے بطور ایک ذریعہ کارکے مقرر کیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ سفار کا پادشاہ مسلمانوں کے شہر پر قابض ہو گیا اور اُس نے آن کے مال و مтайع لوٹ لئے۔ اور آن کی اولاد کو اپنا غلام بنالیا۔ اور اجیس کے شہر میں کفر کے شعائر اور رسوم کو مبنی کیا، اور خدا کی یتیہ، اُس نے دہل سے اسلام کے شعائر و رسوم کو مٹا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو زمین والوں پر غصب آیا۔ اور میں نے اللہ کے اس غصب کو طام اعلیٰ میں ایک مثالی صورت میں تمثیل دیکھا۔ غصب الہی کی اس مثالی صورت سے میرے اندر یہی غصب کا اثر متربع ہو گیا۔ چنانچہ

میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ غصتے سے بھر جاؤ ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا اس وقت غصتے میں آتا تجھے بتا اُس تاثیر کا جو طاری علئے کی مثال صورت سے مجھے میں آئی تھی نہ کہ میرے اس غصتے کا باعث دُنیا کے اسباب میں سے کوئی سبب ہوا۔ اسی دوران میں میں نے دیکھا کہ میں لوگوں کی ایک بڑی بھیرٹ میں ہوں، جس میں کہہ روئی بھی ہیں، اُزیک بھی، اور عرب بھی، ان میں سے بعض تو اونٹوں پر سواز ہیں اور بعض گھوڑوں پر، اور بعض پیدل ہیں۔ اس بھیرٹ کی مناسبت تین مثال اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ رجع کے موقعہ پر میدان عرفات میں حاجیوں کے جمع ہونے کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب میرے غضب ناک ہونے کی وجہ سے غصتے میں بھرے ہوتے ہیں اور مجھے سے پوچھہ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹر کیا حکم ہے؟ میں نے اُن سے کہا کہ ہر نظام کو توڑنا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیتے تک؟ میں نے جواب دیا کہ جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ میرا غصتہ فرد ہو گیا ہے۔ میرا یہ کہنا احترا کہ وہ آپس میں لڑنے لگے۔ اور انہوں نے اونٹوں کے موہنوں پر دار کرنے شروع کر دیئے۔ چنانچہ اُن میں سے بہت سے تو وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اور اُن کے اونٹوں کے بھی سر ٹوٹے اور ہونٹیں کٹے۔ پھر میں اُس شہر کی طرف بڑھا جو خراب کیا گیا تھا۔ اور اُس کے رہنے والوں کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ لوگ بھی میرے یتھے یتھے چلے۔ اور ہم نے بھی اُسی طرح ایک شہر کے بعد دوسرے شہر کو سباہ کیا، جسے کہ قاز نے کیا تھا، یہاں تک کہ ہم اجھر پہنچے۔ اور وہاں ہم نے کفار کو قتل کیا۔

اور ان سے اس شہر کو آزاد کرایا۔ اور کفار کے بادشاہ کو قید کر لیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جمیعت میں کافروں کا بادشاہ، بادشاہِ اسلام کے ساتھ ساتھ چارہ ہے۔ اسی اثناء میں بادشاہِ اسلام نے کفار کے بادشاہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ لوگوں نے اُسے پکڑا اور بیچے گرا کر اُسے چھڑی سے ذبح کر دیا۔ جب میں نے اُس کی رگوں سے خون کو خوب زور سے پہنچتے دیکھا تو میں پتکار اٹھا کر اب رحمت نازل ہوئی ہے میں نے اُس وقت دیکھا کہ رحمت اور سکینت نے اُن سب مسلمانوں کو جو اس لڑائی میں شریک ہوئے، اپنے دامن میں لے لیا۔ اور اُن پر رحمت کا فیضان ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھا۔ اُس نے مجھ سے اُن مسلمانوں کے متعلق پوچھا جو پابھم ایک دسرے سے لڑے لکھتے۔ میں نے اس شخص کو جواب دینے میں توقف کیا۔ اور اس بارے میں کوئی واضح بات نہ کہی ۔

یہ خواب میں نے ذی قدرہ کی اکیسویں رات کو سوچا۔ میں دیکھا۔

پہنچاںیں وال مشاہدہ

اس امر میں کسی قسم کا کوئی شے نہیں کہ حقیقت الحقائق ایک وحدت ہے جس میں کہ کثرت کا گزند نہیں۔ اس وحدت کے لئے تنزلات ضروری ہیں ناگہ یہ تنزلات داسطہ نہیں اس وحدت سے کثرت کے ظہور کا۔ اور اس طرح وجود کے مرتب کے احکام اور آن کی خصوصیات کا تعین ہو سکے۔ حقیقت الحقائق کی اپنی وحدت خالص سے تنزلات کی طرف اور تنزلات سے وجود کے مرتب کی طرف حرکت تبدیل ہوتی ہے۔ اور اس حرکت سے سوائے اس سے اور کچھ مفہود نہیں ہوتا کہ اس وحدت خالص کا جو ذاتی کمال ہے، اُس کا ظہور ہو سکے وحدت کی یہ حرکت جو وجود کی کثرت میں منتج ہوتی ہے، اس کا باعث پاک اور مقدس محبت ہے۔ اور یہ پاک اور مقدس محبت وحدت کے امکان "ارادہ اختیاری" سے جس کو بعض

لوگ اس حرکت کا سبب قرار دیتے ہیں۔ اعلیٰ اور برتر چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ پاک اور مقدس محبت و حدث کی "ایجاد طبعی" کی صفت سے بھی جو بعض دوسروں کے نزدیک وحدت کی اس حرکت کا باعث ہے، برتر و اعلیٰ ہے۔ ایجاد طبعی سے مراد یہ ہے کہ خود اس وعدت کی طبیعت میں نبطور ایک امر واجب کے یہ بات داخل ہے کہ وہ کثرت میں ظاہر ہو۔

یہ محبت ابتدائیں بالکل بسیط ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے کثرت کا ظہور ہوتا ہے، اس محبت کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مراتب وجود میں سے ہر ہر مرتبہ کی اپنی اپنی مخصوص محبت ہوتی ہے۔ اور ہر مرتبہ کی یہی مخصوص محبت، ہی سبب بنتی ہے اُس مرتبہ وجود کے ظہور کا۔ یعنی یہ محبت ابتدائیں بسیط ہوتی ہے۔ اور پھر وجود کی کثرت کے ساتھ ساتھ اس سے بہت سی محبتیں ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں یاد رہے کہ گوئی محبت ابتدائیے اور میں بسیط ہوتی ہے۔ اور بعد میں اس سے بہت سی محبتیں ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن یہ محبت اس بسیط ہوتے کی عالت میں بھی اُن تمام محبتوں سے جو بعد میں اُس سے ظاہر ہوتی ہیں غالباً نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ تمام محبتیں اُس بسیط محبت میں جو ابتدائیے امر میں محتی، داخل ہوتی ہیں۔ اور بعد میں مراتب وجود کے ساتھ ساتھ ان کا ظہور ہوتا ہے۔ وحدت سے مراتب وجود کا اس طرح صادر ہونا۔ اور پھر وجود کے ہر مرتبہ کی اپنی مخصوص محبت اور ان مخصوص محبتوں کا ایک بسیط محبت

سے ظاہر ہونا، یہ ایسے اصول ہیں کہ جس شخص کو ذرا سی بھی سمجھا ہو، وہ ان میں شکر نہیں کرے گا +

اس ضمن میں ہمارا اور بھی مشاہدہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعیط محبت کے اندر ان جزوی محبتتوں کے تمام مراتب کا مندرج ہونا ایک طرح پر ہنسی ہوتا۔ بلکہ ان جزوی محبتتوں میں سے ایک خاص محبت ظاہر واضح اور موجود بالفعل کے درجہ کی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جزوی محبت اور ہے، جو بعیط محبت میں اس طرح موجود ہوتی ہے بھی کوئی چیز کسی دوسری چیز میں بالفوجہ موجود ہو۔ خواہ اس کا اُس چیز میں بالفوجہ ہونا قریبی ہو یا دور کا معاملہ ہو۔ اس ظاہر واضح محبت میں سے ایک محبت وہ ہے جس کا تعلق اولاً تو مطرکلی کے ظہور سے ہے اور بھر ذات سے۔ وجود کلی سے آگے چل کر جو افراد نکلنے میں بیان اُن افراد کا ذکر نہیں۔ البتہ بعد میں جب وجود کلی سے افراد کے ظاہر ہونے کا وقت آتا ہے تو پھر ان افراد کے ظہور سے متعلق جو جزوی محبتیں ہوتی ہیں، وہ بٹک ظاہر ہو جاتی ہیں +

الغرض ایک محبت تو یہ ہوئی جس کا تعلق وجود کلی کے ظہور سے ہے۔ اور دوسری محبت دہ ہے جو وجود کلی سے فرد کے ظہور سے متعلق ہوتی ہے، اب ایک فرد تو وہ ہے جس کی شبیہ عالم مثال میں قائم ہے۔ اور ایک فرد ہے جو اس عالم میں بھیں جاتا ہے۔ چنانچہ عالم ناموت کے بہت سے افراد پر اس فرد کا حلی بیعت البدل مصدق ہوتا ہے۔ اور وہ اس طرح

کہ ایک مرکز ہے جس میں کہ ایک شخص کا وجود قائم ہے۔ اب وہ شخص نہیں رہتا، تو اُس کی وجہہ دوسرا شخص لے لیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ براہ جاری رہتا ہے ۔

یہ محبت جو ان معنوں میں فرد کے ظہور سے متعلق ہوتی ہے، اُس مقصد اولًاً یا تو اُس تدبیر الٰی کا ظہور ہے، جس تدبیر کا تعلق کلی وجود کے ظہور سے ہوئے نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس محبت کا تعلق کلی وجود کے ظہور سے ہوا تو پھر جس وقت اس کلی وجود سے افراد اور اشخاص ظاہر ہوئے تو ان ظہور کے ساتھ ساتھ ان افراد کے متعلق جو محبتیں تھیں وہ بھی اُس محبت سے ظاہر ہوئیں۔ یا اُس محبت کا مقصد جو ان معنوں میں فرد کے ظہور سے متعلق ہوتی ہے عرض تدبیر الٰی کا ظہور ہے۔ یا اس سے مقصود صرف اُس نوع کمال کا اثبات ہے۔ العرض ہم نے ان امور کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ اور نہیں اس ضمن میں اس کا بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ انسانیت کے ظور کا جو اس کا اصلی ہے وہ محض حیوانیت کے تابع نہیں بلکہ حیوانیت سے زائد انسانیت میں وہ محبت بھی ہے جو ذات واحد سے ابتداء میں ظاہر ہوئی تھی۔ اور اسی طرح حیوانیت کے ظور کا جو اساس ہے، وہ بھی تمام تر نامویت یعنی نیاشیت کے تابع نہیں ہے۔

ہم نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ محبت جو فرد کے ظہور کے متعلق ہوتی ہے، جب اس محبت کے پیش نظر ایسا فرد ہوتا ہے جو کامیاب ہو الٰیات اور کوئی بات کے دلوں عالموں کا، اور نیز اگر اس فی

سے مقصود کل عوالم کے ظہور کی تدبیر ہو، تو ایسا فرد بھی ہوتا ہے۔ اس فرد بھی سے فراد حیثیت بنت ہے جو کہ عالم مثال میں اپنی مثالی صورت کے ساتھ قائم ہے۔ یہی فرد جس کا کہ اوپر ذکر ہوا، اصل اللہ بھی ہوتا ہے۔ عالم مثال میں اس فرد بھی کے اس طرح ظہور پذیر ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اُس کی اس مثالی صورت سے عالم ناسوت میں بھی ایک مخصوصہ وجود میں آیا۔ پھر ایک اور مخصوصہ ظاہر ہوا۔ اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ یہاں تک کہ سیدنا د مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آئے۔ اور ان کی ذات اقدس سے مرتبہ بیوت کے احکام مکمل ہو گئے۔ برعکمال اور کی یہ یقینیت، اُس وقت ہوتی ہے، جب اس فرد سے کل عوالم کے ظہور کی تدبیر ہو، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ایسا فرد بھی نہیں ہوتا +

اب اگر محبت دہ ہے جو وجود کلی کے ظہور سے متعلق ہے۔ اور اس شخص میں وجود کلی سے افراد کے ظہور کا وقت آتا ہے تو یہ محبت دوسری بار فرد کے ظہور سے متعلق ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس فرد کے ظہور سے مقصود وجود کلی کے ظہور کی تدبیر ہے تو یہ فرد انہیاد میں ہے ایک بھی تو ہو گا، لیکن وہ فرد جامع نہیں ہو گا۔ لیکن اگر اُس فرد کے ظہور سے مقصود صرف یہیں کمالات کا اثبات ہے کہ ان کی وجہ سے الٰہی قوتیں کو بناتی قوتیں پر غالب آ جائیں تو یہ فرد ولی ہو گا۔ ایسا ولی جو مقادیقا کے مقامات کا عامل ہو۔ بسا اوقات نہ تو شرعاً میں اور نہ جب کہ نشانہ مکمل یا وجود کلی سے افراد ظاہر ہوتے ہیں، فرد کے ظہور سے محبت متعلق ہوتی ہے۔ بلکہ

عالمہ ناسوت میں افراد کے خبور کے وقت فرد سے محبت کا تعلق ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس فرد سے ملت کی تہ دیر مقصد ہو تو یہ فرد انبیاء کا دارث ہو گا۔ اور اگر یہ مقصد ہمیں تو وہ فرد طاری علے اکا دارث ہو گا۔ اور اگر اس فرد سے مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ صرف راشد یعنی پذارت خود ہدایت یافتہ ہو تو یہ اولیاء کا دارث ہو گا۔ یہ باتیں جو ہمیں تے بیہل بیان کی ہیں، بڑی مفتر کی ہیں، تمہیں چاہئے کہ ان کو خوب مضبوط پکڑو +

اُس کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ فرد کے لئے ایسے احکام ہیں کہ فرد کے سوا اور کسی کے یہ احکام ہمیں ہوتے، اور ان احکام میں سے ایک حکم ہے کہ فرد کا کہیں مستقر نہیں ہوتا۔ جب تک کہ نقطہ حجیبیہ جہاں سے کہ اُس نے اپنا سفر شروع کیا تھا وہاں والپیں نہیں پہنچ جاتا۔ اُس صحن میں فرد کے لئے ہر رنگ اور نشأۃ ایک مستقر ضرور بن جاتا ہے۔ لیکن اس مستقر میں فرد کی رفتار تیر سے بھی جب کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے، زیادہ تین ہوتی ہے۔ اور اس کی یہ رفتار اُس وقت تک رہتی ہے، جب تک کہ وہ اپنے آخری مقام تک نہ پہنچ جائے۔ فرد کو اپنے اس سفر میں جن جن نشأتوں اور رنگوں پرستہ گزنا پڑتا ہے، ان نشأتوں کی آلاتش میں سے کوئی چیز بھی اُس کے دامن کو ملوٹ نہیں کرتی، جیسے کہ فرد کے علاوہ جو اُن لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ آلاتش ملوٹ کرتی ہے۔ البتہ اسکی حکمت میں یہ بات مقلدہ ہو چکی ہے کہ اس سلسلہ میں فرد کو جن نشأتوں میں سے سفر کرنا پڑتا ہے، اُن میں سے ایک نشأۃ اُس نشأۃ سے چواؤں سے پہلے تھی، ضرورتہ استفادہ کرے +

اس فرد کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ فرد کو "محبت ذاتی عطا ہوتی ہے۔" محبت ذاتی بارہت ہے نقطہ چشم سے جو اپنے علم، حال اور نشانہ میں اُس مقام کی رفت لوٹا ہے، جہاں سے کہ اُس کی حرکت کی ابتداء ہوئی تھی۔ باقی رہے رد کے علاوہ اور لوگ تو ان کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اور فرد کے ان عکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ فرد کا ایک نشانہ سے دوسری نشانہ بُل منتقل ہونے کا حقیقی سبب صرف محبت ذاتی ہوتا ہے۔ اس احوال کی فضیل یہ ہے کہ فرد کا جب ایک نشانہ کے مستقریں درود ہوتا ہے، تو اس حالت میں اُس کے لئے ضروری ہے کہ اُس خاص نشانہ کے جواہر کام ہیں، ان کی طرف وہ بچھہ دیر التفات کرے۔ اور اس نشانہ کی جرأتی بلند ہے، اُس سے فرد کا اتصال ہو۔ اور اس پر وہ پوری طرح قابو پائے چنانچہ اس مقام پر فرد سے وہ وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں، جو فرد کے سوا دوسرے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ الغرض جب فرد اس نشانہ کی آخری حد تک کوٹے لرے تو اُس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نشانے سے س طرح نکال لے جیسے ایک بچھہ ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو بطنِ مادر کی حالت یعنی "نشانہ جنینہ" سے الگ کر لیتا ہے اس میں فرد کی ایک نشانہ سے باہر آنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے کہ فرد ایک نشانہ کی منزل کو ختم کر کے باہر نکلے تو وہ نقطہ چشم جو اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے اصل مقام شریت اور اپنی پہلی بیانی طحالت کو یاد کرتا ہے۔ اور اُس کی طرف اس نقطہ چشم کا

اشتیاق پڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نقطہ حبیبیہ کا خود اپنے اصلی مقام او
پنی پہلی حالت کے لئے سرگشہ و شیفہ ہونا محبت ذاتی ہے اور اگر
محبت ذاتی کی خصوصیت یہ ہے کہ جبکہ فرد سے اُس نشأۃ کے علاقہ کردا
جائے ہیں۔ جس میں کہ وہ ہو۔ اور وہ مر جاتا ہے اور اس کا نہ اُس کے
کثیف ارضی جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ وقت آ
ئے کہ اُس کے نئے سے اُس کی روح بھی الگ ہو تو پھر نقطہ حبیبیہ کی محبت
و شیفتگی اور اُس کی نشأۃ سے بے تعلقی واپس آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح
جب روح کے الگ ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر نقطہ حبیبیہ کی
محبت و شیفتگی اور نشأۃ سے اُس کی بے تعلقی اُس کی طرف لوٹی ہے۔ ا
یہ سلسلہ پر اپر جاری رہتا ہے، بہاں تک کہ یہ نقطہ حبیبیہ اپنے اصلی مقام
سے جہاں کہ وہ پہلے بسیط حالت میں تھا، جا کر مل جاتا ہے۔ +

باتی رہ نقطہ حبیبیہ کا بدلن کے نشأۃ پر سواری کرنا، یعنی اُس ہم
پوری طرح قابو پالینا، تو یہ چیز انبیاد میں تو بالکل ظاہر ہے۔ البشرا نبی
کے علاوہ جو اور لوگ ہیں، وہ انبیاد کی دراثت کے جو مناسب ہیں جیسے
کہ مجددیت اور قطبیت اور اُن کے آثار و احکام کا ظور۔ یہ ان کے حامل
ہوتے ہیں۔ داقعہ پہ ہے کہ ہر علم اور ہر حال کی حقیقت تک پہنچنا، اور
ہر مقام کی اچھائیں کو جمع کرنا، یہ چیزوں جسے کہ خلافت پیدا ہوئی ہے،
اور نیز جب سے کہ ہر انسان میں رقاۃ یعنی لطائف کا ظور ہوتا ہے۔ اور
ہر رقبہ کے مناسب جو احکام ہیں ہُن کا لیعنی ہوا ہے۔ اور ہر قیمة کے

شارفزادائی سے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک حالت دوسری
البت میں خارج منیں ہوئی، یہ چیزیں حاصل ہیں +

اب رام نقطہ جبیہ کا نشأہ نسہ کی پیٹھ پر سواری کرنا، یعنی اس پر
کا بولپانا، تو کبھی یہ چیز لئے کے اُن علوم کے لئے جو اپنے اپدانا میں تقدیر
ہیں، اُس تدلیٰ عظمت میں جس سے کہ طبیعت کلیہ بھری ہوئی ہے، پہنچنے
کا ذریعہ بنتی ہے اور کبھی یہ خارج سے آئی دالی صورتوں اور کون و مکان
میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے فیضان کا دامن ہوتی ہے -

اس بارے میں اگر تم مجھ سے اصل حقیقت معلوم کرتا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ
زد کا جو بھی حال، یا مقام یا منصب ہوتا ہے، وہ اُسی کے اندر جو رقیقہ
ہے، اُس کے اور اُس کی تدلیٰ کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ اب چونکہ صورت
ہے کہ فرد کا حال اور منصب تو تمام کے تمام عالم کو ڈھانپ سکتا ہے -

اس لئے یہ احوال اور مناصب خود اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، جب
یہ بات واضح ہو گئی تو تمہیں چاہیے کہ فرد سے جو اس طرح کی بائیں صادر
ہوتی ہیں، جن میں اُس کی بڑی بڑی ہمتوں کے سر کرنے اور بلند مرتبہ منا
پر فائز ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تم اُس کی ان پاؤں کو ان معنوں
پر محول کرو۔ اور اگر تم سمجھ دار ہو تو جان لو کہ اس مسئلہ کا جو خلاصہ مطلب اور
اس کی جو حقیقت ہے، وہ ہم پہلے ہی بیان کرائے ہیں +

امان میں دوں ظاہر و نمایاں رقیقہ ہیں۔ اور ان میں سے ہر رقیقہ کا
اپنا خاص حکم اور اثر ہوتا ہے۔ اور اُس رقیقہ سے اُس کے مخصوص اشار کا

ظاہر ہونا ایک لازمی امر ہے۔ چنانچہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جس میں کوئی رفیقہ ہو اور وہ چاہے کہ اُس رفیقہ سے اُس کے مخصوص آثار ظاہر ہوں، کیونکہ یہ رفیقہ پیدائش ہبی سے اُس شخص کی اصل جلت میں داخل ہوتا ہے۔ ان رفائق میں سے ایک رفیقہ فریب ہے اور وہ مقابل ہے جیسے اکتسابی علوم سے جیسے کہ علم حدیث ہے اور نیز یہ رفیقہ مقابل ہے اُن طرائق تصوف کی برکات کے جو طرائق کہ مشائخ صوفیاء کی طرف منسوب ہیں۔ اور ایک رفیقہ عطا ردیہ ہے جو تصییف و تالیف جیسے اکتسابی علوم کے مقابل ہوتا ہے۔ اور اس رفیقے والے کی ہر علم میں جس پر کہ اُس کی نظر ہو، اپنی خاص رائے ہوتی ہے۔ خواہ وہ علم از قسم معقولات ہو، یا از قسم منقولات، اور انسان کے اندر ایک رفیقہ زیریہ ہے جو کہ جہاں اور محبت رفیقہ ہے۔ اس رفیقے والا ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ اور ہر ایک اُس سے اس طرح محبت کرتا ہے کہ طرفین کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور اس میں سے ایک رفیقہ شریعہ ہے، جو تمام پر فالب آئے کے مقابل۔ اور اس رفیقے والے کا یہ علم بمعنا استھانا قاً اور حفظاً ہوتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی ساری مخلوق ایک حکمہ کے سخت آجائے۔ اور انسان کے اندر ایک رفیقہ بزرگیہ ہے جو ہر کمال کے اثبات، اُس کی مضبوطی اور اس کے راست ہو کے مقابل ہوتا ہے۔ اگر میر رفیقہ نہ ہوتا تو ہر چیز بودی اور بے پیادگی۔ ایک رفیقہ مشتریہ ہے۔ اور یہ قطبیت، امامت اور ہدایت کا رفیقہ ہے۔ اس رفیقہ والا لوگوں کے لئے مرکز بنتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعہ اپ-

رتب کا قریب حاصل کریں۔ اور ایک رقیقہ رُحلیہ ہے۔ اور یہ مقابل ہوتا ہے ہر رقیقہ کے بقاد، اُس کے اثبات اور ایک زمانہ دراز تک اُس کے اثر انداز ہونے کے۔ اور نیز سب سے تجسس ہو کر طبیعت کلیہ تک پہنچنے کے۔ اور انسان کے اندر ایک رقیقہ ملاد اعلان کا ہے جو اُس سمت کے مقابل ہوتا ہے، جو ہر اُس چیز کو جس سے وہ لمحت ہوتی ہے، پوری طرح گھیر لیتی ہے۔ اور یہ رقیقہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اور اُس کی خفاظت کی شیخ یعنی اُس کے لئے بطور ایک قابل کے بن جاتا ہے۔ اور ایک رقیقہ ملاد ساقی کا ہے اور یہ اُس لوز کے مقابل ہوتا ہے چو اس رقیقہ دالے کے یا ہمتوں، بیرون، اُس کی آنکھوں اور اُس کے سارے اعضا میں داخل ہوتا ہے اور ایک رقیقہ اُس تدّلی الٰہی کا ہوتا ہے جو بزرگان خدا کے لئے نازل ہوتی ہے۔ اس تدّلی کے دو شعبے ہو جاتے ہیں۔ زان میں سے ایک تو نور بنوت کا شعبہ ہوتا ہے اور دوسرا ولایت کا +

ان سب رقائق کے بعد اس شخص کا نفس جبی طور پر قدسی بن جاتا ہے۔ اور اُس کی ایک حالت دوسری حالت کے لئے مانع نہیں ہوتی۔ اور نیز جب وہ سب چیزوں سے تجسس اختیار کر کے نقطہ کلیہ سے متصل ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں نقطہ کلیہ کے احوال میں سے کوئی حال اُس پر دارد ہوتا ہے تو وہ فوراً اُس حال سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ پیشک اس اجمال کی تفصیل بھی آئے گی اور اس نقطہ کی شرح بھی ہو گی →

مزید برآل اس فرد سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں، ان کا صادر
ہونا فروکے علاوہ دوسرے سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں، ان کی طرح
ہنسی ہوتا۔ اس ضمن میں بات درصلی یہ ہے کہ دوسرے سے جو کرامات
دخارق ظاہر ہوتی ہیں، ان کی نوعیت یہ ہے کہ ایک کیفیت اس شخص
پر غالب آئی اور اُس نے اُس کے وجود کے تمام خصوصیات پر قبضہ کر لیا ہوئے
اس طرح وہ کیفیت اُس پر پوری طرح سے مسلط ہو گئی چنانچہ آثار و کارما
کے سلسلہ میں جو کچھ اُس سے صادر ہوتا ہے، اُس کا دار و مدار صرف اسی
کیفیت پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس فرد کا یہ حال ہے کہ اُس کے
وجود کا ایک جزو اپنی اپنی جگہ مستحق ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ تم ابھی جان پکے ہو۔ یہ ہے کہ فرد میں ایک تودہ ملکی اور اجتماعی رفاقت
ہوتے ہیں جو افلاک کے نقوص اور ان کی طبیعتوں سے آتے ہیں۔ اور نیز
وہ رفاقت، جو عناصر سے آتے ہیں اور اسی طرح وہ رفاقت بھی ہیں، جو ان
مختکف اضافات کے کمالات سے آتے ہیں، جو خود اُس سے حاصل ہوتے ہیں
الغرض ان چیزوں کی وجہ سے فرد کے وجود کا ایک جزو اُس کے وجود کے
دوسرے جزو پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب اُس پر اُس کی ملکی
قت قوت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ اُس کی بھی
قوت اپنے تھا ضرر عمل سے معزول ہو جائے۔ اور اسی طرح جب اُس پر
بھی قوت کا غلبہ ہو تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اُس کی ملکی قوت اپنے اقتضا
سے دستبردار ہو جائے۔ اور نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب چیزوں سے بخوبی

اختیار کر کے کسی کمال کا اسی طرح سے ہو جائے کہ اس کمال میں اُس کے فتاہ ہونے کی وجہ سے اُس کے دوسرے کمال کا اثر محو ہو جائے۔ مختصرًا فرد میں ہر چیز را پہنچنے اندازے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کبھی اُس سے کوئی خارقی عادت واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو پہنچے کی ان دو وجہوں میں سے اُسکی کوئی ایک وجہ ضرر ہوتی ہے۔ یا تو ذات حق جو کہ سب کی مہربانی ہے، اُس کا یہ ارادہ ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو کوئی دُنیوی یا آخری نفع پہنچائے یا اُن سے کسی مصیرت کو دور کرے۔ یا یہ کہ اُس نے بندوں کے اعمال پر اُن کو عذاب دینے کا ارادہ کیا۔ اور ذات حق کا یہ ارادہ اس فرد کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اور اس صحن میں جو خرقی عادت واقعہ رونما ہوا وہ اس فرد کی طرف منسوب ہو گیا۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں اس فرد کی اصل حیثیت ایسی ہوتی ہے، جیسے کوئی میمت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی اس معاملہ میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا + اس صحن میں فرد سے جو خارقی عادت واقعہ ظاہر ہوتا ہے، اُسکی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سلسلہ میں جب فرد نے اپنی عقلی احکمت اور فراست کی طرف رجوع کیا۔ اور اس نے دیکھا کہ ایک چیز میں خود اس کے لئے یاد و سروں کے لئے نفع ہے۔ تو اُس کے اندر جو رقائق ہتھے، اور جن کا کہ ذکر اُد پر ہو چکا ہے، اُن میں سے ایک رقیقة اُس چیز کے منہ جو امور ہوتے ہیں، اُن کی طرف بسط کرتا ہے۔ اور اس طرح لوگوں کے لئے ایک خارقی عادت واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور

پر اس فرد نے جب اپنی عقل، حکمت اور فراست کی طرف رجوع کیا تو اُس نے سوچا کہ وہ واقعات جو بعد میں رُونما ہونے والے ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اُس کے اندر جو رقیقہ قسمیہ تھا، اُس میں بسط ہوا۔ اور اس سے اُس فرد نے ہونے والے واقعات کا علم حاصل کر لیا۔ اور اس علم کو اُس نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یا مثلاً اُس فرد نے ایک جماعت کو سحر کرنے کا ارادہ کیا، تو اس سے اُس کے رفاقت میں سے جو رقیقہ شہیہ تھا، اُس کے اندر بسط پیدا ہوا۔ اور اس کی وجہ سے اُس فرد نے جماعت کو سحر کر لیا۔ الغرض یہ ہے دوسری جہ فرد سے ظہور گرامات و خوارق کی +

علاوہ ایس اس دُنیا کی زندگی میں فرد کے خواص میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اُس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ربت کی پیٹ پورے اخلاق اور اپنی پوری طبائع کے ساتھ عبادت کرے۔ اس میں بات در حاصل یہ ہے کہ انسان کی یہ عادت میں داخل ہے کہ جب اُس کے اندر کسی دُنیوی نفع کے حصول یا دُنیوی مضرت کو دُور کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ اُس کے لئے شجاعت کے کام کرتا ہے۔ اب اگر یہ انسان "فرد" ہو، یعنی جس "فرد" کے کہ اوصاف اوپر گزرنے کے ہیں، تو اُس کے لئے احکامِ حق میں سے ایک حکم ملاد اعلیٰ میں متشکل ہوتا ہے۔ اور پھر اس حکم سے جو ملاد اعلیٰ میں وجود پذیر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس فرد کے نفس میں ایک اثر متریخ ہوتا ہے۔ جس سے اُس فرد کے اندر ایک خواہش

پیدا ہوتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لئے اُس کے اخلاق میں سے کوئی خلق پیش نہیں کرتا ہے چنانچہ اس طرح اس فرد سے اعمال و افعال رونا ہوتے ہیں۔ اس حالت میں فرد کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں تک اُس کی اپنی خواہش اور مرضی کا تعلق ہوتا ہے وہ اس معاملہ میں مقام قائم ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنی ہر خواہش اور مرضی سے درگذر کرتا ہے۔ اور اس کی اپنی کوئی خواہش اور مرضی باقی نہیں رہتی۔ اور جہاں تک ذات حق کے ساتھ اُس کے تعلق کا معاملہ ہے، وہ مقام بغا میں ہوتا ہے، یعنی اگر اُس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اُس کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے تو صرف ذات حق کی۔ الغرض یہ مطلب ہے۔ فرد کا پہنچنے تمام اخلاق کے ساتھ اس دل تعلیے کی عبادت کرنے کا۔ اخلاق کی طرح انسان کی اپنی طبائع بھی ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے ہر طبیعت کے لئے فنا دلقا کا مقام اور کمال ہے، جو اس صورت میں انسان کو اس دل تعلیے کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان کے طبائع میں سے کوئی طبیعت ذات حق میں فنا ہو جاتی ہے تو اس طبیعت سے افعال و اعمال کا ظہور ہوتا ہے۔ اور فنا و بقا کے علاوہ جو دوسرا کمال خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کی طبائع میں رکھا گیا ہے، جب یہ کمال انسان کی کسی طبیعت سے مرکب ہوتا ہے تو جس ستائے کا یہ کمال ہوتا ہے، اُسی کے مطابق اس طبیعت سے معنوی تخلیقات کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر اس کے نسبہ میں زہرہ متارہ کا اثر ہے۔ تو اس کا تفاصیل یہ ہے کہ اُس کی ہر سُچ جمال

سے لذت اندوز ہو جو اللہ نے اپنی کسی حسین چیزوں میں رکھا ہے۔ اور نہ
وہ جمال سے اپنی اس لذت اندوزی ہی کو اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی
فرمانبرداری اور اُس کی بارگاہ میں اپنی نیازمندی سمجھے۔ چنانچہ اُس کی
یہ ساری حسین اپنی ان جمالي لذت اندوزیوں کے ساتھ، اور وہ تمام
حسین چیزوں جن کے جمال سے وہ لذت اندوز ہوتا ہے گویا یہ زبانیں
ہو جائیں گی جو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اور اس سے اُس شخص پر ایک
عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی، جس میں وہ مستغرق ہو جائے گا۔
اور ایک مدت تک وہ اپنی اس کیفیت کے لئے میں مست رہے گا۔ یہ
تو انسانوں پر نہرہ و ستارہ کی طبیعت کا اثر ہوا۔ اسی پر تم دوسراستاروں
کی طبیعتوں کے چو اثرات انسانوں پر منتسب ہوتے ہیں اُن کا بھی قیاس
کرو ।

اس مسئلہ میں اگر تم مجھ سے حق بات پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ ”فرد“ کے
حق میں جو اُن کمالات کا حامل ہوتا ہے، جن کا ذکر اوپر ہو چکا، اپنے
رب کی عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اپنی طبیعت کے کسی فطری
تفاضل کو بجا لارہا ہو۔ چنانچہ اس تفاضل کو بجا لانے میں اللہ تعالیٰ
خود اُس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف
سے اُس کے کسی فعل پر تنگیہ ہوتی ہے تو اُس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے اُس کو اپنی محضوں نعمت کا ایک لباس پہنایا ہتا۔ لیکن اُس
نے اس لباس کے جو حقوق رکھتے، اُن کو ادا کرنے میں گوتا ہی کی۔ یہ تو

اس دنیا کی زندگی میں فرد کے جو خواص ہیں، اُن کا بیان ہوا۔ اور عالم
بزرخ میں فرد کے خواص یہ ہیں کہ جب وہ موت کے بعد بدن کی قید سے
نکل جاتا ہے تو اُس کے اندر اُس "طبعیت عامہ" کا اشتیاق پیدا ہوتا
ہے، جو ہر موجود چیز میں پائی جاتی ہے۔ فرد کا اس طبیعت عامہ کی
طرف یہ اشتیاق ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ انسان کے نفس ناطقہ کا
بدن کی طرف اشتیاق ہے۔ لیکن ان دو نوں میں فرق یہ ہے کہ نفس
ناطقہ کا اشتیاق بدن کی طرف بسلسلہ تدبر ہوتا ہے اور طبیعت عامہ کی
طرف فرد کا اشتیاق عشق و محبت کا ہوتا ہے۔ الغرض مرلنے کے بعد جب
اُس فرد میں "طبعیت عامہ" کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا عجیب یہ
ہوتا ہے کہ فرد خود اپنی ہمت سے تمام اجزاء کے عالم میں سرایت کر جاتا
چنانچہ وہ پتھر میں پتھر، درخت میں درخت، فلک میں فلک اور فرشتے میں
فرشتہ ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں ایک حالت سے دوسری حالت میں
جلنے سے کوئی چیز اُس کو نہیں روک سکتی۔ جیسے کہ خود طبیعت مطلقہ
کی اپنی کیفیت ہے کہ وہ ہر شے میں موجود اور ہر چیز میں جاری اساري
ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں فرد نے پھر جو حیثیت غریب آثار و احکام صادر ہوتے ہیں چنانچہ
اُن آثار و احکام میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو لبطور علم حضوری کے
جان جاتا ہے کہ اُس کا مقام طبیعت اولیٰ کے ساتھ ہے۔ اور فرد کا
اس حقیقت کو جانتا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انسان کا نفس یہ جانے کہ وہ
کھڑا ہے۔ حالانکہ اصل میں اُس کا بدن کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کا ایک

حقیقت کو اس طرح جانتا یہ علم حضوری ہے۔ لیکن انسان کا یہ جانا کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ جانتا علم حضوری نہیں بلکہ اسے علم حصولی کہتے ہیں +

وہ عجیب و غریب آثار و احکام جو فرد سے موت کے بعد جبکہ کہ
وہ عالمہ بزرخ میں ہوتا ہے، اور اُس کے اندر طبیعت عامہ کا اشتیاق
پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اُس کی مستہ عالمہ کے تمام اجزاء
میں سرایت کر جاتی ہے، ظاہر ہوتے ہیں، اُن میں سے ایک یہ بھی
ہے کہ فرد کی یہ حالت بعض دفعہ سبب بن جاتی ہے کسی تدبیر کلی کے
فیضان کا۔ چنانچہ یہ تدبیر کلی کسی موطن اور مقام میں ظہور پذیر ہوتی ہے
اور اس طرح یہ ذریعہ بنتی ہے برکتوں کے نزول کا۔

وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا تَدِقُ صِفَاتُهُ
وَمَا كَتَمْدَهُ أَخْطُى لَدَائِي فَأَجْسَلُ

اس مقام سے اوپر جو مقام ہے اُس کی صفات بڑی دقیق اور
نازک ہیں۔ اس لئے میرے نزدیک مناسب اور موزول یہی ہے کہ ان پر
پرداہ ہی پڑا رہے ॥

اس مشاہدہ میں یہ حقیقت بھی شامل ہے — اس حقیق

میں سید عبدالسلام بن بشیش نے صرفیار کے مشرب کے مقابل جوانش

فرمایا ہے، اُس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں موصوف فرمانے
ہیں۔ ”اے رب! حجابِ عظیم کو میری روح کی زندگی بنا۔ اور میں وہ
حجابِ عظیم ہے جس کی روح میری حقیقت کا راز ہے۔ اور اس حجابِ
عظیم کی حقیقت حق اول کے تحقیق ہونے کے ذریعہ سے میرے تمام عالموں کو
جامع ہے۔“ موصوف کے اس قول میں حجابِ عظیم سے مراد نبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی ذاتِ اقدس ہے۔ جیسے کہ پیدا عبد الاسلام کے اُس قول سے
جو انہوں نے پہلے فرمایا تھا، واضح ہے۔ اور وہ قول یہ ہے۔ ”اے رب! اے
پیرا دہ حجابِ عظیم جو تیرے لئے تیرے سامنے قائم ہے پیدا عبد الاسلام
نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس کو اس قول میں ”حجابِ عظیم“
سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ حقیقتِ محمدی مُبیدِ عات میں، یعنی وہ چیزیں
جن کا ذاتِ حق سنے ابداع فرمایا ہے، سب سے پہلے وجود میں آئی۔ اور
اس لئے یہ سب سے عظیم تریں ہے۔ چنانچہ اس کے ثبوت میں صوقیاء
رسول اشد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل شرکتے ہیں۔ ”سب سے پہلی
چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ میرا نور تھا۔“ الغرض ذاتِ حق نے
شب سے پہلے حقیقتِ محمدی[ؐ] کا ابداع فرمایا۔ اور پھر اس حقیقتِ محمدی سے
لہ وجود باری تعالیٰ سے یہ کائنات کس طرح ظاہر ہوتی۔ اس ظہور کا ابداع
کہتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مُبیدِ عات اور کائنات کی کثرت کو مُبیدِ عات کہتے
ہیں۔ مترجم

لہ حقیقتِ محمدی اور ہے اور درجودِ محمدی اور سان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، (متجم)।

اُندر حقائق نکلے اور اس طرح یہ حقیقتِ محمدی ذاتِ حق اور دوسرے، جو حقائق بعد میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان بطور ایک واسطے کے بن گئی۔

مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے، وہ باقی سب انبیاء کے لئے بمنزلہ ایک بنی کے ہے۔ کیونکہ سب انبیاء کی ارداخ نے آپؐ ہی کی روح کے واسطے سے علوم و معارف اخذ کئے۔ چنانچہ جس طرح ایک بنی اپنی قوم میں ذاتِ حق کا ترجمان ہوتا ہے۔ اور وہ لوگوں کے اور ذاتِ حق کے درمیان واسطہ میں جاتا ہے، اسی طرح بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح اقدس انبیاء کی ارداخ کے لئے ترجمان بنی۔ اور وہ ان کے اور ذاتِ حق ہے درمیان واسطہ ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سماںت اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ (حضرت کے دن) ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جب کہ ہم ہر امت میں سے اس کے پائے ہیں ایک گواہی دیتے والا حاضر کریں گے۔ اور (لے محمد) ہم تمیں ان سب ہولاء پر بطور اگواہی دیتے والے کے لایں گے۔ اگر ہم اس آیت میں لفظ ہوا و چھے، اس کے معنی گواہی دیتے والوں یعنی انبیاء کے لیں ہے۔

تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صورت جس میں آپؐ اس عالم ناصوت میں ظاہر ہوتے اور جس صورت سے کہ صحیحات کا صندوق علی میں آیا اور جس صورت کی زبان سے معارف و احکام بیان کئے ہجتے۔ مگر اپنے کی یہی وہ صورت ہے جو ذاتِ حق اور خلقیت کے درمیان واسطہ برپی۔ اور

لوگوں نے اُس کو ذات حق سے قریب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔
 علاوہ اذیں ہم اس سے پہلے بتائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین کلی نشائیں رظیور تھیں۔ اور ان تین نشائتوں کے مطابق آپ کے توسیعی لوگوں کے لئے داسطہ بننے کی بھی تین تسمیں ہیں۔
 تھیں کی ان نشائتوں میں سے پہلی نشائۃ عبارت ہے۔ اُس مرتبہ سے جس کو صوفیاً نے "حقیقت محمدیہ" کا نام دیا ہے۔ اور "حقیقت محمدیہ" سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسمائے کلیر کے احکام کا خارج ہے میں کلی لحاظ شیعین ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی نشائتوں میں سے دوسری نشائۃ عبارت ہے۔ اُس مرتبہ سے اجس کا نام صوفیاً کے باں ترجمہ محمدیہ ہے۔ اور اس سے مراد انسان کلی کا اُس کے مطابہ ہر اور تقدیمات کے ظہور کے وقت "حقیقت محمدیہ" کے مقابل خود اُس کے اپنے آپ کا تعین ہے اور آپ کی نشائتوں میں آخری نشائۃ وہ ہے جو عبارت ہے آپ کے اُس مرتبہ سے جس میں آپ اس عالم ناسوت میں ظاہر ہوئے میں نشائۃ سے آپ کے اُن ظاہری کمالات کا تعلق ہے جو گمراہ اُمّت کو راہ راست پر لانے کے لئے آپ سے ہیں وقت ظاہر ہوئے جب کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کو لوگوں کی طرف بنی بنا کر بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ نے اندھی آنکھوں کو روشنی دی، ابھرے کاوند کو قوتِ سماحت بخشی۔ اور نہ بڑھ پر دشیں جو پیٹے ہوئے رہتے، اُن کو بیدار کیا۔ اور اس طرح وہ لوگ اس قابل ہو گئے کہ آنکھوں نے اللہ کے ایکاں ہونے کی شہادت دی۔ اور وہ تہذیب

کی نعمت سے فیض یا بہوئے۔ اور انہوں نے ان احکاماتی کو جن کا لوگوں کو پابند بنایا گیا ہے، اور نیز ان احکامات کے علاوہ دوسرے علی معارف کو حاصل لیا۔

ادلیاں میں سے کامل ترین دلی وہ ہوتا ہے، جو ان تین نشأتوں میں جن کا کہ ذکر بھی ہوا ہے، خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوخے پر ہو۔ لیکن اس صورت میں یہ بات یاد رہے کہ وہ جزوی حقائق جو محبت، محبوبیت اور آن سے ملئے چلئے دوسرے جو مکالات ہیں، ان کی اپنے اندر استعداد رکھتے ہیں، ان کا تعین اُسی وقت ہی ہوتا ہے جب انسان کلی اپنے چیزوں (مقام) میں مستقل طور پر ظہور پذیر ہو چلتا ہے۔ چنانچہ ان جزوی حقائق کا خارج میں پہلا تعین حقائق کلیہ کے تعین روایی کے مشاہد اور اُس کے مقابل ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر حب تک جزوی حقائق کا اس مرتبہ میں تعین ہنیں ہو جانا۔ اُس وقت تک حقیقت محمدیہ سے ان جزوی حقائق تک مدد و نیں پہنچتی، واقعہ بیرہے کہ ایک دلی میں جو جامعیہ ہوتی ہے، وہ اسی حقیقت محمدیہ کی دراثت ہے۔ اور اُس دلی میں جو استعدادیں ہوتی ہیں۔ وہ اُسے روایج محمدی سے درستہ میں ملتی ہیں۔ اس عرض میں عطا یات کا مرتبہ تو ایک ہے لیکن ان عطا یات کے وجود میں آئے کے اسرار متعدد ہیں۔

قصہ مختصر یہ بات تو بطور تمثیل کے طے ہو گئی۔ اب ہم سید عبدالسلام ش

کے ہمس قول کی طرف پھر جو عکس کرتے ہیں۔ موصوف درصل اللہ تعالیٰ و تعالیٰ

سے اپنی فطری استعداد کی زبان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ نہیں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ان تین نشائون میں بالاجمال، اور نیز ان میں سے ہر نشائۃ کے مخصوص کمالات میں بالتفصیل آپ کا دارث بنائے چنانچہ شیخ موصوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی ثبوت میں جو کمالات تھے، ان کا دارث بننے کے سوال کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔ ”لے ربت! تو حجابِ عظیم کو میری روح کی زندگی بنا۔ اس روح سے اُن کی عزادروہ روح ہے جو اس مادی بدن میں پھونکی جاتی ہے۔ اور پھر وہ زندگی میں اس بدن کی مدد پر اور مشتظم ہوتی ہے اور اسی سے بدن میں جس اور حرکت پائی جاتی ہے۔ اور یہی وہ روح ہے جو جزوی فراد کو جزوی کمالات کا اہل بناتی ہے۔ اور نیز وہ کلی افراد جو مجموعی کمالات کی استعداد کے مالک ہوتے ہیں اُن کلی افراد کے اندر جو صورتِ ناسو نیہ ہے، اُس کو کہیں بیان کرستے ہوئے ہم اس روح ہی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ الغرض شیخ موصوف کا یہ کہنا کہ لے ربت! تو حجابِ عظیم کو میری روح کی زندگی بنا۔“ اس میں شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو اپنی روح کے لئے زندگی کی تشبیہ دی ہے۔ اور ظاہر ہے زندگی ہی روح کا سب سے پلا کمال ہے۔ چنانچہ شیخ نے آپ کے فیض کو زندگی سے جو تشبیہ دی ہے، اس تشبیہ میں جوں ہے وہ تم سے مخفی زندگیا چاہتے۔

اسے چل کر شیخ نے اپنی دعای میں اس سوال کی خود ہی لشیع کر دی ہے، چنانچہ لے ربت! تو حجابِ عظیم کو میری روح کی زندگی بنا۔“ کہنے کے بعد

وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ "یہی وہ حجابِ عظم ہے جس کی روح میری زندگی کا راز ہے" اور یہ اس لئے کہ جہاں ارواح کتنی کا تعلق ہوتا ہے، وہاں سے ہی حقائق جزدی کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ یعنی حجابِ عظم کا تعلق ارواح کتنی سے ہے۔ اور انفرادی زندگی حقائق جزدی سے متعلق ہوتی ہے۔ اور اس سلسلہ میں تم سے یہ پات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو جس کا کہ فیضانِ موصوف اپنی حقیقت پر چاہئے ہیں، لفظ "ستر" یعنی راز سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس لفظ "ستر" سے جس کا آثار و کمالات کا معنی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس "ستر" سے یہ مطلب بھی تکلتا ہے کہ اس میں حسن و خوبی کے دیکھ ہی معیار پر کیا ہے ہبھی کے لئے استعدادوں کا تعلق ہو گیا ہے۔

اس کے بعد شیخ اپنی اس دعا میں فرماتے ہیں: "حجابِ عظم کی حقیقت میرے تامن عالموں پر جامع ہے" اور یہ تعبیر ہے شیخ کے اس سوال کی کہ وہ کمالاتِ جن کی دارت "حقیقتِ محمدیہ" ہے۔ اور اگر چوپی "حقیقتِ محمدیہ" اپنے کم مرتبے میں ظاہر ہوئی ہے۔ ملے رب اتو مجھے ان کمالات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارت بناؤ۔ اس ضمن میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس جیت سے کسی ولی کے کامل ترین ہونے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ خالج میں جو نشانیں میں اُنکے مقابل اُسنے جی کے اندر رقائق ہوں اور درصل واقع ہے کہ ان رقاوں میں ہر قیمتی کی شرک نشانہ کی اجتماعی صورت اور اُسکے احوال کی معرفت سے عبارت ہوتا ہے چنانچہ ہم مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے والے کی حقیقت پر آپ کی طرف

سے جو فیضان بھی ہوگا، وہ تمام عالموں کو جمع کرنے والا ہو گا اور اسی لئے شیخ اس کے بعد بھی اسی دعا میں فرماتے ہیں کہ "لے ربِ حق اذل
کو متحقق کر کے اس کو واسطہ بنائے جا پ خلیم میری روح کی زندگی ہو جانے۔"
"تحقیق کر کے" کے معنی "خارج" میں کسی چیز کو متحقق کرنا ہے اور یہاں اس
بے مراد "فیض منقدس" سے ہے۔ اور اس شیش میں قلم سے یہ بھی مخفی نہ ہے
کہ یہاں مُضہر کی حکم نظر کا ذکر کرنا اس پات پر دلالت کرتا ہے کہ حق
اول جب متحقق ہو گا تو اس کا تحقیق اس حاظ سے ہو گا کہ وہ حق ہے
"حق" ان معنوں میں کہ وہ بذاتِ خود بھی متحقق ہوتا ہے۔ اور اپنے سوا
دوسروں کے تحقیق کا باعث بھی بتتا ہے۔ اور نیز وہ مُبدلا ہے تاہم اشیا
کا۔ اور اس لئے وہ بھروسے اول ہے۔ اور وہی سب وجودوں کا وجود اول
اور ماہیات کی پہلی اہمیت ہے ।

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی شامل ہے — معلوم ہوتا
چاہئے کہ عارف کے لئے خود ذاتِ حق کا وصال اور وہیتِ حق کے اسلام و
تجلیات کا وصال برابر ہوتا ہے۔ بے شکری ہم کہتے ہیں کہ عارف کو خود
ذاتِ حق کا وصال ہوتا ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ عارف اُس
ذات کا عالم اور اور اگ رکھتا ہر یا نہ رکھتا ہو۔ اس ضمن میں جو کچھ ہم نے
یہاں کہا ہے، تحقیقین کے کلام سے ہماری اس بات کے خلاف چودہ ہم

ہوتا ہے، تو اُس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ محققین نے ذاتِ حق سے نفس و صال کا انکار نہیں کیا۔ البتہ اس عکسلہ میں انہوں نے ذاتِ حق کو جانتے اور اُس کا احاطہ کر سکتے کی ضرورت فی کی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سالک جب اُس حقیقت تک پہنچتا ہے، جس کو "انا" سے تحریر کرتے ہیں۔ اور نیز جب وہ اُس حقیقت "انا" کو اُس کیچھ جو مراتب ہیں، ان سے سترہ اور مجرد کر لیتا ہے۔ تو اس حالت میں سالک کا تحقیق، تقریر اور وجود کی طرف اتفاقات ہوتا ہے۔ اور ان سب کی اصل وجود مطلق ہے۔ اس وجود مطلق کے کمی تجزیات اور بہت سے لباس ہیں۔ سالک تحقیق، تقریر اور وجود کی طرف اتفاقات کے ضمن میں وجود مطلق کے ہر تجزیل اور اُس کے ہر بیان کو اس تجزیل اور بیان کی حق کے ذریعہ جان جاتا ہے۔ چنانچہ وہ عالم مثال کا عالم مثال کی حق کے ذریعہ اور عالم روح کا عالم روح کی حق کے ذریعہ ادراک کرتا ہے۔ اور اس طرح وہ اُذر آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اُس حقیقت کا جس کے بعد کوئی اور حقیقت نہیں، اخود اُس حقیقت کے ذریعہ ادراک کرتا ہے۔ اور یہ ہے عارف کا ذاتِ حق سے وصال اور اس مقام میں اگر اُس کو علم ہوتا ہے تو اسی حقیقت "انا" کا۔ اور عارف ادا دراک کرتا ہے تو اسی "انا" کی حقیقت کا، عارف باشد شیخ عفیف الدین تسلیمانی نے اسی نکتے کی طرف اپنے ان اشعار میں کس خوبی سے اشارہ فرمایا ہے:-

دَعْوَا مُنْكِرَى فِرْنَزِي بِهَا يَتَفَطَّرُ
مَحْقُّ لِمَاهِيَّتِكَ الْقُلُوبُ بِالْفَطَارِ حَا
دَمَازًا عَلَى مَنْ صَارَ خَارِجًا لِنَحْدِهَا
أَغَارَ أَبُوهَا أَمْ تَنْبِهَهُ جَاءَهَا

”محبوبہ کو میرے پالئے سے جوانکار کرتا ہے اُسکو چھوڑو
اُس کو چھوڑو۔ اُس کا دل شق ہوا کرے۔ اور سچی بات فرمائے
پالئے دل اس قابل ہی ہیں کہ دہ شق ہوا کریں۔ اگر ایک
شخص اپنی محبوبہ کے رخسار کا خال بن جائے تو اُسے اس کی
کیا پردہ ہوتی ہے کہ اس بنا پر محبوبہ کے پاپ کی غیرت مشتعل
ہو گئی۔ یا اُس محبوبہ کے ہمسایہ کو اس کی خبر لگتی ہے۔“

الفرض جو کامیں ہیں، ان گو تو ذات حق کا بالفعل وصال ہوتا ہے
اور اسی طرح اُنہیں ذات حق کے اسلام و تجلیات کے اصول میں بھی فتاو
بلقا اور تحقیق حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں ایسا ہو کہ یہ کامیں اس
کے متعلق حالت انتظار میں رہیں۔ تو یہ بات جائز نہیں ہے بلکہ شک
اس کے بعد یہ صردر ہوتا ہے کہ وجود کی نشائون میں سے ہر نشائۃ
کے جو خصوصی احکام ہوتے ہیں عارف کو یہے بعد دیکھ رے ان میں سے
گزرنا پڑے۔ گویا کہ جیسے عارف نے ذات حق اور اس کے اسلام و تجلیات
کے وصال کے وقت ان تمام نشائون کے خصوصی احکام کا بھی اظہ
گر لیا ہو۔ لیکن عارف کا ان تمام نشائون کا یہ احاطہ اجمالی ہوتا ہے۔
اور اُس کی تفصیل باقی رہتی ہے۔ جتنا بچہ اب جو وصال کے بعد اُسے
ہر نشائۃ کے احکام خصوصی سے گزرنا پڑتا تو پہ تفصیل ہوئی اُس اجمالی
علم کی جو اُسے ذات حق اور اس کے اسلام و تجلیات کے وصال کے
وقت تمام نشائون کے احاطہ کے متعلق حاصل ہوا تھا۔ الفرض ان

بعضوں میں کامیں کی ترقیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے ۔

اس مشاہدہ میں یہ محقق بھی ہے ۔ — ذات اول یعنی خدا نقائے کو اشیاء کا دو جنس سے علم رہوتا ہے۔ ان میں سے ایک اس کے علم کی اجمانی حجت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ذات اول کو اپنی ذات کا علم رہتا تو اس ضمن میں اُس نے وجود کے نظام کے سلسلے میں اُس کا اپنا جواہر قضاۓ ذاتی تھا، اُس کو بھی حیان لیا۔ بات یہ ہے کہ غلطتِ تامہ کا عین وہ علّت جس کا لازمی نتیجہ اُس سے معلوم کا صدور ہو اعلم اس امر کی کفایت کرتا ہے کہ علّتِ تامہ کے ساتھ معلوم کا بھی علم مسائلہ ہو گیا۔ اب جہاں تک کہ اشیائے عالم کا تعلق ہے وہ سب وجودِ الٰہی میں موجود تھیں۔ اور ان کا وجود دہم بنسز لامکان کے میں تھا۔ کب پونکہ ایک چیز جب متحقق ہوئی تو اُس کا متحقق ہونا اس بنا پر تھا کہ ذات واجب نے اُسے متحقق کیا۔ اور اسی طرح ایک چیز دو دوں آئی، تو اس کا وجود میں آنا اسی وجہ سے تھا کہ ذات واجب نے اُسے ایجاد کیا۔ غرضیکہ ہر چیز کے مقابل ذات واجب کا ایک کمال اور اس کا اقتضائے ذاتی ہے۔ اور ذات واجب کے یہی وہ حالات ہیں جو اشیاء کے ظہور کا منبع اور آن کے حقائق کی اصل کتبہ ہیں۔ جناب پھر جس طرح ذات واجب کا ہر کمال خود اپنی خصوصیت کے اعتبارات ایک نہ ایک چیز کو

وجود میں لانے کا مقاصدی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز بھی وجود میں آنے کے لئے ذاتِ واجب کے ایک نہ ایک کمال کی محتاج ہوتی ہے۔ گویا کہ ذاتِ واجب کے پچھلے کمالات اور دیہ اشیاء امر واحد ہیں۔ لیکن یہ کمالات ذاتِ واجب کے لوازم اور اس کے ذاتی احتیارات میں بمنزلہ اُس کے علم، اُس کی قدرت اور اس کی حیات کے ہیں۔ یعنی یہ سب کے سبی معلومات ہیں اُس ذاتِ واجب کی علت تامہ کے۔ اور اُسی سے ان سب کا صد در بھی ہوتا ہے ۷

ذاتِ اول کو اشتیار کا علم جس طرح ہوتا ہے اُس کی پہلی جست یعنی جست اجمالی تو یہ ہوئی۔ ذاتِ اول کے علم کی دوسری جست جست تفضیل ہے۔ اور اس کی شرح یہ ہے کہ ہر چیز جو موجود ہے۔ دو معلوم سے ذاتِ واجب کی۔ یعنی اُس کے وجود میں آنے کے لئے ذاتِ واجب علت ہے۔ اور جو چیز معلوم نہیں یعنی اُس کی کوئی علت نہیں تو اُس چیز کا متحقق ہونا بھی ممکن نہیں۔ اور اس سلسلہ میں یہ بات بھی ضرور طبعاً نظر ہے کہ یہ معاونات ذاتِ حق کی اس طرح محتاج نہیں ہیں جیسے کہ ایک عمارت کا بننا معمار کا محتاج ہوتا ہے یعنی جب عمارت بن گئی تو پھر معمار کی ضرورت نہ ہی بلکہ ان معلومات کو جتنی کہ دوہرالام موجود ہیں، اپنے تتر میں اپنے جو ہر جونے متحقق ہونے اور قیام پذیر ہونے میں برابر ذاتِ واجب کی حاجت رہتی ہے اور ذاتِ واجب کا ان معلوم کو وجود میں لانا، اور اس کا ایک متحقق کرنا ہی فی الحقيقة ان معلومات کے وجود اور متحقیق پذیر۔

لہ مدنہ سکھتو عذر ہی پیدا ہوتا ہے۔ وجود کے لئے کوئی علت پاپے۔ مترجم

ہونے کی وجہ ہے۔ اور نیز اشیار کی مہیات میں آپس میں ایک دوسرے سے جو امتیاز پایا جاتا ہے، تو یہ نتیجہ ہے ذلت دا جب کی طرف ہے بیجا راست تحقیق اور تقدیر کی جو حیثیتیں ہیں، ان کے باہمی امتیاز کا۔ اور ذلت دا جب کا ان معلومات کے ساتھ جو ارتباط پایا جاتا ہے، وہ اس ارتباط سے جو ایک صورت اور اُسکے خلٰ صورت میں ہوتا ہے، ازیادہ قوی ہے۔ اور یہ ارتباط اس امر کا بھی متقاضی ہوتا ہے کہ اس نتیجے پہنچنے والے کے روپ موجود ہوں۔ الغرض ذلت اول ان اشیاء کو ان اشیاء کی کے ذریعہ سے جانتی ہے، نہ کہ ان صورتوں کے ذریعہ سے جو ذلت دا جب میں منقوش ہیں۔ اور اشیاء کا یہی دہ علم ہے جو ذلت دا جب کو ان اشیاء کے وجود امکانی کے واسطہ سے ہوتا ہے۔ خواہ یہ اشیاء از قسم مادیات ہوں یا از قبیل مجردات۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ جواہر عقلیہ جن کے اندر اشیاء کی صورتوں کو منقوش مانا جاتا ہے، ان کو ذلت اول اور اشیاء کے درمیان اس علمی ربط کو قائم کرنے کے لئے واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیشک این جواہر عقلیہ کو واسطہ بنانے کی ضرورت مفروضہ نہیں تو ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ مفروضات جو شخص خیال ہی میں اپناؤ جو درکھستے ہیں اور ان دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فرض کرنے والوں نے غول بیاہی کے لمبے لمبے راست فرض کر لئے ہیں۔ الغرض مطلب یہ ہے کہ ذلت اول کو اشیاء کا علم اشیاء کی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے اُسے جواہر عقلیہ کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم اس میں خوب عنود تذکرہ کر دو۔

چھپا لیسوں مثاہرہ

تمہیرے معاوضہ ہونا چاہیئے کہ ملتوں اور مذاہب کو حق کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے۔ شلاگہ کیا جاتا ہے کہ یہ ملت حق ہے یا یہ مذہب حق ہے۔
اب جو کسی ملت اور مذہب کو حق سے موروث کیا جاتا ہے تو اسے ایک دیکھنے
 والا اس نظر سے دیکھتا ہے کہ آیا یہ ملت یا مذہب اپنی داقعی صورت کے
مطابق ہے یا نہیں۔ ہم نے اس معاملہ میں عذر کیا کہ آخر کسی ملت یا مذہب
کی یہ داقعی صورت کیا ہے کہ اگر وہ اُس کے مطابق ہے تو وہ حق ہے، اور
اگر وہ اُس کے مطابق نہیں تو وہ باطل ہے۔ ہم نے اس کے دوسری معلوم
کئے ہیں۔ ان میں سے ایک توجیلی معنی ہیں، اور دوسرے دقیق، جن کو کہ
دور ہی سے دیکھا جاسکتا ہے۔ جملی معنی کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی ہفتادی
مشکل ہے تو اس کے اپنی صورت داقعی کے مطابق ہونے سے مُراد یہ ہے

کہ خارج میں اُس مسئلہ کی جو صورت ہے، وہ اُس کی واقعی صورت کے مطابق ہو، مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اس اس بات سے ناراض ہوتا ہے تو واقعہ معاملہ ایسا ہی ہو۔ یا اگر یہ دعویٰ ہے کہ مردوں کا حشر کے دن دوبارہ جی اٹھنا جسمانی لحاظ سے ہوگا تو واقعہ بھی یہی ہو۔ الغرض ہر وہ حکم جس میں کہا جائے کہ یہ چیز واجب ہے اور یہ حرام، تو اس حکم کے اپنی صورت واقعی کے مطابق ہونے کے یہ معنی ہوں گے کہ ملائکہ علی میں اس حکم کی جو صورت قائم ہے، یہ حکم اُس صورت کے مطابق ہے مثلاً کے طور پر یہ حکم ہے کہ نماز واجب ہے۔ اب وجوب نماز کے حق ہونے سے مراد یہ ہو گی کہ قضاۃ قدر کی طرف سے ملائکہ علی میں ایک ایسی مثالی صورت نازل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ چون شخص نماز کو اپنا مشوار بناتا ہے تو وہ مثالی صورت جو ملائکہ علی میں قائم ہے، وہ اُس سے شخص کو پستد کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو نماز کو مصبوطی سے بکریتا ہے تو دنیا اور آخرت دلوں میں اس شخص کے نشے کا ترقی کرنا ایک لازمی چیز ہو جاتا ہے۔ اور نیز نماز کی وجہ سے اُس شخص کے نشے سے دہ تاریکہ اثرات جو بینی قوت میں نفس کے انہاں کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، بالکل اُسی طرح جیسے اور کہاں سے بدن میں کرمی پیدا ہوتی ہے اور بھنڈ کا اثر جاتا رہتا ہے۔ الغرض وجوب نماز کے حق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کا یہ حکم ملائکہ علی میں اس حکم کی جو صورت ہے، اُس کے مطابق ہو۔ یہ تو ہمُوا اعتمادات کا معاملہ۔ باقی رہے وہ احمد

جن میں وقت اور زمانے کی قید ہوتی ہے، یا اُنی نظام کے پیش نظر ان احکام کی خاص حدود مقرر کی جاتی ہیں، جیسے نازنی پانچ وقت کی قید ہے۔ اور زکوٰۃ کے لئے کم سے کم دوسو درہ حکم کا ہونا اور ان پر کامل ایک برس کرنے کی شریعت کی طرف سے حد لگائی گئی۔ سو ان احکام کا اپنی صورت واقعی کے مطابق ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو موارے احکام ہیں ان کی ایک اصل ہے۔ اور اس ایک اصل سے ان احکام کے تمام قالب اور ان کے استباح نکلتے ہیں۔ اور اس اصل اور احکام کے ان قالبوں میں ایک تشبیہی وجود پایا جاتا ہے جو طاری علی کے مدارک میں قائم ہے۔ اب اس تشبیہی وجود کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تشبیہی وجود کبھی اصل بن جانا ہے اور کبھی یہ اصل تشبیہی وجود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی ملت اپنے اس تشبیہی وجود کے مطابق ہوتی ہے تو اُس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ ملت حق ہے ۔

اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ فتح کا یہ مذہب مذہب حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مذہب کے احکام ایک تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کے ان ارشادات کے اصل مقصد کے مطابق ہیں، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا وہ زمانہ جس کے مشہود باخبر ہونے پر اس کا اتفاق ہے، اس زمانے میں جس طریقے پر عمل ہوتا تھا، اس مذہب فقر کے احکام اُس لئے خلافت راشدہ کا زمانہ جس میں اُنستہ محمد و متفق نہیں۔

— مترجم

طریقے کے مطابق ہوں۔ اور نیز اگر کوئی فقہ کا ایسا مسئلہ ہے کہ اسکے متعلق نہ تو کوئی نصیت قرآنی موجود ہے، اور نہ کوئی حدیث، تو اس سلسلہ کے حق ہونے کی یہ صورت ہو گی کہ اس ضمن میں تمام قرآن اس امر پر دلالت کریں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر گفتگ فرماتے تو نظرِ غالب یہی ہے کہ وہ اس کے علاوہ بچھد اور نہ فرماتے۔ اور پھر فقہ کے اس مسئلے کے استخراج اور استنباط میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے مگر نفرض سے اس استخراج اور استنباط کی وجہ ظاہر اور وارث ہو۔ کہ اسالیب کلام سے واقف اور احکام شرع میں شارع علیہ السلام کے پیش نظر جو مقاصد تھے ان کا جانشناز والا اس مسئلے کو دیکھئے تو اس اس سلسلہ کے طریقہ استخراج و استنباط کے صحیح ہونے پر شک نہ گزے۔ الغرض مذاہب فقہ کے حق ہونے کی یہ شکل ہے۔

اب رہے ملتؤں اور مذاہب کے حق ہونے کے دوسرے معنی وجود قائم ہیں، اور ان پر دُورِ ای سے نظر پڑھ سکتی ہے، تو ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ذاتِ حق نے چاہا کہ وہ دنیا کی اقوام میں سے کسی قوم کے پھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرنے کے لئے اپنے بندوں میں سے کسی بزرگ بندے کو یہہ تمام کرے کہ وہ ایک انتہ کی تشکیل عمل میں لائے۔ چنانچہ اس طرح یہ بزرگ ذاتِ حق کے ارادہ کا خادم، اور اس کی تدبیر کو بہتر لائے کا ذریعہ، اور اس کی مدد وغیرہ کے فیضان کا سو صونع بن جائے۔ اور اس کے بارے میں ذاتِ حق کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو

نے اس بزرگ زیدہ بندے کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے
اس کی نافرمانی کی، اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی چنانچہ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی
رضاو خوشنودی اسکی اس تدبیر خصوصی میں جو اس بندے کے ذریعہ دنیا میں برقرار
آتی ہے، محدود ہو جاتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب بھی اس کی اس
تدبیر کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ الغرض جب کسی ملت کو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے یہ امتیاز حاصل ہوتا ہے تو اس ملت کے سارے کے سارے احکام حق سے مووم
ہوتے ہیں۔ اور ان احکام کو حق سے مووم کرنے میں جو بات پیش نظر ہوتی ہے، وہ یہ
کہ اس زمانے میں احکام کی صرف اسی رشح اور ان کے اسی قلب ہی میں اللہ تعالیٰ کی
تدبیر مصروف کار ہوتی ہے۔ اور اس رشح اور قلب کے علاوہ اس زمانے میں تدبیر
اللہ کا اور کوئی مظہر موجود نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہی کیفیت فقہ کے ایک خاص
مذہب کی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت چو ایک
ملت کی حفاظت کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ اس سلسلہ میں بعض اسباب کی وجہ سے
فقہ کے ایک خاص مذہب کو اپنا مقصود بنالیتی ہے۔ اور ان اسباب میں سے ایک
سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں اسی مذہب فقہ کو مانند والے ہی ملت کی حفاظت
کرنے والے ہوں۔ یا مشتملاً ایک ملک میں ایک فقہی مذہب کے نام کے تمام پروٹوٹیپ
اور ان کا یہی فقہ شعار خاص و عام میں حق و باطل کے لئے وجہ امتیاز بن گیا ہے اس
حالت میں ملاد اعلیٰ اور ملاد سافل میں اس ملت کا جو وجود ہے ہی ہے، وہ اسی
صورت اختیار کر لتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ملت دراصل اسی فقہی مذہب سے
بخارت ہے اور اس طرح ملاد اعلیٰ اور ملاد سافل کے مدارک میں ملت کے کل احکام
اسی فقہی مذہب کی مخصوص صورتوں میں مقید ہو جاتے ہیں چنانچہ اس طرح

یہ فقہی مذہب، مذہب حق بن جاتا ہے اور اس کے حق ہونے کا مدار ملا و اعلیٰ اور ملا و ساقل کے اس وجود تشبیہ پر ہوتا ہے جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔

الغرض کسی ملت یا مذہب کے حق ہونے کے جو معنی ہیں اور ان معنوں کے جو دو پہلو میں تو چہاں تک ان معنوں کے جلی پہلو کا تعلق ہے اس تک تو رسمخین فی العلم "لَا گر وہ اپنے علم کے ذریعہ اور اہل استنباط کی جماعت اپنے استنباط سے ہر پنج جاتی ہے، لیکن جوان معنوں کا دقيق پہلو ہے اس تک تو صرف نور نبوت کی مدد سے ہی رسائی ممکن ہے۔ اور اس نور نبوت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس تدبیر الہی کے احکام کا جس کے زیر تصرف مدار کے سارے انسان ہیں انکشاف ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ نور نبوت کا حصول عام چیز نہیں ہے اس لیے یہ پہلو جلی نہیں بلکہ دقيق ہے۔ اور اس پر دورہی سے نظر ڈالی جاسکتی ہے۔

یہ بحث تو ختم ہوئی۔ اس سلسلہ میں اب ہم ایک اور بات کہتے ہیں مجھے دلکھایا گیا ہے کہ حنفی مذہب میں ایک عجیق راز ہے۔ چنانچہ میں اس عجیق راز کو برابر غور سے دیکھتا رہا اور میں نے اس میں وہ بات پائی جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں میں نے دیکھا کہ کسی فقہی مذہب کے حق ہونے کا جو دقيق پہلو ہے، اس کے لحاظ سے آج اس زمانے میں حنفی مذہب کو باقی سب مذاہب فرقہ پر ترجیح حاصل ہے گو جعن موسر مذہب فرقہ کی مذہب کے حق ہونے کا جلی پہلو ہے اس کے اعتبار سے حنفی مذہب پر ترجیح رکھتے ہیں۔ میں نے اس مضمون میں اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ حنفی مذہب کا نہیں وہ عجیق راز ہے جس کو بسا اوقات ایک صیانتی کشف کسی حذرنک اور اک کرتا ہے۔ اور اپنے اسی اور اک کی بناء پر وہ حنفی مذہب کو باقی تمام مذاہب فرقہ پر ترجیح دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس صاحب کشف کو اس امر کا الہام بھی ہوتا ہے کہ مذہب حنفی کا سختی سے پابند ہوا اور کبھی یہ صاحب کشف ردیا رہیں

کوئی الگی پیغام دیکھتا ہے جو اسے مذہبِ حقیقی کو اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ بہ جل اس مسئلہ کی اصل حقیقت وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کردی تھیں چاہیے کہ تم اس حقیقت کو مفہومی سے پکڑو اور اس پر خوب خود تدبیر کرو۔

آخری مشاہدہ

میں کعبہ مشرفہ میں داخل ہوا اور میں نے وہاں اپنے باطن کی طرف توجہ کی تو مجھ پر صراطِ مستقیم کی حقیقت کی تجلی ہوئی۔ صراطِ مستقیم کی حقیقت کو ایک فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا تھا۔ آپ نے ایک خط کی پیغام اور پھر اس خط کے دونوں طرف آپ اور خط کی پہنچتے چلے گئے اور آخر میں فرمایا کہ یہ پیغام کا خط صراطِ مستقیم ہے۔ لفڑی مجھ پر کعبہ مشرفہ میں صراطِ مستقیم کی حقیقت کی تجلی ہوئی اور میں نے دیکھا کہ نفوس انسان کے احوال و کوائف کے بیچوں بیچ صراطِ مستقیم کی یہ حقیقت موجود ہے اور اس کا ایک حصہ تو اپر سے متصل ہے اور پھر اس سے ذرا بینچے ہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ انسانوں میں سے ہر طبقہ کا خواہ وہ طبقہ زکی ہو یا غنی، اپنا اپنا صراطِ مستقیم ہوتا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ صراطِ مستقیم زکی طبقہ کے کسی خاص مرتبے کا نام نہیں ہے بلکہ صراطِ مستقیم عبارت ہے احکام۔

اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ایک خاص حد تک ثابت قدم رہنے سے اس ضمن میں میں نے تو یہ پایا کہ کویا خود مرتباً حق نفوس انسانی میں صراطِ مستقیم کی حقیقت کا القادر فرماتا ہے۔ چنانچہ جن نفوس میں العام حی کو قبول کرنے کی زیادہ

صلاحت ہوتی ہے وہ تو اس القاء کو قبول کر لیتی ہیں اور جن میں الہام الہی کو قبول کرنے کی کم استعداد ہوتی ہے، وہ اس القاء سے کم مستفید ہوتے ہیں۔ اور میں نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ صراطِ مستقیم تک پہنچنے کے لیے نفوس کو زیادہ مشقت نہیں کرتی پڑتی اور نیز میں نے دیکھا کہ حشر کے دن دوزخ کے اوپر جو گل ہو گا اور جس پر کہ سب کو گزرنا پڑے گا، وہ اسی صراطِ مستقیم کی حقیقت کا پیکر مثالی ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں عالمِ نفوس کے اندر صراطِ مستقیم کو ایک معنوی شکل دی ہے اسی طرح وہ دوسری زندگی میں عالم آفاق میں صراطِ مستقیم کو کوئی صورت دے گا۔ میں نے دیکھا کہ صراطِ مستقیم کو کعبہِ شرفہ کے حوف یعنی اس کے اندر کے حصے سے خصوصی تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سی پیریں ایسی دیکھیں کہ ان میں اور صراطِ مستقیم کے ان معافی میں بڑی مناسبت تھی اغرضِ حشر کے دن صراطِ مستقیم کے یہی معانی ہیں جو مثالی صورتوں میں مشکل ہو جائیں گے۔ اور یہی راز ہے اس عالم میں سب سجد نبوی اور سجد نبوی کے اس سنتوں کے ظاہر ہونے کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقات میں روایات ہا۔ اور شیرین یہی راز ہے آپ کے اس ارشاد کا کہ میرے میرے منیر اور میرے گھر کے درمیانِ جنت کے باعثوں میں سے ایک باعث یہ ہے۔

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی شامل ہے۔ انسان اپناروں سے اور اختیارات سے جو بھی افعال کرتا ہے ان افعال کے اپنے اسباب ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان افعال کا اس شخص سے صادر ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ مجیسے کہ انسان ایک کام کرنے کا عزم کرتا ہے تو پہلے اس کے نفس کے اندر اس کام کے لیے ایک جسمی الادھ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس شخص کے اعضاء و جوارح اس کے اس ارادہ نفس کا اعلان

کرنے ہیں اور اس طرح اس سے وہ کام صادر ہوتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے اور بہت سے مخفی اسباب ہیں جو انسانی افعال کے لیے ذریعہ ظہور ہنتے ہیں اور وہ اتنے عجیق ہیں کہ بہت کم ہی ان کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ ان اسباب پر اسے ایک عزم کے لفظ انسان کے افعال میں سے ہر فعل کی کوئی ذکوئی علت ضرور ہوتی ہے جو اس کے اس فعل کے ظہور پر یہ ہونے کا باعث ہنتی ہے مثلاً ایک شخص کے دل میں کوئی پکا عقیدہ تھا۔ اور اس کے لیے عقیدہ کا نتیجہ یہ ملکا کہ اس شخص کے اندر شوق و ذوق پیدا ہو گیا۔ یا کسی خاص حالت میں ایک شخص کے لفظ میں کوئی خیال آیا۔ اور وہ خیال عمر کی صورت میں متبدل ہو گیا۔ لفظ انسانوں کے افعال کے جو اسباب ہیں ان اسباب کی بھی اپنی علتیں ہیں اور ان علتوں کا سلسلہ برابر آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں یہ وجوب قطعی پر فتح ہوتا ہے مختصر اپنے افعال صادر تو بندوں کے ارادوں سے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے اس ضمن میں یہ ملحوظ ہے کہ انسان کا ارادہ بھی ان افعال کے اسباب کے لیے بطور ایک امر واجب کے ہے۔ چنانچہ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو یہ ارادہ اُس کے جو ہر نفس سے اس طرح چھٹ جاتا ہے کہ مھر جو کچھ اس کے لفظ سے صادر ہوتا ہے اسی ارادے کی مرضی سے صادر ہوتا ہے اور اسی ارادے سے ہی کے ذریعے اس کے لفظ کی قوتوں میں سے کسی قوت کو حرکت ہوتی ہے۔ جب ارادہ اس طرح نفس میں خیل ہو جاتا ہے تو اگر نفس اُس ارادے کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے نفس کو اذیت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ارادے کی مطابقت کرتا ہے تو نفس کو صرف ملنی ہے نفس کی افریت اور صرف کی بعض خارجی تقریبیں بھی ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ کہ اس ارادے کی جو مخصوص مثالی صورت ہے وہ نمونہ ہوتی ہے۔ اسی کی مطلق مثالی صورت کا

اپ چب لارے کی اس مطلق مثالی صورت میں اذیت یا مرست کی کیفیت پریلہ ہوتی ہے تو وہ فرشتے جو اس نہ رہ
پر مقرر ہیں، انکو اس بارگاہ سے الہام ہوتا ہے اور وہ انس میں اذیت اور مرست پر کرنے والے بباب بن جاتے ہیں
اور یا اس نفس کی اذیت اور مرست کا یہ سبب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کا ارادہ کیا اور اس ارادہ کی
کاش اس نفس پر پڑا اور اسکی وجہ سے اگر وہ اچھا ہے تو اسے اس ارادہ کی سے ستر ہوئی اور اسے اذیت بہنچی اور یہ
شوواہ اس دنیا کی زندگی میں ہو یا اس زندگی کے بعد وسری نیا میں۔ الغرض نفس کی اذیت بلکہ مرست کے یہ بخوبی لحاظ ہیں
ان میں سے ہر لحاظ کی اپنی بہنچتی علیقہ ہیں اور اس دنیا میں کوئی چیز وجود نہیں آسکتی جب تک اس چیز کی علیقہ اسکے موجود میں آئے کو اجنب نہ
جس طرح ہر چیز کی ایک علیقہ متفہم ہوئی جو اسکو اس دنیا میں لانے کا بدببنی ہے ابھی طرح بدلتے
اول کی طرف سے شریعتوں کا ظہر ہو پذیر ہونا بھی اجب تھہرا یا گیا اور اسکے ظاہر ہونے کی صورت یہ مقرر ہوئی کہ
اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان یا تھا کہ جس زمانے میں کوئی شریعت نازل ہوگی، اس زمانے میں خیر و فلاح
صرف اسی شریعت کی صورت میں محدود ہوگی۔ اس لئے ضروری ہوا کہ وہ صالح نفوس جو شیطانی الائشوں سے مطلقاً
نہیں ہوتے ان نفوس میں اس شریعت کے متعلق جبکہ وہ صاحب شریعت سے مجرماً صادر ہوتے ویکھیں پختہ اعتقاد پر یہ
ہو اور اسی طرح عقل صحیح بھی اس شریعت کے ہمچنانے والے کے سچے ہونے پر لالٹ کرے اور وہ اس امر کی تصدیق
کرے کہ صاحب شریعت نے اقیٰ بارگاہ غیر سے اس شریعت کو کیا اور نیز مدد میں اول کی طرف سے اس ضمن میں
یہ بھی ضروری قرار پایا کہ زیادہ نفوس فنظر تا پختہ اعتقاد والے سے اثر
پذیر ہوں اور اس کی وجہ سے اور ان نفوس میں حرم و ارادہ کی ایک لہر دوڑ جائے
الفرض شریعتوں کے ظہور کے سلسلہ میں بعد اسے اول کی طرف سے یہ پہلے سے
مقدرت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صدور ہوا اور اس نے پیغمبر وہ کوی عوٹ
فرمایا اور ان پر کتا بیں نازل کیں اور اس طرح اس کی نعمت کا انتمام ہوا، اور واقعہ
یہ ہے کہ وہ دلیل جو دلوں میں گھر کر لے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

کتب قصص و اسلامی حکایات و نیزہ

قصص القرآن	قرآن کی سوائیں جیات اور آنکھ میں مسلم کی دعوت حق کی مستند کامل مارچلہ مولانا رشی
قصص الانبیاء	حضرت آدم سے لے کر آنکھرت اور خلفائے راشدین داگرہ اور بدر کے حالات زارخ و تفسیر بد تحقیقہ کتاب
قصص الانبیاء	(انگریزی) مندرجہ بالا کتاب کا انگریزی ترجمہ صہابہؓ کے حالات میں تبلیغی جماعت کی مشہور کتاب
حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات	حضرت تھانویؓ کے مواعظ و حکایات سے جمع کردہ عالم فہم بحوث مولانا ابوالحسن علی
طائف علمیہ ترمیہ کتاب الاذ کیا	نزات بقل و دلائی اور ما خر جوابی و نیروں کی دلپیٹ کتاب، الامین جوزیؓ اواسطہ ثلاثیٰ بدید
حکایات صحابہؓ	صہابہؓ کی بچی اور مستند ول چسب حکایات۔ مولانا محمد ذکریاؓ
علیؑ کشکول	علیؑ اخلاقی، تاریخی دلپیٹ مفہوم۔ مجلد حافظ محمد شفیعؓ
فسانے آدمؓ	حضرت آدم و حوالیہ السلام کا پچاول پیپ قرآن قصر حافظ محمد شفیعؓ
بخلوہ طور	حضرت موسیٰ ملیہ السلام کا پچاول قرآن ول چسب قصر
داستان یوسفؓ	حضرت یوسفؓ اور زین العابدین کا پچاول قرآن ول چسب قصر
تابرجستیہ مسافیؓ	مشہور پیغمبر حضرت سليمان و ملکہ طبعیں کا پچاوقصر
ملت ابراہیمؓ	مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کا پچاوقصر
معجزات مسیحؓ	حضرت مسیح ملیہ السلام کا پچاوقصر اور معجزات
معراج رسولؓ	آنکھرت ملی اللہ طیبہ وسلم کی معراج کا قصر
صبر ایوبؓ	حضرت ایوب ملیہ السلام کے صبر کا دلپیٹ پچاوقصر
طوفان نوحؓ	مشہور پیغمبر حضرت نوح ملیہ السلام کا دلپیٹ پچاوقصر
قضیہ یونسؓ	مشہور پیغمبر حضرت یونس ملیہ السلام کا دلپیٹ پچاوقصر
قضیہ چرچیلؓ	حضرت جریس پیغمبر کا دلپیٹ پچاوقصر
قضیہ اصحاب کوفہ	ان دینداروں کا قصر جو کئی سو سال تک غار میں سوتے رہے
موت کامنطر	شداد اور اس کی جنت اور مجرت ناک انعام
بستان اولیاء کامل	اویار اللہ اور مقبول بندوں کے دلپیٹ حالات
روزہ حشر	میدان حشر جنت دوزخ حساب کتاب کا قصر
شهادت حسینؓ	حضرت حسین و حسن رضی اللہ عنہم کے حالات
عشق المہنی	اللہ تعالیٰ سے عشق کے اویار اللہ کے حالات
ذیکی بدی	نیکی و بدی کے متعلق دلپیٹ کتاب
آنحضرتؐ کے تین سو معجزات	آنحضرتؐ کے تین سو معجزات قرآن و حدیث سے۔ مولانا جمیل
مسلمان ذاتیں	زارخ اسلام کے مشہور واقعات احمد مصلح صدیقی راہی
نہر کتب نہ نہ راکیں پیچ کر طلب فرائیں	دارالرشاد احمدیت اردو بازار کراچی میٹ نون ۲۱۳۴۸

کتاب عقائد و مناظرہ وغیرہ

اختلاف امت اور صراط مستقیم | گروہی اختلافات کی حقیقت اور اس میں الحدال کا طریقہ۔ مولانا محمد یوسف بخاری

تردید شیعہ میں بے نظیر کتاب۔ محسن الائک محمد سیدنی خاں

آیات بیانات

مولانا محمد منظور نہماں

امام خینی اور شیعیت

ایرانی المقلب

مولانا فضیل احمد صاحب

عقائد علماء اہل سنت

المہند علی المفتض

مولانا فضیل احمد محدث

جواب انوار ساطعہ (جلد)

براہین قاطعہ

مولانا محمد عاشق الہی مہاجر مدین

کے نئے محسنہ فکریہ

پریلوی علماء و مشائخ

شرک و بدعات کی رو میں مشہور کتاب

شاہ اسماعیل شہید

تفویتہ الایمان لآن

توحید و منت کے اچیار اور شرک و بدعات کا رد

شاہ اسماعیل شہید

تفویتہ الایمان

مولانا عبد الشکور مرزا پوری

مردوہ میاد و قیام کی مفصل تاریخ

تاریخ خرمیلان

(جدید ترجمہ) تردید شیعہ میں لا جواب کتاب۔ شاہ عبدالعزیز زہبی (مجلد)

یعنی نسٹہ ابن سا اور شیعہ مذہب کی تاریخ۔ مولانا عبد الشکور لکھنؤی

دینی سائل و عقائد اسلام پر سریدا جم خاں سے مرسلت۔ مولانا محمد قاسم ناؤ توی

مولانا محمد قاسم ناؤ توی

نخت نبوت اور فضائل محمدیہ

تصفیتہ العقائد

مولانا محمد قاسم ناؤ توی

حفاظت اسلام

حجۃتہ الاسلام

ابن خازم التوحید بر نگم

بریلوی کتاب زلزلہ کا جواب

دھماکے

شرک و بدعات اور رسم کا رد اور دعوت حق

محمد پالن خانی

شریعت یا جہالت

احمد رضا خاں کی کتاب حسام المریین کے تین جوابوں کا مجموعہ مولانا منتظر نہماں

مولانا محمد تقی عثمانی

عقائد علماء دیوبند

عیسائیت اور اس کے بانی کی تاریخ

مولانا محمد عاشق الہی مہاجر مدین

عیسائیت کیا ہے ؟

خود اپنے آئینے میں

مولانا قاری محمد طیب

قادیانی چھپرہ

دیوبندی ہی اہل سنت ہیں

مولانا قاری محمد طیب

سلک علماء دیوبند

کی تحریرات کے متعلق مضامین

از علماء دیوبند

مودودی صاحب

ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مشہور مباحثہ

مولانا محمد قاسم ناؤ توی

مباحثہ شاہ جہانپور

مشہور میلہ خداشناسی کا آنکھوں دیکھا حال

مولانا محمد قاسم ناؤ توی

میلہ خداشناسی

علمائے شیعہ کے دس سوالوں کا مفصل جواب

مولانا شیداحمد نگوہی

ہدایتہ الشیعہ

فہرستہ کتب مفتتہ ذاکر کے نکٹے بھیج کر طلبہ فرمائیں

ملنے کا پتہ، دارالافتکار اردو بازار کراچی نون ۱۹۷۸ء

عورتوں اور بچوں کے لئے بہترین اسلامی کتابیں

اسوہ رسول اکرم	صہبی شنیدگی سے تعلیم کا ہر بہلو کے سلسلہ جاتی ہے۔ ذکر مجدد المی
اسوہ صحابیات اور یہ رضی اللہ عنہم	صحابی نوائیں کے حالت میں مدد اسلام درودی
تاریخ اسلام کامل	سال و ہوایب کی صورت میں سکھی سیرت پڑھنے مولانا محمد عیاش
تعلیم الاسلام	(راہ رو) سوال و جواب کی صورت میں حقائق اور دعا کا اسلام مفتی محمد کنایت اللہ
تعلیم الاسلام	(انگریزی) سوال و جواب کی صورت میں حقائق اور دعا کا اسلام زبان انگریزی
رسول عربی	آسان زبان بس سیرت رسول اکرم اور فتنیں
رحمت عالم	آسان زبان میں سقند سیرت پڑھنے مولانا سید میلان نڈی
بیماریوں کا لکھنؤ علاج	بیماریوں کے لکھنؤ علاج بیبی آم انفل
اسلام کا نظائر عفت و عصمت	اپنے موہر سا پر عفت و عصمت مولانا نعیم الدین
اداب زندگی	بیماریوں کی تابوں کا جرمہ حقوق و معاشرت پر مولانا اشرف مل
بیہشتی زیور	(راہ سلیمانی، جنتی) اعلام اسلام اور سکریو اور کی بائیع مشہور کتاب
بیہشتی زیور	(اعزیزی تریخ) اعلام اسلام اور سکریو اور کی بائیع کتاب بزرگ انگریزی
تحفۃ العروس	منڈاک کے سرخور دا پہاڑ دیوان میں پہلی بائیع کتاب گورنبدی
آسان نیاز	غذہ مکمل پٹشل کیے اور ہم ایس سفروں و مائیں مولانا سید ماثن اہنی
شرعی پرداہ	پرداہ اور بباب پر عدہ کتاب
علم خوانین گلے بیس بیق	عورتوں کے لئے تعلیم اسلام
مسلمان بیوی	مرد کے متوقع صورت پر مولانا سید ریاض نصیری
مسلمان خاوند	عورت کے حقوق مرد پر
میان بیوی کے حقوق	عورتوں کے وہ متوقع جو مرد ادا نہیں کرنے مفتی جمیل الدین
نیک بیبیان	پار مشہور صحابی خواہیں کے حالت مولانا امیر مسیح
خواتین گلے شرعی احکام	عورتوں سے مشلق بدل سائل اور حقوق ڈاکٹر جمیل الدین مارلن
تبیہہ الغافلین	ہمسہ پیروں جسی نسبتیں تکیا: اتوال اور سعید اور ریاض کے مذاہب اور تعلیمات
حضرت کے ۲۰۰ معجزات	حضرت ۲۰۰ مہرات اسناد ذکر
قصص الانبیاء	ذہبیں دل کی لئنزوں پر شغل بائیع کتاب مولانا عابد سرور
حکایات صحابہ	صحابہ کرم کی بیاذ حکایات اور واقعات مولانا ازگر امام
کنادہ لذت	ابیے گاہوں کی نسبیتیں میں کرنے کا درجہ نہیں اور ہم بتلائیں
لذت بیجے رب تائید	دارالامثال اعتمدت اندوبازار کراچی پر بننے کے نونیہ 2213768

Email: ishaat@cyber.net.pk, ishaat@pk.mtsol.com

لذت بیجے رب تائید



DIU-7107